


# دانش

۲۲ تابستان ۱۳۶۹

فضله ریوی فرهنگ سفارت جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد



## قابل توجه نویسندها و خوانندگان **دایلش**

- ✿ مجله سه ماهه «دایلش» مشتمل بر مقالاتی پیرامون زبان و ادب فارسی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و شبه قاره می باشد.
- ✿ بخشی از مجله به مقالات فارسی و بخش دیگر به مقالات اردو اختصاص می یابد.
- ✿ مقالات ارسالی جهت «دایلش» نباید قبل از منتشر شده باشد.
- ✿ به نویسنده که مقاله آنها جهت درج در «دایلش» انتخاب می شود، حق التحریر مناسب پرداخت می شود.
- ✿ مقاله ها باید تایپ شده باشد. پاورقی ها و توضیحات و فهرست منابع در پایان مقاله نوشته شود.
- ✿ «دایلش» کتابهای را در زمینه های زبان و ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و ایرانشناسی معرفی می کند. جهت معرفی کتاب دو نسخه از آن به دفتر «دایلش» ارسال شود.
- ✿ آراء و نظرهای مندرج در مقاله ها، نقد ها و نامه ها ضرورتاً مبین رأی و نظر مسئول رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست.
- ✿ هر گونه پیشنهاد و راهنمایی خود را به آدرس زیر ارسال فرمائید.

مدیر مسئول **دایلش**

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران  
خانه ۲۵ - کوچه ۲۰ - ایف ۲۶ - اسلام آباد - پاکستان  
تلفن: ۸۱۸۲۰۳ - ۸۱۸۱۳۹

۲۲

# دائلش

تابستان ۱۳۶۹

فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد

مدیر مسئول


رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

مدیر مجله

دکتر سید سبط حسن رضوی

مشاور افتخاره

دکتر سید علی رضا نقوی



۰۷۸۷۸ - ۰۷۸۷۸ : نیم

# مکلورو ۱۱۵

\* حروف چینی: گرافک الیون، لاہور فون: ۲۲۲۷۸۴

\* چاپ خانه: منزا پریس، اسلام آباد

\* محل نشر: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران  
خانہ ۲۵، کوچہ ۲۷، ایف ۶/۲، اسلام آباد، پاکستان

تلفن: ۸۱۸۱۴۹ - ۸۱۸۲۰۴

## فهرست مطالب

|     |   |
|-----|---|
| ١٣٦ | سخن دانش  |
| ٩٨٧ | نگاهی به اینجا  |
| ٥٦١ | نگاهی به اینجا  |
| ٤٧٧ | <b>بخش فارسی</b>  |
| ٢٠٦ | این بار نیز همچون که از تذلیل متنی آنها اینجا نگاهی کردند       |
| ١٧٦ | نهج البلاغه   |
| ٧   | دکتر جعفر شهبدي   |
| ١٩  | نگاهی به شخصیت علی اکبر دهخدا                                   |
| ٢٥  | اولین و آخرین دیدار با خواجه عبدالحمید عرفانی دکتر حکیمه دبیران |
| ٣٥  | سید محمد عبدالرشید فاضل   |
| ٦١  | ترجمه های متون فارسی  |
| ١٠٥ | البیرونی  |
| ١٢٥ | شعر فارسی و اردو  |
|     | دکتر سید وحید اشرف، اعظم السادات میر سلیمانی،                   |
|     | غلامرضا مرادی، علامه طباطبائی، وزیر الحسن عابدی،                |
|     | عاصی کرنالی، زبیده صدیقی، سید فیضی، افضل منهاس                  |
|     | عبدالغفور آرزو، ظهور الحسن خان ارزش                             |
| ١٤٣ | اخبار فرهنگی  |
| ١٥٥ | کتابهای تازه  |
| ١٥٩ | وفیات   |

## بخش اردو

علامہ میر عبدالجلیل واسطی کی

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| فارسی تاریخ گوئی               | سید تقی رضا بلگرامی ۱۶۱  |
| تحفہ الاحباب                   | غلام حسن بلستانی ۱۸۳     |
| مظہر اور دیوان مظہر            | عبدالرزاق ۱۹۵            |
| فیضی اور لطیفۃ فیاضی           | ڈاکٹر قمر غفار علیبگ ۲۲۷ |
| مقالاتیکہ برای دانش دریافت شد  | ۲۵۲                      |
| کتابہانیکہ برای دانش دریافت شد | ۲۵۴                      |

## بخش انگلیسی

1. AL-TABARI.A Historian,Historiography in Islam.

by: Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi 1 to 16



لی مایه‌گاری داشتند و نویسنده‌اند و نویسنده‌اند. این تساوی معنی  
می‌باشد که در این انتشارات بسیار، من می‌توانم مقاله‌ای را که نوشته‌ام  
و منتشر نمایم و بسیاری از افراد این انتشارات را نیز خواهند  
نمودند. گردنی و دوسایی. تساوی باشد.

## سخن‌دانش

لی مایه‌گاری داشتند و نویسنده‌اند و نویسنده‌اند. این تساوی معنی  
می‌باشد که در این انتشارات بسیار، من می‌توانم مقاله‌ای را که نوشته‌ام  
و بسیاری از افراد این انتشارات را نیز خواهند نهادند. این می‌باشد

فصلنامه دانش این بارنیز همچون گذشته با مقاله‌های ارزشمند از  
استادان مسلم زبان فارسی در ایران و پاکستان در سه بخش و با سه زبان  
فارسی و اردو و انگلیسی به دوستداران علم و ادب و شیفتگان زبان و  
ادب پارسی تقدیم می‌گردد. زبان فارسی و فرهنگ و مذهب مشترک،  
مایه‌های اصلی پیوند دوکشور دوست و همسایه ایران و پاکستان است و  
امید است که این فصلنامه هرچه بیشتر بتواند دراستواری پیوندهای این  
دو ملت مؤثر باشد. سخن خاص این سرآغاز پیرامون سال بزرگداشت حکیم  
شاعران و شاعر حکیمان استاد ابوالقاسم فردوسی است.

اگر منظمه‌ها و سروده‌های ایلیاد و ادیسه اثر هومر یونانی و  
مجموعه مها بهارت هندی به عنوان آثار بزرگ حماسی شهرت یافته است،  
بدون تردید شاهنامه فردوسی هم از بزرگترین آثار حماسی و ادبی جهان به  
شمارمی رود. کیست که شاعر بزرگ و شرافتمد طوس را نشناسد و اثر  
مهم او راندیده یا نشناخته باشد. آوازه حکیم ابوالقاسم فردوسی همه جهان  
را پُر کرده است. کتاب عظیم شاهنامه پشتوانه و سند ارزنده زبان پارسی  
است. زیانی که از گاتان اوستا تا بهین آثار ادب امروزی بیش از سه بزار  
سال پیشینه دارد. سال ۱۹۹۰ میلادی از طرف یونسکو به عنوان سال  
فردوسی اعلام شده و حقیقت آن است که هرسال و هر زمان، سال و زمان

فردوسی است زیرا که او مجموعه بی از باورداشت‌های راستین را همراه با حکمت عملی و اخلاقی و سیاست مدن، در قالب داستانهای حماسی تعلیم داده و جهانی را از سرچشم‌های حکمت و اخلاق و مذهب و سیاست سیراب کرده است.

در شبه قاره هند و پاکستان پاره بی چنان پنداشته اند که تنها حافظ و سعدی و مولوی و نظامی و جامی و امیر خسرو غنونه های مؤثر شاعران و ادبیان به شمارمی آیند و از سخنسرای طوس به عنوان آن که شاعری ملی است و داستانهای ایرانی را به نظم آورده، سخن کمتر گفته اند. حال آنکه اگر با نظری دقیق بررسی کنیم، بسیار جنگنامه‌ها و فتح نامه‌ها و سوگنامه‌ها و تاریخهای منظوم توان یافت که زیر نفوذ شاهنامه سروده شده است. بی شک زیانی که بزار سال در این منطقه پر نفوذ راه یافته نمی توانسته اثر عظیم شاهنامه را با خود نیاورد. نه تنها ده‌ها کتاب بلکه صدها کتاب منظوم و غیر منظوم را توان یافت که به نوعی شاعران و نویسنده‌گان در آنها منظومة بزرگ مردم خراسان را سر مشق و غنونه کا ر خود قرار داده اند.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران این سال را بسیار بزرگ می دارد و امیدوار است که بتواند با همکاری دیگر غایبندگیهای فرهنگی ایران در پاکستان در اندازه توان خود کنگره بزرگداشتی برای فردوسی و شاهنامه بر پا گرداند که هر چه در بزرگداشت سخنور طوس بگویندو بنویسند بازهم کم است و یک از صد بشمار نیاید. از دانشوران فارسی دان و جستار گران دانشمند پاکستانی انتظار می رود که در بزرگداشت این چهره انسانی و این شاعر حماسه سرای بزرگ، سخنها و نوشته‌های پر ارزش پدید آورند و دروس ارتباط جمعی و روز نامه‌ها و مجلات قلمی گردانند که فردوسی تنها متعلق به ایران نیست بلکه او به همه جهان فارسی زیان و جهان اخلاق و حکمت و حماسه تعلق دارد و

سخن دانش

فردوسی ستایشگرِ دین و دانش و خرد است.

خرد رهنمای و خرد دلگشای  
خرد دست گبرده بِر دوسراي

\*\*\*

تو را دین و دانش رها ند درست  
ره رستگاری ببایدت جُست

تیر- شهریور ۱۳۶۹ هـ-ش

صفر ۱۴۱۱ هـ-ق

ستمبر ۱۹۹۰ میلادی

وَصَلَ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُحْمَدِ وَآلِ الظَّاهِرِينَ

دوریان هزار چهل نام که مصنفات، مقالات و مذاکراتی هستند  
سلامات پر کتاب های خود را هاده آذربایجانی نمایند. چون در این مجموعه  
محتواهی کتاب منطبق نیست و من نوایم. گفت این شاعر میگوید: «کسی که  
روایت شیوه رئیس رحمة الله از ائمه اکبر را میگذراند و میخواهد از  
السماء» ۱۱۱۱. زاد سخن رساله گفته را در این موضع میگذراند.  
آنکه بخواهد هریں میتواند با هم میتوانند که این را کلمه وی  
پنهان چاند و به جمال آراسته و لفظ آن سمعه و میتوانند اینها را برآورده  
باشد. در این مجموعه بنگرد و آنرا باید میگذراند. چنانچه داشتن رای بکار برداشته  
نمیگذشت بلکه در گفته و مذاکراتی که این شاعر در این موضع میگذراند این را میگذراند.

حساینه علی شاه و نویسنده پیشنهاد را داشتند  
فردوسی است زیرا که از مجموعه بی از تاریخ اشناخته ای را داشتند  
حکمت عالی و اخلاقی داشتند، در مقابل داشتanhای خانسی شاه  
زاده و جهان را از سرمهشیدن و فرشیدن اخلاق و مذهب و سیاست  
سپاهان کردند است. ۱۷۲۰ و همچنان نسبت به

در اینه قاره علت و یا سبب ۱۷۲۱ بر چنان پنداشته اند که این  
حالظ و سعدی و مولوی و مولوی و مولوی و مولوی و مولوی و مولوی  
شاعران و ادبیان به شرطی ۱۷۲۲ اینه کسی کو طرس به عنوان آن که  
شاعری ملن است و داشتanhای امیر و امیر شاهم آفروده، سخن کثیر گفتند  
اند. حال آنکه اگر با نظری دغدغه سرمهی کشیم، بسیار جنگکاریه ها و فتح  
لاده ها در ۱۷۲۳ ۱۸۸۵-۱۸۸۶ و ۱۷۲۴ میشه شاهانه باقت که زیر نظر شاهامه  
سرمهه شده است. بر شاه ریاض که بزرگترین در این منظمه بود ۱۷۲۵ را  
۱۷۲۶ باقت ۱۷۲۷ لیسته از عذر شاهانه باشد را به خود نهاد. له همها در ها  
کتاب ۱۷۲۸ میشه ۱۷۲۹ میشه مظفر را ۱۷۳۰ بروان ۱۷۳۱ باقت که به عرض  
شاهزادان و نویسنده گان در آنها مطلعه بودند. مزبور شاهزادان و نویسنده ها  
موضع خود خود غرار دادند اند.

دانه سیاه هنگی سفارات یوسفی امیر اسکندری ایلخانی ۱۷۳۲ بسیار  
دوستگان دارد و امید وار است که بتواند باز هم کاری ۱۷۳۳ کند ۱۷۳۴ گیری  
در هنگ ایران در یاکستان در ایلخانیه کوچه خود که از اینه یونگانیه هایی برای  
در خود و شاهزاده های بزرگ آنکه اند که در جهود ۱۷۳۵ که ۱۷۳۶ گذشت سخنور طرس  
یونگانیه هایی برای خود گذاشتند ۱۷۳۷ که ۱۷۳۸ است ۱۷۳۹ که ۱۷۴۰ بهم ۱۷۴۱ که ۱۷۴۲ است ۱۷۴۳ که ۱۷۴۴ است ۱۷۴۵ که ۱۷۴۶ است ۱۷۴۷ که ۱۷۴۸ است ۱۷۴۹ که ۱۷۵۰ است ۱۷۵۱ که ۱۷۵۲ است ۱۷۵۳ که ۱۷۵۴ است ۱۷۵۵ که ۱۷۵۶ است ۱۷۵۷ که ۱۷۵۸ است ۱۷۵۹ که ۱۷۶۰ است ۱۷۶۱ که ۱۷۶۲ است ۱۷۶۳ که ۱۷۶۴ است ۱۷۶۵ که ۱۷۶۶ است ۱۷۶۷ که ۱۷۶۸ است ۱۷۶۹ که ۱۷۷۰ است ۱۷۷۱ که ۱۷۷۲ است ۱۷۷۳ که ۱۷۷۴ است ۱۷۷۵ که ۱۷۷۶ است ۱۷۷۷ که ۱۷۷۸ است ۱۷۷۹ که ۱۷۸۰ است ۱۷۸۱ که ۱۷۸۲ است ۱۷۸۳ که ۱۷۸۴ است ۱۷۸۵ که ۱۷۸۶ است ۱۷۸۷ که ۱۷۸۸ است ۱۷۸۹ که ۱۷۹۰ است ۱۷۹۱ که ۱۷۹۲ است ۱۷۹۳ که ۱۷۹۴ است ۱۷۹۵ که ۱۷۹۶ است ۱۷۹۷ که ۱۷۹۸ است ۱۷۹۹ که ۱۸۰۰ است ۱۸۰۱ که ۱۸۰۲ است ۱۸۰۳ که ۱۸۰۴ است ۱۸۰۵ که ۱۸۰۶ است ۱۸۰۷ که ۱۸۰۸ است ۱۸۰۹ که ۱۸۱۰ است ۱۸۱۱ که ۱۸۱۲ است ۱۸۱۳ که ۱۸۱۴ است ۱۸۱۵ که ۱۸۱۶ است ۱۸۱۷ که ۱۸۱۸ است ۱۸۱۹ که ۱۸۲۰ است ۱۸۲۱ که ۱۸۲۲ است ۱۸۲۳ که ۱۸۲۴ است ۱۸۲۵ که ۱۸۲۶ است ۱۸۲۷ که ۱۸۲۸ است ۱۸۲۹ که ۱۸۳۰ است ۱۸۳۱ که ۱۸۳۲ است ۱۸۳۳ که ۱۸۳۴ است ۱۸۳۵ که ۱۸۳۶ است ۱۸۳۷ که ۱۸۳۸ است ۱۸۳۹ که ۱۸۴۰ است ۱۸۴۱ که ۱۸۴۲ است ۱۸۴۳ که ۱۸۴۴ است ۱۸۴۵ که ۱۸۴۶ است ۱۸۴۷ که ۱۸۴۸ است ۱۸۴۹ که ۱۸۵۰ است ۱۸۵۱ که ۱۸۵۲ است ۱۸۵۳ که ۱۸۵۴ است ۱۸۵۵ که ۱۸۵۶ است ۱۸۵۷ که ۱۸۵۸ است ۱۸۵۹ که ۱۸۶۰ است ۱۸۶۱ که ۱۸۶۲ است ۱۸۶۳ که ۱۸۶۴ است ۱۸۶۵ که ۱۸۶۶ است ۱۸۶۷ که ۱۸۶۸ است ۱۸۶۹ که ۱۸۷۰ است ۱۸۷۱ که ۱۸۷۲ است ۱۸۷۳ که ۱۸۷۴ است ۱۸۷۵ که ۱۸۷۶ است ۱۸۷۷ که ۱۸۷۸ است ۱۸۷۹ که ۱۸۸۰ است ۱۸۸۱ که ۱۸۸۲ است ۱۸۸۳ که ۱۸۸۴ است ۱۸۸۵ که ۱۸۸۶ است ۱۸۸۷ که ۱۸۸۸ است ۱۸۸۹ که ۱۸۹۰ است ۱۸۹۱ که ۱۸۹۲ است ۱۸۹۳ که ۱۸۹۴ است ۱۸۹۵ که ۱۸۹۶ است ۱۸۹۷ که ۱۸۹۸ است ۱۸۹۹ که ۱۹۰۰ است ۱۹۰۱ که ۱۹۰۲ است ۱۹۰۳ که ۱۹۰۴ است ۱۹۰۵ که ۱۹۰۶ است ۱۹۰۷ که ۱۹۰۸ است ۱۹۰۹ که ۱۹۱۰ است ۱۹۱۱ که ۱۹۱۲ است ۱۹۱۳ که ۱۹۱۴ است ۱۹۱۵ که ۱۹۱۶ است ۱۹۱۷ که ۱۹۱۸ است ۱۹۱۹ که ۱۹۲۰ است ۱۹۲۱ که ۱۹۲۲ است ۱۹۲۳ که ۱۹۲۴ است ۱۹۲۵ که ۱۹۲۶ است ۱۹۲۷ که ۱۹۲۸ است ۱۹۲۹ که ۱۹۳۰ است ۱۹۳۱ که ۱۹۳۲ است ۱۹۳۳ که ۱۹۳۴ است ۱۹۳۵ که ۱۹۳۶ است ۱۹۳۷ که ۱۹۳۸ است ۱۹۳۹ که ۱۹۴۰ است ۱۹۴۱ که ۱۹۴۲ است ۱۹۴۳ که ۱۹۴۴ است ۱۹۴۵ که ۱۹۴۶ است ۱۹۴۷ که ۱۹۴۸ است ۱۹۴۹ که ۱۹۵۰ است ۱۹۵۱ که ۱۹۵۲ است ۱۹۵۳ که ۱۹۵۴ است ۱۹۵۵ که ۱۹۵۶ است ۱۹۵۷ که ۱۹۵۸ است ۱۹۵۹ که ۱۹۶۰ است ۱۹۶۱ که ۱۹۶۲ است ۱۹۶۳ که ۱۹۶۴ است ۱۹۶۵ که ۱۹۶۶ است ۱۹۶۷ که ۱۹۶۸ است ۱۹۶۹ که ۱۹۷۰ است ۱۹۷۱ که ۱۹۷۲ است ۱۹۷۳ که ۱۹۷۴ است ۱۹۷۵ که ۱۹۷۶ است ۱۹۷۷ که ۱۹۷۸ است ۱۹۷۹ که ۱۹۸۰ است ۱۹۸۱ که ۱۹۸۲ است ۱۹۸۳ که ۱۹۸۴ است ۱۹۸۵ که ۱۹۸۶ است ۱۹۸۷ که ۱۹۸۸ است ۱۹۸۹ که ۱۹۹۰ است ۱۹۹۱ که ۱۹۹۲ است ۱۹۹۳ که ۱۹۹۴ است ۱۹۹۵ که ۱۹۹۶ است ۱۹۹۷ که ۱۹۹۸ است ۱۹۹۹ که ۲۰۰۰ است ۱۹۹۰ که ۱۹۹۱ است ۱۹۹۲ که ۱۹۹۳ است ۱۹۹۴ که ۱۹۹۵ است ۱۹۹۶ که ۱۹۹۷ است ۱۹۹۸ که ۱۹۹۹ است ۱۹۹۰ که ۱۹۹۱ است ۱۹۹۲ که ۱۹۹۳ است ۱۹۹۴ که ۱۹۹۵ است ۱۹۹۶ که ۱۹۹۷ است ۱۹۹۸ که ۱۹۹۹ است ۱۹۹۰ که ۱۹۹۱ است ۱۹۹۲ که ۱۹۹۳ است ۱۹۹۴ که ۱۹۹۵ است ۱۹۹۶ که ۱۹۹۷ است ۱۹۹۸ که ۱۹۹۹ <span style="margin-left:

دکتر سید جعفر شهیدی در آبان ۱۳۹۰ میلادی در روزنامه از این متن نوشت: «نهج البلاغه» در سال ۲۴۷ قمری ترجمه شده و در میان اسناد ادبی ایرانی که مرسی داشت، از سخنوار عظیم از نظر فتوحات و مذاق و اینجا نیز باید ذکر شود. این متن در سال ۱۳۸۶ خورشیدی ترجمه شده و در اینجا از آن نسخه است. این متن در سال ۱۳۸۷ خورشیدی ترجمه شده و در اینجا از آن نسخه است. این متن در سال ۱۳۸۸ خورشیدی ترجمه شده و در اینجا از آن نسخه است. این متن در سال ۱۳۸۹ خورشیدی ترجمه شده و در اینجا از آن نسخه است. این متن در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ترجمه شده و در اینجا از آن نسخه است.

**نهج البلاغه**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

در میان هزاران نام که مصنفان، مؤلفان و یا مترجمان حوزه مسلمانی بر کتاب‌های خود نهاده‌اند، هیچ نامی چون «نهج البلاغه» با محتوای کتاب منطبق نیست و می‌توان گفت این نام از عالم غیب بر دل روشن شریف رضی رحمة الله افاضه گردیده است، که «أَلَّا سَا تُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ» راه سخن رسا گفتن را در این مجموعه باید یافت.

آنکه بخواهد عربی بنویسد یا به عربی سخن گوید و گفته وی پخته باشد و به جمال آراسته و لفظ آن سخته و از واژه نابجا پیراسته، باید در این مجموعه بنگردد و آنرا بارها بخواند، و فقره هایش را بکار برد تا ملکه بلاغت در گفته و یا نوشته او پدید گردد، و سخنی مورد قبول

همگان افتد. چنانکه گویندگان و مترسان عرب از سده نخستین هجرت به بعد چنین کرده‌اند.

عبدالحمید بن یحیی عامری مقتول به سال ۱۳۲ هـ. ق. کاتب مروان بن محمد آخرین خلیفه مروانی است. درباره او گفته‌اند هنر کتابت به عبدالحمید آغاز گردید. عبدالحمید گفته است: هفتاد خطبه از خطبه‌های اصلع را از برگردم و این خطبه‌ها در ذهن من پی در پی (چون) چشم‌می‌ای جوشید.

و ابو عثمان جاحظ (م-۲۵۵ هـ. ق) که او را امام ادب عربی شمرده‌اند و مسعودی وی را فصیح ترین نویسنده‌گان سلف دانسته است پس از نوشتن این فقره از سخنان امام «قِبَّةُ كُلِّ إِمْرَىٰ مَا يُحْسِن». چنین نویسد: اگر از این کتاب جز همین جمله را نداشتیم، آنرا شافی، کافی، بسنده و بی نیاز کننده می‌یافتیم. بلکه آنرا فزون از کفايت و منتهی به غایت می‌دیدیم و نیکوترین سخن آنست که اندک آن تو را از بسیار، بی نیاز سازد و معنی آن در ظاهر لفظ آن بود.

ابن نباته عبدالرحیم بن محمد بن اسماعیل (م-۳۷۴ هـ. ق) که از ادبیان بنام، و خطیبان مشهور عرب است و در حلب در عهد سیف الدوّله منصب خطابت داشته است، گوید: از خطابه‌ها گنجی از برگردم که هر چند از آن بردارم نمی‌کاهد، و افزون می‌شود و بیشتر آنچه از برگردم یکصد فصل از موعظت‌های علی بن ابی طالب است.

زکی مبارک در کتاب «النثر الفنی» آنجا که از سبک ابواسحاق صابی (م-۳۸۰) سخن می‌گوید فقره‌ای از نوشته صابی را آورده و چنین نویسد: اگر ما این عبارت را با همانند آن که شریف رضی از گفتار علی آورده برابر کنیم، می‌بینیم صابی و شریف رضی هر دو از یک آتشخور سیراب شده‌اند.

پژوهنده هرگاه خطبه‌ها و رساله‌های ادبیان عرب و بلکه شعر‌های

شاعران عربی زبان پس از اسلام را برسی کند، خواهد دید کمتر شاعر و ادیبی است که معنی را از سخنان علی(ع) نگرفته و یا گفته او را در نوشته و یا سروده خویش تضمین نکرده باشد.

در ایران اسلامی نیز سیرت شاعران و نویسنده‌گان بر این بوده است که نوشه های خود را به گفته های امام بیارایند، یا معنی های بلند سخنان وی را در شعر خود بیاورند و آنچه موجب روی آوردن این ادبیان و سخنگویان به گفتار امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده است گذشته از کمال معنی و جمال لفظ، بلاغت است که در عبارت های امام نهفته است. گنجاندن معنی بسیار در کمتر لفظ، بدون اخلال در معنی.

### بلاغت چیست؟

در تعریف بلاغت گفته اند، متناسب بودن سخن فصیح است با مقتضای حال، یعنی رعایت کردن وضع شنوونده و یا خواننده از جهت میزان دریافت، و مقدار اطلاع وی، نیز رعایت موقعیت زمان و مکان و دیگر خصوصیت ها که موجب شود سخن یا نوشه، در شنوونده و یا خواننده اثری مطلوب بجا نهد. به تعبیر کوتاه تر بليغ کسی است که سخن را پيرايه بندد و دراز گويد آنجا که باید و کوتاه سازد و لفظ وی ساده بود آنجا که دراز گفتن و پيرايه بستن لفظ را نشاید. دقت در مجموعه فراهم آورده سید شریف رضی روش می سازد که خطبه ها، نامه ها و گفتار های کوتاه امام(ع) مصدق درست چنین تعریفی است. هنگامی که خطبه می خواند و باید شنووندگان را از آنچه به سود دین و دنیای آنان است بیاگاهاند، گفته اش به تفصیل است و آنجا که شاید و سزاست و باید که سخن در دل شنوونده نشیند، و جای گیرد و او از آن سخن پند پذیرد، معنی را در عبارت های گونه گون نشاند، چنانکه هر عبارت نکته ای تو را رساند، هر فقره درسی را آموزد، و چراغ دل شنوونده را بیشتر برافروزد.

به سخنان او که در خطبه نخستین و درباره فرشتگان و در خطبه

غرا و اشباح و در چگونگی زندگی و مرگ انسان آمده بنگرید.  
در این خطبه ها صحنه ها و حالت ها را چنان وصف می کند که  
گوئی شنونده خود در آنجا به سر می برد. این ها نه تنها نشان دهنده بلکه  
آموزونده دقت در لطف تعبیر و حسن ترکیب و زیبائی لفظ و بلندی معنی  
است. اما نکته اصلی یعنی بлагت یا مطابقت گفته با مقتضای حال را،  
چنانکه باید آنگاه در می یابیم که وضع اجتماعی عصر و حالت مستمعان  
امام را در نظر بگیریم چه آگاهی از وضع آنان در آن روزگار است که ما را  
از سر تکرار چنین نکته ها در چند خطبه آگاه می سازد.

آنانکه تاریخ اجتماعی اسلام را خوانده اند، میدانند از سال بیست  
و پنجم هجری (تقریباً) اندک اندک مقدمات جدائی مسلمانان از عصر نبوت  
و بازگشت به زندگانی پیش از بعثت آغاز گردید. بزرگان و قدرت طلبان  
قریش که تا فتح مکه مسلمان نشده بودند، پس از گشوده شدن این شهر  
قدس پیش پای خود راهی جز پذیرفت اسلام ندیدند، اما گروهی از آنان  
جز کلمه توحید و نبوت که به زبان آوردن تا زنده ماندند از اسلام چه می  
دانستند؟ هیچ و شاید هم نمی خواستند بدانند.

دوران زندگانی پر برکت رسول اکرم، پس از این فتح بیش از سه  
سال نبود. و پس از رحلت او عصر فتوحات آغاز گردید.

بیشتر این بزرگان با منصب فرماندهی روانه میدان های جنگ  
شدند و یا ولایت شهر های گشوده را یافتند. سرگرمی سران مهاجر و  
انصار در جنگ های برون مرزی از یکسو و سادگی وضع عموم مسلمانان،  
نیز سختگیری نسبی دو زمامدار پس از پیغمبر از سوی دیگر بآنان رخصت  
نمی داد که هر چه می خواهند بکنند. اما از سال بیست و پنجم به بعد  
زمینه برای تاخت و تاز قریش و خاندان اموی آماده گردید. مساوات  
اسلامی اندک اندک از میان رفت، و کسانی که خود را صحابی پیغمبر و  
حافظ سنت او میدیدند ترجیح دادند زندگی بی دردرسی داشته باشند و از

غニمت های جنگی و خزانه مسلمانان هر چه بیشتر بردارند و خدا و روز جزا را هر چه کمتر به یاد آرند. دل بستگی آنان به این جهان روزافزون، و علاقمندی شان به آن جهان و فراهم آوردن ساز آن اندک. پس از شورش مسلمانان و کشته شدن حضرت عثمان و بیعت مهاجر و انصار با امیر مؤمنان، این دسته از مردم نیز در جمع اصحاب او در آمدند. اما چون عدالت علی را در تقسیم بیت المال و زهد او را در امارت دیدند، ناخشنودی خود را به زبان و کردار به امام مسلمانان غودند، و این گروه اند که امام آنانرا با سخنانی که ترجمه آن چنین است اندرز می دهد و از دوزخ می ترساند و به برداشت توشه آخرت می خواند:

«کار از روی دل چنان کنید که گوئی از بیم جان کنید. من چون بهشت جانی را ندیده ام خواهان آن آسوده و از پای نشسته، و نه چون دوزخ ترسنده از آن خفته و از بیم رسته.

بدانید آنکه حق او را سود ندهد باطل زیانش رساند و آنکه به راه نیفتند گمراحتی به هلاکتش کشاند. شما را فرموده اند بار بر بندید و توشه برگیرید. من بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: دنیال هوای نفس رفت و آرزوی دراز در سر پختن. پس تا در این جهانبند از آن چندان توشه بردارید که فردا خود را بدان نگاهداشت توانید.»

و چه نکو نوشته است سید شریف در پایان این خطبه که «گر سخنی بود که مردم را به زهد کشاند و به کار آخرت نا چار گرداند این سخن است و درباره آن پس که دل را از آرزوها چنان برکند که روشن شود و پند پذیرد و بیش پی کار دنیا نگیرد.» و نیز این سخنان:

«اما مردمانی دیگرند که یاد قیامت دیده شان را فرو خوابانیده و بیم رستاخیز سرشکشان را روان گردانیده یا از مردم گریزانند و یا مفهور و ترسان، یا خاموش و دهان بسته یا از روی اخلاص به دعا نشسته یا گربان و دل شکسته. در کنج گمنامی خزیده و خواری و مذلت را بجان خریده...»

پس دنیا را خرد مقدارتر از پر کاه و گیاه خشکیده بینید. و از پیشینیان خود پند گیرید، پیش از آنکه پیشینیان از شما عبرت گیرند. دنیای نکوهیده را برانید چه او کسانی را از خود رانده است که بیش از شما شیفتگ آن بوده اند.»

نبرد بصره که نخستین درگیری در حوزه مسلمانی است هر چند به سود خلیفه وقت پایان یافت، لیکن اندک اندک اثری نا مطلوب در ذهن گروهی که ایمانی درست نداشتند باقی گذارد. نبرد صفين و رویارویی گروههای یک خانواده باهم این نگرانی را بیشتر کرد و دامنه اثر آنرا در دلها گستردۀ تر. تا آنجا که آنانرا در رفتان به میدان کار زار بی رغبت ساخت، چنانکه هر یک کار را بعده دیگری می‌انداخت در خطبه‌هایی که پس از اعتراض آنان به رأی داوران خوانده شده امام از ضمیر این دسته خبر میدهد. و ایمان و اخلاص خود و مسلمانان عصر پیغمبر را فرا یاد آنان می‌آرد:

«ما در میدان کارزار با رسول خدا بودیم. پدران، پسران، برادران و عموهای خویش را می‌کشیم و درخون می‌آلودیم، این خوشاوند کشی ما را ناخوش نمی‌نمود بلکه بر ایمانان می‌افزود، که در راه راست پابرجا بودیم و در سختی‌ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشنا. گاه تنی از ما و تنی از سپاه دشمن به یکدیگر می‌جستند و چون دو گاو نر سر و تن هم را می‌خستند. هر یک می‌خواست جام را بد دیگری به پیماید و از شربت مرگش سیراب غاید. گاه نصرت از آن ما بود و گاه دشمن گوی پیروزی را می‌ربود.... به جانم سوگند اگر رفتار ما همانند شما بود نه ستون دین برجا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوش غما.»

و آنجا که می‌بیند هم چشمی‌های قبیله‌ای که در عصر رسول خدا (ص) از میان رفته بود زنده گردیده و ازدی به رقابت تبعی ایستاده و مضری با یمانی درافتاده می‌فرماید:

بدانید که شما پس از هجرت و ادب آموختن از شریعت به خوی  
بادیه نشینی بازگشتید. و پس از پیوند دوستی دسته شدید. با اسلام  
جز به نام آن بستگی ندارید، و از ایمان جز نشان آنرا فی شناسید. می  
گویند به آتش می سوزیم و ننگ را فی توزیم گویا می خواهد اسلام را  
دگرگون کنید با پرده حرمتش را دریدن و رشته برادری دینی را بریدن...»

با توجه بدین وضع اجتماعی است که ما از سر تکرار تقوی و  
تحریص بدان درسخنان امیر مؤمنان و پی در پی ترساندن یاران خوش از  
کیفر آن جهان آگاه می شویم و بلاغت را به معنی حقیقی آن در این خطبه  
ها می یابیم.

اما آنچه این اثر را از دیگر غونه های سخنان بلیغ جدا و خواننده  
آنرا در چهار موج اعجاب رها می سازد، تنها مطابقت سخن با مقتضای  
حال نیست، هر چند در این باب به کمال است. آنچه سخنان امام(ع) را تا  
بدان درجه بالا برده که گویند برتر از سخن آفریده و فروتر از گفته آفریننده  
است، رنگی است که از کلام پروردگار در گفتار علی(ع) می بینیم.  
گفتاری بی اندیشه پیش و بی آموختن از استادی، - کم یا بیش - .

می دانیم هر گوینده که در فن سخنوری به کمال رسد و هر  
نویسنده که در میدانِ ترسل پیش افتاد باید سالها در محضر استادان زانو  
زند تا هنر گویندگی و یا نویسنده‌گی را بیاموزد. حالی که امام بزرگوار جز  
محضر رسول اکرم دبستانی ندیده و جز از آورنده قرآن از کسی درس  
بلاغت نشنیده. آنگاه خواست او از این سخنان نه ترسل است نه انشاء، و  
نه کوشش درآوردن سجع، یا ترصیع، یا موازنہ یا طباق یا مراعات النظیر  
و دیگر هنرهای لفظی و معنوی. با این همه چنانکه می بینیم سخنان وی  
آراسته به چنین زیورهای است.

این خطبه های گوناگون به حکم ضرورت در جمعه ها و یا در  
اجتماع مسلمانان القاء گردیده است و بدون تردید گوینده پیش از آغاز

خطبه در لفظ نیندیشیده و قبلًا معنی را در خاطر نسنجیده، اما آنچه از معنی در قالب لفظ آورده است زیور صناعت را یکی پس از دیگری هر چه زیبا تر و متناسب تر به خود می گیرد. مجموعه سخنان امام پندی است یا حکمتی، تعلیمی یا ارشادی، تهدیدی یا تشویقی، عبرتی یا موعظتی، تشریفی و یا کرامتی که گاه در صلابت چون صخره های سخت است که از ستیغ کوهی بلند فرا زیر آید و به ژرفای دریایی خروشان فرو ریزد و صدمت آن در این سو و آن سو آوا در افکند، و گاه در نرمی چون شبینم بهاری که بر برگ گل نشیند با نسیم سحر گاهی که چهره خفته ای را نوازش دهد. در بیم چون صاعقه ای که زمین را بلرزاند و در امید چون آبشاری که از فاصله ای نزدیک آهنگ موزون خود را به گوش جگر تافته ای رساند.

این جنس انشاء سخن، فن کس با کسانی نیست که بتوانند از راه تدریس و محاورت و تمرین و ممارست بر آن دست یابند، موهبتی است خاص که از خزانه علم الهی به نادره مردان جهان تفویض می گردد.

درباره نهج البلاغه و محتوای آن از دیر باز بحث ها شده و شرح ها و تفسیرها به زبان های گوناگون براین مجموعه نوشته اند، اما هر چه نوشته باشد و هر چه بنویستند باز هم حق این سخنان را نگذارده اند.

نهج البلاغه دانرة المعارفی از فرهنگ اسلامی است: خداشناسی، و جهان فرشتگان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، امتها و حکومتهاي نیکوکار و یا ستمباره اما نکته اصلی این است که در سراسر این سخنان، خواست امام تدریس علوم طبیعی و جانورشناسی یا فهماندن نکته های فلسفی و یا تاریخی نیست.

سخنان علی در طرح این گونه بحث ها همچون قرآن کریم است که به زبان موععظت از هر پدیده محسوس یا معقولی غونه ای روشن و قابل درک در پیش چشم شنونده قرار می دهد، سپس آرام آرام او را با خود به

سر منزلی می برد که باید پدان برسد، به درگاه خدا و آستان پروردگار یکتا.

آنچا که سخن در خلقت آسان و زمین و آفتاب و ماه و ستاره و کوههاست، به زبان اندرز یاد می دهد که آنچه آفریدگار به آفریدگان بخشیده خیر محض است، اما انسان ناسپاس حق این همه نعمت را غمی گزارد و از راه خدا به راه شیطان می گردد و بخشش الهی را در راه انگیختن شر و بر پا کردن فتنه صرف می کند، و آنچا که تذکار داستان پیشینیان است، به حاضران تعلیم می دهد که روزگار آیینه عبرت است و گذشته را در آن توان دید اما عبرت گیرنده کی و چه کسی است؟ ببینید امتهای از میان رفته و در زیر خاک خفتنه چه کردند و چه دیدند کار نیک آنان را تقلید کنید و از ارتکاب کار زشتی که به نابودی آنان منتهی گشت بپرهیزید.

در خلال این اندرزها گاهی هم به اصحاب خود می نگرد و به حال و کردار آنان می اندیشد، ناگهان کوهی از اندوه و دریغ بر دل او فرود می آید و آن هنگامی است که دیده حقیقت بین را از مردمی که پای منبرش نشسته اند می بندد و به افقی دورتر می گشاید به روزگار محمد(ص) و یاران پاکدل او که با اعتقاد به خدا و روز رستاخیز نصرت دین را بر سود دنیای خود مقدم داشتند. دیگر بار به جمع حاضران می پردازد و می بیند هنوز از آن زمان بیش از سی سال نگذشته است، چه شد که در این فاصله کوتاه مسلمانان نماهاجای مسلمانان راستین نشسته اند؟ مردمی که چون دنیا به روی آنان خندید خدا را فراموش و امام خود را نافرمانی کردند. آن مردم که گردن ها را می کشیدند و برخود می بالیدند که ما در راه خدا شهید داده ایم و خود نیز در آرزوی شهادتم کجا رفتند؟ چرا اینان که گرد مردا گرفته اند تن آسانی را برکشته شدن در راه دین ترجیح می دهند و هر یک می کوشد تا این وظیفه دینی را به گردن

### دیگری اندازد؟

به مساوات و ایشار مسلمانان در صدر اسلام می نگرد که چگونه دیگری را بربود مقدم می داشتند و می کوشیدند خود را از آلوده شدن به مال دنیا پاک نگاه دارند. اکنون چرا چنین مال اندوز و دنیا پرست شده اند؟ این غونه ها و دهها غونه دیگر محتوای خطبه های امام است.

نامه ها ببستر دستور کار حکمرانان است که: چگونه با طبقات مردم رفتار کنند و چسان در نگهبانی خزانه ملت بکوشند. در هزینه صرفه و صلاح جامعه را در نظر بگیرند. اهامضعون این نامه ها دستور حاکم نیمی از پهنه مسکونی جهان آن روز که به عاملان زیردست خود فرمان می دهد نیست، نوشتة پدری مهریان، ساخورده و سرد و گرم روزگار چشیده است که به فرزندان نو رس خوش می آموزد تا در نبرد زندگی چگونه با مشکلات رویرو شوند.

درباره فقره ها و جمله های کوتاه از خود چیزی نمی نویسم، و نوشته ام را یکبار دیگر با قضاوت امام ادبیان عرب عمر وین بحر ملقب به جاحظ می آرایم.

«اگر از سخن علی جز همین نکته را نداشتم آن را شافی کافی و بی نیاز کننده می یافتم بلکه افزون از کفايت و منتهی به غایت می دیدیم.»

برای آن که نپنده اند دلبستگی نگارنده به مذهب شیعه و شیفتگی وی به مکارم اخلاق و صفات انسانی علی علیه السلام او را به چنین داوری واداشته است، تنها ترجمة یک فقره از مقدمه شیخ بزرگوار محمد عبد رحمة الله علیه مفتی پیشین دیار مصر را که از علمای سنت و جماعت است می نویسم تا معلوم شود صرافان سخن بدین گنجینه گوهر چه نظری دارند و چه ارجی می نهند:

«هنگام خواندن چون از عبارت دیگر می پرداختم می

دیدم جولانگاه اندیشه و دیدگاه بصیرت تغییر می یابد. گاهی خود را در جهانی از معانی بلند می دیدم که در پوششی از لفظهای رخشان و خبره کشته، به زیارت جانهای پاک می آید و در دلها زدوده از غل و غش رخت می گشاید... و گاهی جمله و عبارتها چنان می نمود که گویی با چهره های عبوس و درهم ریخته و دندانهای بر یکدیگر فشرده و چنگال عقابان درهم شکننده آماده حمله روی رو هستم و گاه عقلی نورانی را می دیدم که با آفرینده جسمانی همانندی ندارد. از کاروان خدایی جدا شده و با روح انسانی پیوسته و پس از آن که آن را از آلودگی وسوسه ها پاک ساخته تشریفی از عالم طبیعت بدپوشانده سپس آن را با خویش به ملکوت اعلی برده و تا پایگاه تجلی نور الهی رسانده و در کنف قدس رویی ساکن کرده است، و گاهی خطیبی را می دیدم که والیان امت را مخاطب ساخته با صدایی رسا آنان را تعلیم می دهد و راه صواب و خطا را به ایشان می نمایاند و دقایق سیاست را به آنان می آموزد و از پیمودن راهی که به ورطنه گمراهی پایان می یابد، برحدز می دارد.»

آری چنین است سخنان علی علیه السلام. گفتاری فروتر از کلام خالق و برتر از سخن مخلوق.



دوست داشتم، دوسته ایی بودم بر اثربود که کشنهای خارجی با من  
خواسته ایی باری من کنند و دستگاه دولتی و مستبدیای جالکن، فاسد و  
نیمه بد، در این اوضاع بودم و چون اینست بخوبیه بودم بی کار و  
عکوه شد، این ایام ایمه نازم ایی بودم و مادریان را که من کنند، مبارزه علیه  
استند، آثاری من شدند و حق جویانه بودند، اینها من کنند را نهت



بقلم: سید اخته رحیم

مرکز زبانهای افریقایی و آسیایی  
دانشگاه جواهر لعل نہرو، دہلی نو - بھارت

است، چون او کل و نیل

شعرای پندی به تسبیح خاله گردیده است و نیز

ملت شعری است تسبیح خاله خدا به مل

ساخته شده را مطلع نموده خود را ملکه خ

ملل شود. این متن مخصوصاً ملک خان را ملک شاهزاده

نام دارد و در آن مطلع شده است

## نگاهی به شخصیت

### علی اکبر دهخدا

اوآخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، قرن علی اکبر دهخدا است. نام دهخدا با نهضت مشروطه، روزنامه نویسی، فرهنگ نویسی، کارهای ادبی و پژوهشی همراه است. در تاریخ ادبیات ایران کمتر کسی یافته می شود که همانند دهخدا فعالیتهای گوناگونی داشته باشد و آثار با ارزشی از خود بیادگار گذاشته باشد. برای شناخت چهره واقعی دهخدا زمان و مکان و آثارش باید بررسی شود.

دوره دهخدا، دوره ای بود پر آشوب که کشورهای خارجی با سر نوشت ایران بازی می کردند. دستگاه دولتی و سیستمهای مالکین، فاسد و پوسیده بود. در این اوضاع تیره و شوم نهضت مشروطه بروز می کند، و مشروطه خواهان امید تازه ای را در دل ایرانیان زنده می کنند. مبارزه علیه استبداد آغاز می شود، و حق جویان صحنه سیاسی و اجتماعی کشور را تحت

نفوذ خود قرار می دهند، دهخدا در چنین اوضاعی چشم می گشاید، و مانند سرباز مسلح با حریه قلم خود به جنگیدن با استبداد می پردازد. دهخدا در قام زندگی خود سرشار از روح وطن دوستی بوده است و این خصلت را در بچگی از پدر خود فرا گرفته است:

هنوزم ز خردی به خاطر در است  
که در لانه ماکیان بردہ دست  
به منقارم آسان به سختی گزید  
که اشکم چوخون از رگ آندم جهید  
پدر خنده بر گریه ام زد که "هان"  
وطن داری آموز از ماکیان"

در سروده های او چهره دهخدا شاعر، آزادیخواه و مشروطه طلب پیدا است. در غزل معروف وی، در ردیف "نمی خواهم" چهره شاعر و چهره آزادیخواه روشنتر می گردد. شاعر افکار تازه و بکر را در چهارچوب کهن فارسی می ریزد و با آب و تاب مسائل ملت ستم دیده آن دوره ایران را بیان می کند. او همانند قهرمان در ظلمت استبداد برای حصول حقوق برابری، برادری، محبت و صفا دست می زند، نمونه شعر وی در ذیل می آید:

مرا این خاصیت ارث است از آبا که من کس را  
ز خود برتر نمی تایم ز خود کمتر نمی خواهم  
چو بر عشق است و بس بنیان و بیخ و پایه هستی  
جدال و جنگ و جر و بحث و چون و چر نمی خواهم

زن بی شوی و طفل بی پدر، مام پسر کشته  
رخ زرد و دل خونین و چشم تر نمی خواهم  
اگر خود سیر گردون است و حکم الخیم و اختر  
من این گردون، من این الخیم، من این اختر نمی خواهم

نوای یک جهان است این که از حلقوم من ریزد  
من این از خود نمی‌گویم، بخواهم ور نمی‌خواهم  
دهخدا به زبان مردم عامیانه شعر می‌سروده است. وی سنت شکن  
است، چون از گل و بلبل سخن ترانده، و از طرفی دیگر سنت گرا است. چون  
شعرای بعدی به تقلید از وی به زبان عامیانه مردم شعر سروده اند. "رؤسا و  
ملت" شعری است از دهخدا که در آن دهخدا بزبان بسیار ساده وضع  
مستضعفین را مطرح می‌کند. اگر همراه این منظومه نظر بحی آریان پور  
نقل شود، بی مناسبت نخواهد بود:

"در قطعه "رؤسا و ملت" که طی آن به کنایه از وضع استبداد انتقاد  
شده "رؤسا" در نقش مادر ناتوان و "ملت" به صورت بچه بیماری تصویر  
شده است که در میان بازوان مادر از گرسنگی جان می‌دهد":

گریه مکن لولو میاد می خوره  
گریه می آد بزیزی رو می بره  
از گشنگی، ننه دارم جون می دم  
گریه مکن فردا بهت نون می دم

با خواندن سه نوع شعر دهخدا به نظر مرحوم دکتر معین اشاره می  
شود که اشعار دهخدا را به سه قسم تقسیم کرده است. اول اشعاری که به سبک  
متقدمان سروده، دوم اشعاری که در آنها تجدّد ادبی بکار رفته و سوم اشعار  
فکاهی که به زبان عامیانه است.

دهخدا روز نامه را برای مقاس مستقیم با مردم وسیله‌ای قرارداد و از  
این طریق توانست ملت ظلم دیده را بیدار کند. در روزنامه "صور اسرافیل"  
هر گونه موضوع اجتماعی و سیاسی، از ترک عادت گرفته تا تجاوز روس به  
ایران را مطرح می‌کرد. "چرند و پرند" نام قسمت فکاهی "صور اسرافیل" بود  
که تحت آن عنوان مقاله‌های فکاهی و پرطنز و نیشدار دهخدا با امضا، خود  
با «دخوغلى شاه» چاپ می‌شد. به نظر می‌رسد که مقصود دهخدا از روز

نامه نویسی دو گونه بود. اول اینکه مردم مشروطه خواه سرگرم و فعال باشند و نسبت به حقوق خود بیشتر آگاهی پیدا کنند. دوم اینکه وی می خواست روز نامه نویسی بسیار کامل را در ایران رایج کند و چون می دانست که خریدار روز نامه اش مردم عامه هستند؛ لذا به زبان آنها به روز نامه نویسی می پرداخت. "صور اسرافیل" بعلت همین ویژگی بین مردم بسیار محبوبیت داشت. روی این حساب می شود گفت که علی اکبر دهخدا هم در تهضیت مشروطه و هم در روزنامه نویسی سهم بزرگی را دارد و خدمت بزرگ دهخدا این است که وی "توجه و افر به اشاعه زبان توده مردم داد.

در طول تاریخ ادبیات فارسی مستله زبان معیاری که مورد نیاز همگان قرار گیرد وجود داشته است،.. بین زبان کتابی و عامیانه فاصله بزرگی وجود داشته که در آن جهت شیخ اجل سعدی گام بسیار مؤثر برداشت اما زیاد موفق نگردید. دهخدا که در ادبیات و هم در زبان شناسی صاحب نظر بوده، فاصله مذکور را بدقت مطالعه کرد و زبانی را معرفی کرد که هم برای تحریر و هم برای تکلم مفید باشد، یا بعبارت دیگر وی می خواست چنان زبانی را رواج دهد که مردم آن را بپذیرند. لذا بعد از انتشار روزنامه "صور اسرافیل"، عده ای از نویسندهای مانند سید محمد علی جمالزاده و صادق هدایت از آن مایه گرفتند و هنوز هم زبان مردم که به تحریر و تکلم به کار می رود از زبان "صور اسرافیل" دهخدا مدیون می باشد.

چنانکه در آغاز تذکر داده شد شخصیت دهخدا چند بعدی بود. دهخدا بیشتر از همه برای کارهای پژوهشی و تحقیقی معروف است. کتاب "لغت نامه دهخدا" که یکی از پر افتخار ترین کتب فارسی به شمار می رود، در صد جلد تهیه و تدوین شده است. دهخدا برای تألیف این لغت نامه چهل سال بسی رنج برد که بعد از وفات وی، مرحوم دکتر معین کار تکمیل آن را بر عهده گرفت که با فوت ایشان این کار بزرگ ناقص ماند و در حال حاضر استاد دکتر سید جعفر شهیدی عهده دار این کار مهمی هستند. ویژگی لغت

نگاهی به شخصیت علی اکبر دهخدا

نامه دهخدا از این قرار است:

(۱) بزرگترین فرهنگ فارسی است که تا امروز تألیف و منتشر شده است.

(۲) سیر تاریخی کلمه درابن لغت نامه نشان داده می‌شود.

(۳) تحول معنی هر لغت و کلمه در طول تاریخ زبان فارسی روشن می‌گردد.

همچنین "امثال و حکم" دهخدا در چهار جلد چاپ شده است، که این مجموعه هم از آثار پر ارزش ادبیات فارسی محسوب می‌شود. استاد دهخدا در این اثر خود سعی نموده است که ریشه و معنی و کار برد امثال در دواوین شعراء را پیدا کند. مثلاً، ضرب المثل است: "اگر موش و گریه بهم سازند وای به دکان بقال" ایرج میرزا این مثل را در شعر خود بکار می‌برد:

گر صلح میانه گریه و موش  
بریاد رود دکان بقال

استاد دهخدا گذشته از این کتابهای مستطاب، کارهای بی شمار ادبی و تحقیقی را از خود به یادگار گذاشته است مانند ملحقاتی بر دیوان ناصر خسرو و رساله ابو ریحان البیرونی.

در سال ۱۹۵۶، دل طبیعت دهخدا با سکته از حرکت باز ایستاد. وی رو در زیر خاک کشید و به کوی معبد شافت. اما نوشته های طبیعت وی هنوز زنده و پاینده برای نسلهای آینده باقی است:

گل همین پنج روز و شش باشد  
وین گلستان همیشه خوش باشد

\* \* \* \*



او لین و آخرين ديدار با  
خواجه عبدالحميد عرفاني

هر گز غیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثیت است بی حیله عالم دوام ما

(cont'd.)

با آنکه در مدت اقامتم در پاکستان فقط یکبار توفيق دیدار استاد عرفانی را داشتم، لیکن همان یکبار ملاقات آنقدر مفید و پر شور بود که جذبه روحانی و عرفانی وی مرا به خواندن حدیث عشقش وا داشت و به تحقیق و تدقیق در دیگر آثار فکری و قلمی وی بر انگختیت. البته قبل از این ملاقات ذکر خیر استاد را بسیار شنیده بودم و با مطالعه رساله یکی از دانشجویان با عنوان "عرفانی و خدمات او به زبان فارسی"، کم و بیش با احوال و آثار او آشنا شده بودم.

شوق و شوری که در اوکین و آخرین دیدار، در ضمن شنیدن خاطراتش

خاطراتش درمورد ایران دریافت، در کتابهایش بعینه مشاهده کردم. مرحوم عرفانی به توفیق خدمت در مدت مأموریت خویش در ایران بسیار افتخار می‌کرد و در همان جلسه خلاصه و دور نمایی تمامی دوران اقامت خود در ایران را پیش نظر آورد و برای من نیز ترسیم نمود. شاید بظاهر سنتی در احوال فعلی من و زمان مأموریت خویش در ایران می‌دید و این بیت غالب را گویای حال هر دوی ما:

بیاورید گر اینجا بود زیاندایی  
غیرب شهر سخنهای گفتنی دارد

اما آنچه بیش از آنهمه اظهار لطف و همدلی و همزبانی استاد مرا مشعوف ساخت، سعی و همت والای وی در شناساندن افکار و اشعار علامه اقبال به ایرانیان و ابلاغ پیام وی به ایشان بود و بالا تر از همه افتخار و مباراکات به توفیق در انجمام این مهم، لذابنظر اینجانب مصداق آیهٔ کریمه "والذین جاهدو افینالهندبنهم سبلنا" را در عمر پر برکت ایشان می‌توان دید.

این توفیق نتیجه عشق او به ایران و علاقه کامل به علامه اقبال لاهوری است که با توجه به صحبتها و اشعار و آثار آن مرحوم، هریک را جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

عشق او به ایران: شادی و شگفتگی که در روی پرصفای استاد عرفانی هنگام ذکر کلمه ایران دیده می‌شد خود پنهانی گویای محبت خالصانه او به ایران و ایرانیان، و حاکی از یک دوران طلایی با خاطرات ارزشمند بود. و چون قلم از وصف آن شور و شوق ناتوان است، پاره‌ای از سخنان و اشعارش را گواه می‌آوریم،

مرحوم عرفانی در چکامه‌ای باعنوان "معراج خیال" که تحت تأثیر ملای روم سروده است، عاشقانه و عارفانه از ایران سخن می‌گوید و اظهار می‌دارد آشنائی را که می‌خراسته، یافته است. وی این همس صحبتی و

هدمی را تولدی دوباره می نامد، گوئی با بال و پر ملاتک به پرواز در آمده و پیر رومی را با خود هم آواز دیده است.

ای خوش آن صبح مهر انگیز من  
وی خوش آن روز عشرت خیز من  
از زمین تا آسمان پرواز من  
من کیم؟ روح الامین دمساز من

\* \* \*

چشم من می دید هر جا نقش آب  
зорق جان مضطرب اندر سراب  
روز و شب گشتم به پهنای جهان  
تا زیار هدمی یا بیم نشان

\* \* \*

ناگهان از آسمان آمد فرود  
دلبری زیبا تراز بود و نبود  
طلعتش زیبا تراز حور و پری  
از نگاهش نور مهر و مشتری

\* \* \*

زد جهان روشن به نور ایزدی  
نور جاویدان و نور سرمدی  
از جبنیش عقده دلها گشاد  
حرف نرمش روح را جام مراد

\* \* \*

افتخار آدم خاکی از او  
گرد راهش آسمان توبه تو  
اسم او از بهر من ایران بود  
اسم جانان خوبتر از جان بود

آشنا یانه به من آواز داد  
برق سینا در روانم او فتاد  
در جهان تازه ای زادم اگر  
یافتم من از ملاتک بال و پر  
\* \* \*

ای خوش آن صبح جان افزای من  
خوشتراز امروز من، فردای من  
از زمین تا آسمان پرواز من  
اما آنچه پیر رومی گشته هم آواز من (۱۱)  
مرا مشهور ساخت، سعی نمود (حدیث عشق ص ۶۳ تا ۶۶)

در مثنوی دیگری که با الهام از غزل خواجه حافظ به مطلع:  
خوش شیراز وضع بی مشالش  
آیه کریمہ واللہ خداوندا نگهدار از زوالش  
سروده است از محبت خواجه شیراز مهد حیات و پرورش سعدی و حافظ  
سخن می گوید. مرحوم عرفانی اظهاری در این که از برکت و صفاتی شیراز  
و تحت تأثیر این دو سخنسرای عرفانی، ذوق سخن را آموخته و معنویت  
را اندوخته است:

خوش شیراز خاک خوش خصالی روی پرستای استاد  
خوش نور جمال بی زوالی بیانی گنای محبت  
ندیدم خوشتراز شیراز جانی طلاس با خاطرات  
نه بهتر از هوای او هوائی ای است باره ای از

\* \* \*

زمین صدق و اخلاص و یقین است  
فضا زیر پر روح الامین است

گره از غنچه معنی گشاده است  
مرا ذوق سخن هم یاد داده است  
لطفه" ل هست رکله الا یا ایها الساقی شنیدم  
ز جام او من باقی کشیدم  
دگر هم رقص باشم بامسیحا (۲۱) (حديث عشق ص ۷۱)

استاد عرفانی بدآنجهت به شیراز عشق می ورزد که گوش جانش  
نوای روحیخشن غزلهای سعدی و حافظ را از فضای پرصفای آنها می شنود،  
عرفانی آنچنان با غزلهای حافظ آشناست که آن را معراج غزل فارسی می  
داند. در مقدمه کتاب غزل فارسی اقبال می گوید:

بطوری که همه درستداران زبان فارسی می دانند  
مقبول ترین صنعت شعر فارسی، غزل است و اگر ملعقات  
غزلبات حافظ را نا دیده بگیریم، بطور کلی غزل حافظ  
از حیث انتخاب الفاظ و ترکیبات و بحور و قوانی و ردیف و  
تراش و تزیین کلمات، موسیقی و هم آهنگی و امتزاج  
معانی و زبان معراج غزل فارسی است. صد ها شاعر در  
ایران و هند و پاکستان کوشیده اند که آن طائر لاهوتی را  
که آزاد و بی پروا در زیر آسمانها و بر بالای آسمانها بی حد  
و حصر در پرواز است، دنبال کنند، اما پر و بال آنها یاری  
نکرد و بعد از جهشها کوتاهی در هوا و فضای حافظ به  
سطح خود باز گشت نمودند".

اگرچه بعد از آن حساب اقبال را از دیگران جدا می کند و او  
را شاگرد و مقلد حافظ و در عین حال صاحب سبک مخصوصی به خود می

داند، لیکن در بین مقاله‌های تویسده: "از میان غزلهای که در مجالس شعر و ادب تهران در حضور استاد دانشگاه قراخت کرده بودم، تعدادی غزل انتخاب کرده و با مقدمه و توضیح مختصه در آخر کتاب "رومی عصر" ضمیمه کردم. چه خوب می‌بود اگر عنوان این ضمیمه را "حافظ عصر" می‌گذاشتیم ولی مناسب ندیدم و جسارت نکردم" "من بسیار مایل بودم که اقبال را "حافظ عصر" گویم. اما نوای حافظ شیراز از تمام وسائل ارتباط جمعی، از انجمنهای ادبی گرفته تا گوشه و کنار دور دست ترین مناطق شنیده. می‌شد" ... و من جسارت نکردم که دیوان غزلیات اقبال را دیوان حافظ قرن بیستم بخوانم." و اینست رمز علاقه عرفانی به شیراز، و راز عروج وی به آسمانها به یاد آب و گلگشت مصلی.

بهین ترتیب از هر شهری سخن می‌گوید، با معرفت کامل از اولیا و عرفای آن شهر نام می‌برد و نشان می‌دهد عشق او به شیراز و تهران و تبریز و بطور کلی ایران بخاطر جذبات معنوی بزرگان و سخنواران آن سامان است. استاد عرفانی در متنی دیگری به نام ارمغان آذربایجان که به یادگار مسافرت به آن استان در پانیز سال ۱۳۳۲ سروده است، به شیوه اقبال به زبان سؤال و جواب، احساس خود را از این سفر بیان می‌کند و شکوه این سر زمین یعنی زادگاه شمس تبریزی و شیخ محمود شبستری را برتر از آسمان می‌داند.

سؤال: چه داری به بیاران ارمغانی

ز خاک پاک آذربادگانی

جواب: شکوه خاک برتر ز آسمان است

چه خاکی خاک آذربادگان است

به دامان ریخت آن والا مقامی

چه گلهایی ز گلزار دوامی

به شهر "شمس" گرم تاز بودم  
به "شیخ شبستر" همراز بودم  
بگفت ای عاشق رومی و اقبال  
گشودی در دیار ما پر و بال

\* \* \*

ولی از کوه و دشت ما گذر کن  
زفیض حرف ما در خود سفر کن  
سفر کن جستجو کن خویشتن را  
تو شمشیری ز کام خود بروون آ

\* \* \*

مناع ما دل گرم و جنون است  
فروع چشم ما از اشک خون است  
بکبر از ما فروع قلب و جان را  
ز ما بستان دگر درد نهان را

\* \* \*

نوای من نوای آن دیار است  
دل من در تپش چون "شهریار" یار است  
زسوز و ساز باشد از مغانی  
ز خاک پاک آذربادگانی  
(حدیث عشق ص ۷۲ و ۷۳)

و با همین بینش در غزلی خطاب به ایران با مطلع:

سر خوش ازتست جان من جانم  
نشه دیگری نمی دانم

با اظهار خوشحالی از رسیدن به ایران و بعتریان انداختن کشته  
خویش در این محیط عرفان می فرماید: *شیراز و مشهد و تبریز*  
غزل انتخاب کرده *شیراز و خاک شیراز و مشهد و تبریز* آنچه کتاب "رسانی  
عصر" خوب است *سرمه نور بهر چشمانت* *شیراز و مشهد را حافظ*  
عصر من گذاشت من *زکشیر و خاک پاکستان* من بسیار مایل  
بودم که اقبال را *حافظ* *شیراز از تمام وسائل*  
ارتباط حسنه، از *حافظ* *شیراز* درست نمی‌نمایم  
ساقط شنیده، من *این بود افتخار جاویدم*  
دیوان حافظ فرن *عرفان غزلات اقبال را*  
راز عروج دی به آیه *خواجه عبدالحمید عرفانی*  
عاشق خاک پاک ایرانم

(حدیث عشق ص ۶۹ و ۷۰)

خلاصه کلام اینکه استاد عرفانی سر علاقه پاکستانیان به ایران و  
ایرانیان، و ایرانیان به پاکستان و پاکستانیان را در چند جمله چنین بیان  
می کند:

"ایران در نظر پاکستانیان عزیز و گرامی است، نه  
بدین خاطر که الوند و دعاوند و بیستون در آنجاست. بلکه  
بدین سبب که این خاک وطن "سعید و فردوسی و مولوی و  
حافظ" است. بهمین طبق، ایران، پاکستان را به دیده  
محبت و احترام می نگردد، چرا که این وطن "اقبال" است."

علاقه عرفانی به علامه اقبال *لاهوری*: مرحوم عرفانی به  
شعر و نثر اقبال و مقام شامخ او در همه البعد آشنائی داشته و به وجود  
او افتخار می کرده است. در پیشگفتار کتاب غزل فارسی علامه اقبال می  
نویسد: "باید عرض کنم من شخصاً مانند هزاران مسلمان شبه قاره هند و  
پاکستان مدیون علامه اقبال هستم که در ما احساس تشخض ملی اسلامی

را بیدار و ما را به زیبا ترین و نشاط انگیز ترین و روح پرور ترین جهان معنی یعنی جهان ادبیات فارسی راهنمایی کرد. طبیعی است که من اقبال را بزرگترین شاعر و متفکر و عارف می‌دانم. وی برای من بلک دانرة المعارف همه جهتی و همه گونی بوده است. علامه اقبال نقاوه و خلاصه تاریخ ادبیات و معنویات نهضت ساله فارسی می‌باشد و در شعر فارسی وی، مولوی و سعدی و حافظ با آب و تاب تازه که چشم قرن بیستم را خبره می‌کند، تجلی کرده‌اند. وی پس از شرح خدمات خود در شناساندن شخصیت والای علامه و گزارش مبسوط سفر خود به ایران از این توفیق الهی که نسبیت وی گشته است، زبان به شکر می‌گشاید و می‌فرماید: "خداوند تعالی این ضعیف را آنچنان توفیق داد که توانست علامه اقبال را طوری معرفی نماید تا قبل از مراجعت به کشور خود، ایرانیان او را به عنوان "اقبال ما" قبول کردند".

باید اذعان داشت که بحمدالله "عرفانی ما" دین خود را در تبلیغ افکار و آثار "اقبال ما" بنحو حسن ادا کرد. بسیاری از اساتید و دانشوران ایران معتبر به این حقیقتند از آنجله مرحوم استاد دکتر ناظرزاده کرمانی فرموده است: "کسانی که کتاب "رومی عصر" تألیف آقای عرفانی را خوانده اند به آسانی با من همداستان می‌شوند که او در تحلیل و تشریع عقاید و نظریات محمد اقبال، شاعر بیدار دل و الهام بخش پاکستان قدرت و دقت بسیار نشان داده و با هنرمندی از عهده شناساندن طرز تفکر آن مرد بزرگ برا آمده است".

استاد دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی در شماره اخیر کیهان فرهنگی که در زمان حیات استاد عرفانی انتشار یافت، می‌نویسد: "خواجہ عبدالحمید عرفانی وابسته فرهنگی و مطبوعاتی پاکستان در تعریفه اقبال به ایرانیان سعی جمیل بکار برد".

ضرورت این امر مهم را نه تنها خود عرفانی در یافته بود. بلکه

استادان ایرانی نیز مشوق وی بوده اند. مرحوم عرفانی در مقدمه کتاب "اقبال در نظر ایرانیان" به ملاقات‌های مداوم خود با ملک الشعرا، بهار اشاره می‌کند و می‌گرید: "در اکثر ملاقات‌هایم با بهار از اقبال سخن به میان می‌آمد ... و بهار به من می‌گفت رساندن کلام اقبال به ایرانیان برشما فرض است."<sup>۱۰</sup>

البته بزرگانی چون مرحوم عرفانی و بسیاری از اساتید بزرگوار ایرانی و پاکستانی که در راه تبلیغ افکار علامه اقبال و ابلاغ پیام آن شاعر متفکر آزاده بیدار دل، جهد بليغ نمودند، طلايه داران اين راه بوده اند و از اين به بعد نيز به ياري خدای متعال يكاييك دوستداران ادب فارسي و شيفتگان نشر فرهنگ اسلامي در ايران و پاکستان باید اين راه را ادامه دهند، تا صدای جانفزاي اقبال همچنان که خاک هزار ساله هند را زنده کرده و به تشکيل کشور اسلامي پاکستان انجاميد، به گوش همه مسلمانان جهان بر سردا وار خواب گران بر خيزند.

ای که زمن فزوده ای گرمی آه و ناله را  
زنده کن از صدای من خاک هزار ساله را



سید محمد عبدالرشید فاضل



نارسنه لشاد امیده استغلق هر من  
پاکه . لا ماله زی بصرخ عانها نه  
وون لق خبیث شلیل لفظه لکه همچو  
غوش سوانح هم بر داشتند

رود کاویری یکی نرمک خرام  
خسته ای شاید که از سیر دوام (۱۶)  
ای در و دشت تو باقی تا ابد  
نعره لا قبصر و کسری که زد (۲۰)

اشعار فوق علامه محمد اقبال الى آخر منظومه ها بوریزه، سی و  
اند سال پیش از زیان مژثر و شیرین استاد سید محمد عبدالرشید متخلص  
به فاضل نخستین بار در دوران درس طنین انداز گوش این نویسنده شده و  
هنوز هر موقع که ذکری از استاد باشد یا از صفحات اشاره شده کتب  
"جاوید نامه" و مثنوی "پس چه باید کرد" مروری کبینم لابد به یاد ایام  
دانشجوئی دوره های متوسطه و لیسانسیه می افتم که در "کالج اردو"  
دانیر در کراچی، طبق برنامه دروس فارسی دانشگاه آن شهر گذرانده بودم و  
حالا که دوست بسیار عزیز بنده دکتر سید سبط حسن رضوی مدیر محترم

دانش که تجدید تقاضا فرمودند که مقاله ای درباره استاد و شاعر فارسی  
جناب سید محمد عبدالرشید فاضل برای دانش بنویسم، آن خاطرات دیرینه  
تازه گشت و چهره درخشنان استاد فاضل که واقعاً اسم باسی هستند، از  
افق خاطرات شیرین ماضی طلوع نمود ذکر این دو منظومه فوق من باب  
مشتی از خرواری بوده و الا درباره فصاحت و صراحة بیان استاد فاضل رو  
یهمرفته همه آشنايان وی رطب اللسان بودند و اينجانب خودم بارها  
مستفيض گشته ام.

### مختصوه از احوال:

استاد سید محمد عبدالرشید فاضل، فرزند سید ثار حسین  
متخلص به ثار (۱۸۶۱ - ۱۹۶۴) می باشد، او در حدود سال ۱۹۰۷ م  
در قسمت قرولی راجپوتانه چشم بگشته بگشود. بعداز تفکیک شبه قاره،  
قرولی اینک بخشی از استان راجستان هند قرار گرفته است.

استاد فاضل پس از آموختن خواندن قرآن مجید، با آموختن درس نظر  
و نظم فارسی پرداخت. او در مدرسه فیض عام، سید مهریان علی دروس  
متداول را باقام رسانید. در آن زمان، کتب گلستان سعدی، اخلاق محسنی،  
انوار سهیلی، انشای جامی، رقعات عالمگیر، بوستان سعدی، سکندر نامه  
نظمی، دیوان حافظ و چند کتب دیگر شامل نصاب درس بوده اند. استاد  
بعداً امتحانات عالی زبانهای اردو و فارسی را از دانشگاه پنجاب لاہور  
گذرانده در سال ۱۹۴۴ با خذ فوق لیسانس در اردو و هم در فارسی نایل  
آمد. استاد زبان عربی و طبایت و خوش نویسی راهم تا حد وافی یادگرفته  
است.

استاد فاضل شغل معلمی را برگزید و از سال ۱۹۳۱ الی ۱۹۴۹ م  
یکی پس از دیگری، در دو دبیرستان ایالت جیپور، بتدریس زبانهای اردو و  
فارسی وغیره پرداخت. دو سال بعد از تاسیس پاکستان، در سال ۱۹۴۹ م،

استاد فاضل، مانند هزارها افراد مسلمان دیگر، باین کشور (۲) مسلمان نشین، از جیپور (وسط هند) هجرت کرد و در کراچی سکنی گزید، درهیان سال کالج بزرگ موسوم به "اردو" درین شهر دائز گردید و استاد فاضل کرسی زبان و ادبیات فارسی را در آن احراز نمود. او بعداز ۲۲ خدمت در سال ۱۹۷۱ م باز نشسته شد. در دوران تدریس محصلان، استاد فاضل کلاسهای عالی زبانهای اردو و فارسی و دانشجویان امتحانات دوره های متوسطه و لیسانس و فوق لیسانس را تعلیم می داده است. (۴)

### محیط شعر گوئی و علمی:

استاد فاضل در پانزده سالگی شعر گوئی به اردو و فارسی را آغاز کرد. خوش بختانه او از محیط خانوادگی علمی برخوردار بوده و پدرش سید نثار حسین متخلص به نثار شاعر اردو و فارسی بوده و احیاناً به غزل سرانی هم پرداخته است. مجموعه کلام وی را فرزندش استاد فاضل، در سال ۱۹۸۰ م بعنوان "گنج معانی" مرتب ساخته از کراچی منتشر نموده است. پدر استاد فاضل درس نظامی، بوده و در سایر علوم و فنون متداوله عصر تبحر داشته است خاصه در زبان و ادبیات فارسی.

### فارسی سوانی پدر و فرزند:

مولانای نثار و استاد فاضل شاعران صاحبان دیوان اند. استاد فاضل غیر از مرتب ساختن (۵) کلام پدرش، کلام اردو و فارسی، خودش را نیز بعنوان "نقوش جاویدان، مدون نموده بچاپ رسانده است.

پدر و فرزند هر دو شاعران و نویسنده‌گان اخلاق آموز می باشند- یک غزل استاد فاضل بقرار زیر می باشد. برتصربع شاعر این غزل در سال ۱۹۳۷ م سروده شده و در شماره مجله "هلال" فارسی متعلق به ژوئن ۱۹۶۲ م هم چاپ گردیده بود. وزن و بحر این غزل در موارد مخصوص دو بیتیها بوده است.

آنکه داند لذت آزارها  
بر نتابد پرسش غم خوارها  
زنده باشی چشم خون افشار من  
در اسیری دیده ام گلزارها  
جان و دل نذر ادایی من کنم  
من که عمری کرده ام این کارها  
با که گویم چیست این درد فراق  
کو خلد در سینه همچون خارها

من در دلدار را جویم ولی  
پیش من آیند اینجا دارها  
هیج پیمان با مراد من نه کرد  
آنکه با من کرد صد اقرارها  
افسر اقبال بر سر داشتم  
من حوالت گشته ادب ادارها  
وای قسمت جنس نا پرسان شدم!  
من که بودم رونق بازارها  
کافرم گر چه مسلمان صور تم  
سبعه ها دارم پی زنارها  
کس غی داند زمشکل سهل تر  
بسکه آسان کرده ام دشوارها  
شورها دارند بهر قاتلی  
بر دری افتاده دل افگارها  
عقده ای از هیج کارم وانشد  
آه از یاری که دارم کارها

آنکه ناواقف ز قانونِ حیات

از خُدا داند سزای کارها

حیف از کوری خود نشناختم

پیش من دلدار آمد بارها

خون یک ارمان چه کردی جان من

در دل فاضل شکستی خارها

استاد فاضل مانند بعضی از احبابش در بدیهیه گوئی و سروden

قطعه مرصع در صورت غزل مهارت بسزائی را داراست مثلاً یکی از

یگانگان استاد، عبدالحمید خان افضل در سال ۱۹۷۱ م مريض شد. استاد

فاضل در صورت مكتوبی پرسان احوال اين دوست شد و افضل بدیهیه سرا

در صورت قطعه غزل نما به تشکر پرداخت:

سر بستر هلاکم، بجه دل شنیده باشی

نشود چسان بصد رنگ که بسى تپیده باشی

چه پیام مهر خیزی که مجید داد دوشم

سخنی بدین نکوئی، ز دل آفریده باشی

دل من فدای آن دم که بفرط مهر دیرین

بگذشته خط نسیان، بصفا کشیده باشی

تو ز لطف دامن دل نه چنان رفو نمودی

که توان شناخت بینا ز کجا دریده باشی

زمن محب مخلص که سنجبل تو (۶) بودم

تو اگر رمیده باشی، ز خودت رمیده باشی

نظرم خطت با فروخت چو به بست چارمین تبر

شده لاجرم درنگی نه زمن کبیده باشی

چون ز حیدر است آباد ز کجا توان هلیدش

تو چنان که یاد داری که مرا هلیده باشی

سر بام چرخ شاتو (۷) بنهم به نزع خواهم  
"به رخ تودیده باشم تو درون دیده باشی" (۸)

استاد فاضل هم در قطعه مرصع مفصل تر به تجدید و تشیید  
پیمان محبت پرداخت:

غلط است این سراسر که گهی زمن جُدانی  
که بسوی دل چوبینم ز درون جان برآنی  
تو بدان نقط سرودی غزل محبت من  
که مرا ز من ریودی ز کمال دلیانی  
سزد ار به بخت نازم که چو افضل یگانه  
تو هلاک خود چه گونی که هنوز یك زمانه  
دل بعدم قدیمی به محبت آزمائی  
بخدا چه شعر گفتی، چه در یگانه سُفتی  
که خطاکنم چو گویم که کمی تو از شفافی  
من و تو بیک زمانه چه بهار ها که دیدیم  
گهی سیر باغ و صمرا، گهی آن سخن سرانی  
گهی درس خواندن ما بحضور آن مکرم  
که عیان ز چهره او همه نور پارسانی  
گهی استفاده کردن ز کمال آن مسیحا  
که به نکته های حکمت نظر و رسانی  
به عیان اگر بخرابی زیکی مراد طالب  
ز دگر مراد قدسی که به عصر خود سنای  
چه کنم چو یاد آبد گهی آن بهار رنگین  
همه ناله صباحی، همه گریه مسانی

توبیا که باز آید دمگ آن زمانه ما

بن آن بهار بینی در دل اگر گشانی

غزل زیر را استاد فاضل در دوران جوانی و دانشجویی سرود، این

در سال ۱۹۲۸م در دوران اقامت شاعر در لاھور سروده شد. این متن در

شماره عبدالفتخر روز نامه "سیاست" چاپ گردید:

جورها با ما وفا با غیر، ای جان کرده ای

استاد فاضل باد می داری چه با ما عهد و پیمان کرده! ای

من که صد خورشید اندر سینه پنهان داشتم

چشمها دادی که در یک ذره حیران کرده ای

یک جهان بی خودی خواهد دل شوریده ام

ای زدیدارت مرا آئینه سامان کرده ای

غیرتی دارم که با اغیار رو نتوان غمود

ای نگارم بسکه لطف خویش ارزان کرده ای

باز دل را از خیال دلبری آباد کن

مدتی شد بی خبرا کین خانه ویران کرده ای

بسکه جان دادن به هجرت مشکلی افتاده بود

ای سرت گردم ز وصلِ خویش آسان کرده ای

داد سامانِ جنوی مهرِ عالمتابِ عشق

ذره ای برداشتی فاضل بیابان کرده ای

در شبه قاره پاکستان و هند از دیر باز شعر مجالس برپا می شده.

که آنها را، مشاعره، می نامند. مشاعره های جالب هنوز هم برپامی شود.

استاد فاضل در دوران جوانی در اینگونه، مجالس، شرکت می جسته و

طبق، مصraigاهای طرح غزل می سروده است. غزل زیر بر مصraig "بیا صوت

تبسم بشنو از لعل خموش او" مطرح شده و در سال ۱۹۳۹م سروده شده

است.

چه افسون است بارب نرگس حیرت فروش او  
که با خود رفتگی دارم بصد انداز هوش او  
دران محفل بیان شوق را آماده می گشتم  
مگر آمد بکارم آن عتاب پرده پوش او  
دو عالم در نظر دارد که در کف ساغری دارد  
چه پروای کسی دارد کتون پیمانه نوش او  
خوشا مردی که غافل نیست از کار خوش المجامی  
شود اندر سر فردا همه امروز و دوش او  
مگر در پیش داور خود فروشی های های هیچ است!  
نصبی مگر برد این زاهد طاعت فروش او  
چه سود ار ناله ام افلاک را در لرزه می آرد  
که بر خود لرزه ها دارد چو آید تا بگوش او  
درینغ آید ترا در قتل ورنه عاشقی زارت  
چه پروای سری دارد که باشد بار دوش او  
عجب هنگامه ها برپا نمود این نفس خود کامم  
کجا آید بگوشم فاضل آواز سروش او

غزل زیر "مشاعره" را مجله "هلال" در شماره سپتامبر ۱۹۷۱ م م

بچاپ رسانده بود:  
پیر مغان ما ورا آب حلال نام کرد  
آنکه غم زمانه را بر من و تو حرام کرد  
هستی ناقام من بود مصیبتی مرا  
جلوه بی نقاب او کار مرا تمام کرد  
آنکه نقاب روی او اطلس زر نگار چرخ  
گردش چشم خویش را گردش دهنام کرد  
ستاد

چرخ کمینه خود بخواست خاک مرا دهد بباد  
کوزه گری مگر مرا کوزه بساخت، جام کرد  
من که نمی شناختم بند بلاسی را که چیست  
کاکل خم بخم مرا دام نهاد، رام کرد  
  
شعر، بویژه غزل، باید از نظر مجاز و حقیقت و لفظ و معنی جلب  
توجه نباید و تنها صبغه واعظانه نداشته باشد، از این شعر اخلاق پرور  
استاد فاضل داد خواه خوانندگان است، با نقل نمونه ای از غزل دیگر، این  
بحث مختصررا درباره شعر استاد فاضل خانم می دهیم!  
  
برای خاطر او کرد غارت یک جهان من  
علو را یار بودستی نگار دل ستان من  
چسان باور شود او را چسان تسکین دهم خود را  
که من در عشق او برباد دادم خانمان من  
نگار من بیا حال پریشانم غاشا کن  
که از بهر من مسکین زمین شد آسمان من  
سرت گردم ز تو نقش همین امید می بستم  
برسوای من افسانه کردی داستان من  
دل مجروح و چشم خون فشان آورده ام هدیه  
کرم باشد اگر افتاد قبول این ارمغان من  
چها از دوستدارانت جفا و جور ها بینم  
بداند این دل آشته حال و ناتوان من  
تو آن عیار از چشم سرشك آلوه بفریبی  
من آن نادان که دانم غمگسار و راز دان من  
متاع عمر من بودی بدست دیگران رفتی  
شده آرام جان دیگران جان جهان من

تغافل کن، جفاکن، هر چه خواهی کن مگر ای دوست  
مشو بهر عدوی من خدا را راز دان من  
نه من فاضل نه من از عقل و دانش بهره ای دارم  
نه بینی غیر احوال جنون اندر بیان من

### اساتید و احبابِ خاص جناب فاضل:

اساتید در تشکیل سیرت و تهذیب قوای ذهنی تلامیذ نقشی مهم  
ایقاً من نایند و صحبتِ احباب و معاشران هم مشرب و هم ذوق هم مسلمان  
مؤثر واقع من گردد:

صحبت روشن دلان يك دم دو دم  
آن دو دم سرمایه بود در عدم (۹)  
صحبت عالم کتابی خوشنتر است  
صحبتِ مردانِ حُر آدم گراست (۱۰)

از حیث موضع اشاره شده فوق هم وضع استاد فاضل شایسته  
تعجیل بوده است در میان اساتید استاد فاضل رسائی، حکیم فقیر محمد  
چشتی نظامی، حافظ قاری زین العابدین، سید مهریان علی، سید طالب  
حسین طالب و حکیم سید محمد عبدالرزاق قدسی و مولانا عبدالسلام  
دھلوی شایسته تذکر اند. استاد فاضل تصريح می کند که سایر دروس  
فارسی را بر اهتمانی استادانش، حکیم فقیر محمد چشتی نظامی و حکیم  
سید محمد عبدالرزاق قدسی گذاراند بود.

استاد مژخرالذکر جناب فاضل را کتب عمیق و عسیر آموخته بود.  
در کتب اشاره شده تاریخ و صاف، دره نادری، انشای ابو الفضل علامی،  
دیوان نظری، مخزن الاسرار نظامی، قصائد خاقانی و مثنوی رومی شامل  
بوده اند. مولانا عبدالسلام دھلوی او را مثنوی گلشن راز آموخت. این  
کتاب سعدالدین محمود شبستری (م ۷۲۰ه) که در حدود هزار بیت دارد،

متضمن مسائل تصور خاصه وحدت الوجود است. علامه اقبال در متنوی گلشن راز جدید خود که محتوی ضخامت در حدود یک چهارم کتاب محمود شبستری است، مسائل این کتاب را در پرتو نظراتِ خودی و بیخودی خود پاسخ گفته است. از مقاله استاد فاضل که در شماره ویژه "اقبال" مجله فیض السلام، راولپنڈی در اوائل سال ۱۹۷۸م انتشار یافت، پیداست که او به سایر مباحث متنویهای مزبور ناظر است.

درباره احباب و معاشران استاد فاضل به ذکر عبدالجعید خان افضل مقیم حیدر آباد پرداخته ایم. دیگر منور حسین خان زیب، احترام الدین شاغل، وارث سرهنگی، معشوق حسین اطهر، علامه محمد حسین عرشی امرتسری و دکتر غلام مصطفی خان ممتاز اند. بزرگان مزبور ادب و شاعر و محقق بوده و در زبان فارسی و چند زبان دیگر تبحر داشته اند. مثلاً استاد فاضل کتاب دکتر غلام مصطفی خان را که درباره اقبال من باشد در پیش گفتار خود معرفی ساخته است. او مجموعه کلام اردو علامه حکیم محمد حسین عرشی امرتسری (۱۸۹۶ - ۱۹۸۸م) را بعنوان "مرا رسوا ساخته" مرتب و چاپ نموده است. (۱۱)

#### محقق و مترجم و شارح:

بیشتر آثار استاد فاضل پیرامون اقبال شناسی است. البته مقالات تحقیقی و شروح و تراجم وی درباره موضوعات دیگرهم اورا یک محقق، ادیب و مترجم و شارح بزرگ جلوه گز می غاید. پاره‌ای از آثار وی بقرار زیر است:

#### ۱- شرح لوانجِ جاصن:

لوانج اثر عبدالرحمن حامی (م ۸۹۸ه) است که درس آن در برنامه فوق لیسانس دانشگاه کراچی شامل بوده است. استاد فاضل شرح خود را در سال ۱۹۵۴م عرضه داد و در سال ۱۹۸۵م طبع ثانی کتاب با

تجدد نظر مطالب در آمده است. موضوع "لوانح" وحدت وجود است. جامی نثر مخلوط به نظم بیار می‌آورد. کتاب ۳۴ لاتخه دارد و بیان نویسنده موجز و رمزی است. استاد فاضل جامی و آثارش را معرفی نموده و غیر از ارائه دادن ترجمه و شرح کتاب، مصطلحات صوفیه را هم عرضه داده است.

(۱۲)

### ۲- نقوش جاویدان:

مجموعه کلام اردو و فارسی خود شاعر است. استاد راجع به سایر منظومه‌های خود توضیحاتی مفید عرضه داده است. (۱۳)

### ۳- کنجی معانی:

مجموعه کلام پدر استاد است. استاد فاضل در مقدمه خود شرح احوال و سبک شعر پدرش را معرفی نموده (۱۴) و بعداً کلام وی را با حسن سلیقه مرتب ساخته است (ص ۷۰ + ۱۲۰)

### ۴- ترجمه و توضیح تاریخ:

"مهر نیمروز" (۱۵) غالب: نسبت به این کتاب قبلًا اشارتی رفته است. موضوع این کتاب تاریخ جهان، بوریه تاریخ تیموریان، است. اصل کتاب "پرتستان" بایستی در دو مجلد تألیف می‌شد ولی تنها جلد نخست "مهر نیمروز" تکمیل یافته که وقایع آغاز آفرینش الی نهایت کار پادشاه همایون (۹۶۳هـ) را متضمن است. غالب از ژوئن ۱۸۵۰ م مأمور تدوین این کار بوده و "مهر نیمروز" در ۱۸۵۴/۱۲۷۱هـ تکمیل یافته در صورتی که جلد دوم "پرتستان" با اسم موعد "ماه نیم ماه، اقام نیافته بود که در سال ۱۸۵۷م جنگ آزادی آغاز شد. این جنگ به انقراض سلطنت تیموریان منتهی گردید و آثار ناقم مانده آن اوضاع بفرنج دیگر مفقود می‌باشند. "مهر نیمروز" نوعی از فارسی سره است "دستنبو" درباره وقایع جنگ آزادی هم اثر همانگونه غالب است. از پیش تازان دیگر سره نویسان شبه قاره،

امیر خسرو (م ۷۲۵ هـ صاحب رسائل الاعجاز) و ابوالفضل علامی (م ۱۰۱ هـ) صاحب آنین اکبری و انشاء را می توان نام برد. در "مهرنیمروز" تراکیب نوین و اصطلاحات و ترین و سبک متتنوع و متین غالب واقعاً ستودنی است.

اردو و فارسی دانان آگاه از مشکلات ترجمه عالی اذعان دارند که ترجمه نمودن چنین کتاب صعب می باشد. استاد فاضل نظم را هم ترجمه نموده و مصطلحات و تلمیحات را هم حل نموده است. بهمین علت (۱۶) متن فارسی و ترجمة اردو (۱۷) از نظر ضخامت و قطوری تفاوت زیاد دارند.

### اقبال شناسی استاد فاضل:

در یک بیت چاپ شده "جارید نامه" (۱۸) علامه اقبال بعنوان تحدیث نعمت و تعلی شاعرانه گفته است:

خرگوش و کبک و آهوان، باشد شکار خسروان  
شیران نر بین سرنگون تک بسته بر فتران من آری،  
استاد سید محمد عبدالرشید فاضل هم شامل شیر مردانی است که بر فتران اقبال خود را داو طلبانه بسته اند و بر اسارت خود فخر و میاها می غایبند. استاد فاضل در زمان دانشجویی خود در دانشکده خاور شناسی دانشگاه پنجاب لاہور، بحضور اقبال ایاب و ذهاب داشته، از توجه های وی حظی برده و خطابه اقبال را که به انگلیسی ایراد نموده، استماع هم کرده بود. شاید نخستین مقاله استاد درباره اقبال "علامه اقبال من حیث مصلح" عنوان داشته که در شماره ویژه "نیرنگ خیال" مربوط به ماههای سپتامبر و اکتبر ۱۹۳۲ م چاپ شده و مجدداً چاپ می شود. او گویا در شماره ویژه بزرگداشت علامه اقبال که مجله مزبور در حین زندگانی شاعر انتشار نموده، شریک بوده است. معاشرت ذهنی و فکری استاد فاضل با اقبال به مدت شصت سال نزدیک شده است. ما در این و هله تنها به

### کتب شرح و ترجمه و تألیف استاد اشاره می‌خانیم

(۱) ترجمان خودی، ترجمه منظوم مثنوی اسرار خودی اقبال "اسرار خودی" تعلیمات اساسی اقبال را در بر دارد. "ترجمان خودی" استاد فاضل در سال ۱۹۴۷ م چاپ و در ۱۹۵۶ م تجدید طبع گردید. استاد فاضل بر این ترجمه مقدمه مبسوط افزوده (۲۳۳ ص) و در آن احوال و آثار و زیده افکار اقبال را گنجاند.

او سایر کتب اقبال و آثار نویسندهای مهم اقبال شناس را از نظر گذرانده و مقدمه کتابش واقعاً جزو کتب ارزشمند اقبال شناسی محسوب می‌گردد. بر این کتاب دکتر مولوی عبدالحق (بابای اردو م ۱۹۶۱ م)؛ مولانا ظفر علی خان (م ۱۹۵۶ م)؛ سید اولاد حسین شادان بلگرامی، مولانا حامد حسن قادری، دکتر محمد طاهر فاروقی و مولانا عبدالجید خان سالک (م ۱۹۵۹ م) تقاریظ نوشته‌اند.

راجع به علل فارسی سرایی اقبال مطالب زیادی در دست داریم و بعضی اسباب در دیباچه "بانگ درا" نیز دیده می‌شود. اقبال مثلاً درین بابت سخنان متفاوت دارد (۱) از شعر اردوی خود بیزار می‌شوم، غبار دل را به فارسی بهر خارج می‌سازم"

(۲) "من مثنوی اسرار خودی را به اردو می‌نوشتم ولی این زبان مساعدت نکرد. ناچار به فارسی گرانیدم و مسوده ناقام اردو را تلف نمودم"

(۳) "مطلوب نوین خودی را به فارسی نوشتتم که عده کمتر مردم شبیه قاره آن را بفهمند. مقصود این بود که پیش از فهمیدن افکار، مردم فتنه را بیار نیاورند" (۱۹)

اقبال بعداً از شیوع پیغام خود در میان فارسی زیانان و فارسی دانان دل گرم و خوشحال گردید. استاد فاضل سایر علل را بیان نموده به

عالیگیریت شرقی فارسی بیشتر ارج می‌نهد. او از عان می‌نماید که تقریباً هم‌تہ شرقیان بویژه مسلمانان فارسی دان می‌باشند. لذا کلام فارسی اقبال پیغام او را با سرعت عالیگیر ساخت:

مولانا محمد اسلم جیراچپوری نوشته است که اقبال در محیط هند فارسی سرانی را وسیله ابراز افکار خود ساخته به کوه کنی (۲۰) پرداخته تاملل آسیا که اکثریت آنان فارسی دان می‌باشند، با جوی شیر خیالات وی آشنا تر شوند. اگر او این کار را انجام نمی‌داد، چطور می‌توانست بگردید که:

نوای من به عجم آتش کهن افروخت  
عرب ز نغمه شوقم هنوز بی خبراست (۲۱)

وشاد روان دکتر عبدالرحمن پجنوری گفته بود: در بعضی مواقع مردم سوال می‌کنند که سروده شدن مشنوی‌های اسرار خودی و رموز بی‌خودی در فارسی بجای اردو چه فائد دارد؟

باید متوجه باشیم که اقبال جزو کسانی است که گاه گاه برای عرضه دادن پیغام خاص به منصه شهود می‌رسند، پیغام وی برای همه جهان خاصه برای مسلمانان است. مشنوی‌های وی باید مانند گلستان سعدی در مدارس دهلي، کابل "تهران" قاهره، قازان، استنبول و حرعین شریفین تدریس شوند و برومنبرهای شهرهای مسلمانان مثل مشنوی مولوی خوانده شوند.

(۲۲) مولانا محمد علی جوهر فرموده که بوسیله این مشنویها پیغام اقبال تقریباً به نقاط وسیع ترجهان اسلام رسیده و این کار از دست شعر اردو ساخته نمی‌شد. شاعر خودش اینک به این موفقیت خود متوجه است که زیان فارسی موجبات آن را برایش فراهم ساخته است:

عجم از نغمه های من جوان شد  
ز سودایم متاع او گران شد

هجومی بود ره گم کرده در دشت  
ز آواز درایم کار دان شد  
خودی تمثیلات عجم از نعمه من آتش بجان است  
صدای من درای کاروان است  
حدی را تیز تر خوانم چو عرفی  
که ره خوابیده و محمل گران است  
ز جان بی قرار آتش گشادم  
دلی در سبته مشرق نهادم  
کل او شعله زار از ناله من  
چو برق اندر نهاد او فتادم (۲۳)  
در مقدمه خود استاد فاضل سایر نکات ادبی را هم عرضه می  
نماید. از آنجلمه است تبع و پیروی شعرای متاخر از متقدمان

(۲) بیان بیخودی (ترجمه منظوم مثنوی رموز بیخودی): بیان بیخودی در سال ۱۹۸۶م انتشار یافت. استاد فاضل در هر مصراج یک رکن اضافی آورده ترجمه خود را مترنم و واضح تر ساخته است. توضیح این امر ضروری است که تنها مثنوی "گلشن راز جدید" اقبال در وزن دویستی یا در بحر گلشن راز است متضمن هر مصراج به "مفاعلین" مفاعلین" با فعلن"، بقیه مثنویهای اقبال، از آنجلمه مثنویهای اسرار خودی و رموز بیخودی، در وزن مثنوی معنوی می باشند: فاعلان، فاعلاتن، فاعلن یا فاعلات، استاد فاضل در ترجمه خود "یک فاعلان" را در هر مصراج اضافه نموده است. بطور غونه ترجمه افتتاحی مثنوی "رموز بیخودی" را مع اصل متن ملاحظه بفرمایند:

ستفال: اصل آن:

ای ترا حق خاتم اقوام کرد

بر تو هر آغاز را الحجام کرد (۲۴)

ترجمہ اردو:

ای کہ مجھے کو خاتم اقوام خالق نے کیا

اور هر آغاز کا الحجام مجھے پر کر دیا (۲۵)

"بیان بیخودی" بعنوان مقدمہ توضیحی دربارہ بیخودی، یعنی حسن

همکاری فرد با جامعہ، دارد (ص-۱۱) وسپس ترجمہ کتاب گنجانده شدہ

است. "ترجمان خودی و بیان بیخودی" اینک بوسیله اکادمی اقبال در لاہور

یکجا در شرف چاپ می باشند.

### ۳- سلسلہ درسیات اقبال در ۳ جلد: هر مجلد کتاب این

سلسلہ در حدود دویست صفحہ دارد و اینها در حوالی سال ۱۹۷۳ م

بوسیله اکادمی اقبال چاپ گردیده را خبراً در صورت مجلدی واحد تجدید

چاپ گردیده اند، مقصود از این کتابها آشنائی نژاد نو به آثار و افکار

اقبال است. اقبال در آثار خود حکایات آورده و مطالب مفید در مکاتیب و

مجموعہ های گفتار وی نیز مشهور می باشند، استاد فاضل چون بر سایر

آثار منتشر و منظوم اقبال متوجه است، او مطالب را از نظر سهولت و

آسانی فهم جوانان مرتب ساخته از "سهیل به دشوار" گرانیده است. کتابها

مانند دروس خود آموز مرتب گردیده و در آخر هر درس سوال و جواب و

فرهنگ لغات هم شامل کرده اند. برای ملاحظه غوتن غونہ مطالب،

مکتوب مختصر اقبال را به فارسی بر می گردانیم. این نامہ بعنوان سید

اکبر حسین رضوی معروف به اکبر الله آبادی (م ۱۹۲۱) نوشته شده است.

سبالکوت ۱۳ اوت ۱۹۱۸ م

مخدم من السلام عليکم

نامه جناب عالی از لاھور برگردانده شده و اینجا آن را دریافت نمودم خدا را شکر که احوال شما بهبود یافته است. شما درست فرموده اید که یک نگاه پر شفقت پدر بر هزار کتابخانه رجحان دارد. من بهمین علت بحضور بدست آمدن فرصتی بحضور پدر می رسم و بجای روی آوردن به بیلاقی در تعطیلات تابستانی، از گرمی صحبت وی استفاده می کنم.

پریشب بوقت صرف شام پدرم بذکر یکی از خوشان ما می پرداخت. این یگانه ما در این ایام درگذشته است. در دوران ذکر پدرم فرمود: "نمی دانیم انسان از کی از پروردگار خود در جدائی بسرمی برد". ذکری از جدائی او راچنان متأثر ساخت که گویا از هوش در رفت. تاسعات یازده شب وضعش تغیر نکرد. این نوع حرف خطابه های خاموش اند که از گلوی پیران شرق، یواشگی سر می زندند. درسگاههای غربیان از اینگونه خطابه ها خبری ندارند. پدر بزرگوار به جناب والسلام می فرستند

مخلص جناب عالی،

محمد اقبال (۲۶)

پیداست که مطالب مانند یکی ارائه داده در فوق، برای نژاد نو اثرات خوب تولید می غایبند.

۴- شوی بال جبریل: "بال جبریل" دیوان دوم شعر اردوی اقبال است. این مجموعه از نظر لفظ و معنی و بخارط تضمینهای دلاویز فارسی بسیار دلپذیر واقع شده است. در این مجموعه سایر اصناف شعر دیده می شود، ۸۰ غزل، ۴ دویتی، ترکیب بند ها، منظمه های طویل و مختصر و قطعه ها وغیره. غزلهای آن شبیه غزلیات زیور عجم است و دویتی ها همانند دویتهای پیام مشرق مطبع نظر شاعر را اشعار سر نامه آشکار می سازند:

خیز خورشید را سامان سفر تازه کنیم

نفس سوخته شام و سحر تازه کینم (۲۷)

می توان الماس را سودن پایپرگ گل، جگر

بر دل نادان کلام نرم و نازک بی اثر (۲۸)

بهر طور "بال جبریل" مختصات عالی زیاد دار دو شارحن هم آن را  
مورد توجه قرار داده اند. پیش از استاد فاضل، حکیم نستر جالندری و  
یوسف سلیم چشتی و غلام رسول مهر شروح برآن نوشته ولی سایر ناقدين  
متفرق القول اند که شرح استاد فاضل بر شروح دیگر رجحان لایع دارد. او  
به لفظ و معنی هر دو متوجه بوده و معانی اشعار را طوری بیان کرده که از  
مجاز و هم حقیقت جالب توجه است. این شارح ابهامات و تعقیدات شاعر  
را با کمال سادگی مرتفع می سازد "بال جبریل" چون در بر نامه تدریس  
اکثر دانشگاهای پاکستان شامل است، لذا استاد فاضل به احتیاجات  
محصلان متوجه بوده و به اختصار گرانیده است.

**۵- علامه اقبال و تصوف:** کتاب قطوری است در نمایاندن  
موقف واقعی علامه اقبال در ماله و ماعلیه تصوف (۲۹). اقبال در مثنوی  
اسرار خودی علیه تصوف بی عمل تاخته و در بسیاری از نامه ها و مقاله  
ها خود نیز تصوف جمود آور و رکود پرور را نکوهیده بود، لذا شائع شد  
که او اساساً مخالف تصوف است. در سال ۱۹۸۵م چند باب تاریخ تصوف  
نوشته وی چاپ گردید. اقبال این کتاب را بین سالهای ۱۹۱۶ الی ۱۹۱۹  
م ۱۹۱۹م احیاناً می نوشت ولی بعد آن را بعد از ذکر حسین منصور این  
الخلج (م ۳۰۹ه) ناقام گذاشت. این کتاب هم موقف اقبال را موضع است  
که او تصوف خودی آموز را مورد تائید قرار می دهد و صوفیان مجاهد و  
ساعی بهبود جامعه را دوست می دارد ولی از خود فراموشان و بی عملان  
او همواره متزجر بوده است:

گر تو میخواهی مسلمان زیستن  
نمیست ممکن جز بقران زیست  
صوفی پشمینه پوش حال مست  
از شراب نفمه قول مست  
آتش از شعر عراقی درویش

در تغیی سازد به قرآن محفلش (۱)

ز من گو صوفیان با صفا را  
خدا جویان معنی آشنا را  
غلام همت آن خود پرستم  
که با نور خودی بینند خدا را (۳۲)  
تو کبستی؟ زکجانی؟ که آسمان کبود  
هزار چشم براه تو از ستاره گشود  
چه گوییت که چه بودی چه کرده ای چه شدی  
که خون کند جگرم را ایازی محمود  
تو آن نه ای که مصلی زکه کشان می‌گرد؟  
شراب صوفی و شاعر ترا ز خویش روید (۳۳)

پس مؤقف اقبال در قبال صوفیه و تصوّف همان خذ ما صفا و دع  
ما کدر، است. او صوفیه این عصر را برای ترک خانقاها توصیه نموده و  
برای تسلی فقر و تصوّف واقعی پیغام داده است:

فقر کافر خلوت دشت و دراست  
فقر مؤمن لزه بحر و بر است  
زندگی آن را سکون غا و کوه  
زندگی این راز مرگ با شکوه

آن خدا را جستن از ترک بدن  
این خودی را بر فسان حق زدن  
آن خودی را کشتن و وا سوختن  
این خودی را چون چراغ افروختن  
فقر عربان گرمی بدر و حنین  
فقر عربان بانگ تکبیر حسین(رض) (۳۴)

**۶- اقبال و عشق و سالتماب** : این کتاب مهم در ۱۹۵۸ م  
حلیه چاپ پوشید. در ۱۹۷۷ م اداره اعتقاد پبلشنگ هاؤس دهلی، بدون  
اجازه مؤلف آن را چاپ نمود. آن اداره در اسم کتاب و مؤلف هم تصریفی  
کرده و کتاب را "اقبال و عشق رسول" و مؤلف را پروفیسر سید محمد  
عبدالرشید، نوشت، در سال ۱۹۸۸ م مؤلف کتاب را با تجدید نظر چاپ  
ساخته است. (۳۵)

درباره موضوع حُب و عشق رسول(ص) کتب و مقالات زیاد نوشته  
شده ولی جامعیت و حسن سلیقه کتاب استاد فاضل در آنها دیده نمی شود.  
استاد فاضل به ترجمه اشعار فارسی توجه دارد و مطالب را معلمانه واضح  
می کند در صورتی که اکثر دیگران قارئین را در پیچاک ابیات مشکل و  
ابهام عبارات گذاشته از یک عنوان بدیگری می پرند.

استاد فاضل به ذکر و حُب رسول(ص) در سایر آثار اقبال مرور  
کرد و بعضی از اشعار را توضیح هم داد. او غونه های شعرای فارسی و  
ارود را ارائه داد و بیان و شعر آنان را در مقابل موارد همسان آثار اقبال  
قرار داد. در میان شعرای فارسی، ابیات سنائی و عطار و رومی و نظامی و  
خاقانی و سعدی و امیر خسرو و جامی و عرفی و فیضی و قدسی مشهدی  
و غنی کشمیری و ناصر علی سرهندي و نظیری نیشاپوری وغیرهم درین  
مطالعه متقابل نقل گردیده است:

معنى دیدار آن آخر زمان (ص)  
 حکم او بر خویشتن کردن روان  
 در جهان زی چون رسول(ص) انس و جان  
 تا چو او باشی قبول انس و جان  
 باز خود را بین، همین دیدار اوست  
 سنت او سری از اسرار اوست  
 (کتاب مورد بحث ص ۹۵)

**۷- اقبال و پاکستان:** این کتاب تحقیقی خدمات علامه اقبال را در زمینه تجزیه شبه قاره هند و تشکیل کشور پاکستان بیان می کند. راجع به این موضوع کتب و مقالات مختلف نوشته شده ولی کمتر کسی مثل استاد فاضل مدت طولانیتر ۱۹۰۸م الی آخر ۱۹۳۸م خدمات اقبال را احاطه کرده و از سایر آثار وی، بوریه از کتب منظوم وی پرتبیب اشاعت نخست هر یکی از آرمانهای سیاسی اقبال را استخراج نموده بتوضیح آنها پرداخته باشد. درباره نهضت پاکستان سه اثر اقبال بسیار هویت دارد:

۱- در اوخر ۱۹۳۰م او ریاست اجلاسیه مسلم لیگ کل هند را بعهده گرفته، در خطابه معروف خود راجع به لزوم تجزیه هند و تشکیل دولت مسلمانان در استانهای مسلمان صحبت مفصل کرده و اقامه اوله و برآهین نموده بود. این اجلاسیه در شهر الہ آباد تشکیل گردیده نمود.

۲- روز ۲۱ مارس سال ۱۹۳۲م او ریاست اجلاسیه مسلم کنفرانس کل هند را در لاھور بعهده داشته و در خطابه ریاست، مانند خطابه ۱۹۳۰م از لزوم تقسیم هند دفاع کرد.

۳- ۱۸ نامه های اقبال بعنوان قائد اعظم محمد علی جناح بدست داریم. در این نامه ها از لزوم تشکیل پاکستان ذکر گردیده است.

البته کتاب استاد فاضل حاکی سیر تدریجی، نهضت پاکستان

است مثلاً چند اشعار فارسی را در زیر ملاحظه بفرمایید که در اینها به تشخّص جداگانه مسلمانان و لزوم با امکانات تشکیل پاکستان اشاراتی دیده می‌شود:

خانه سوز محنت چل ساله شو  
طف خود کن شعله جواله شو  
زندگی از طوف دیگر رستن است  
خوش را بیت الحرم دانستن است  
پرزن و از جذب خاک آزاد باش  
همجو طائر این از افتاد باش  
تو اگر طائر نه ای ای هوشمند  
بر سر غار آشیان خود مبند (۳۶)  
از مقام خوش دور افتاده ای  
کرگسی کم کن که شاهین زاده ای  
مرغلک اندر شاخسار بستان  
بر مراد خوش بند آشیان  
تو که داری فکرت گردون مسیر  
خوش را از مرغکی کستر مگیر  
دیگر این نه آسمان تعمیر کن  
بر مراد خود جهان تعمیر کن  
احتساب خوش کن از خود مرو  
یک دو دم از غیر خود بیگانه شو  
تا کجا این خوف و وسواس و هراس  
اندر این کشور مقام خود شناس  
این چمن دارد بسی شاخ بلند  
بر نگون شاخ آشیان خود مبند

در لهنوای، هنر نفمه داری (۳۷) در گلوای بی خبر نداشتند که تسا  
نیل لکه ای نداشتند، جنس خود بشناس و با زاغان مپرسند لکه رخشد

۸- ذکو فاضل: این کتاب را تلمیذ استاد، مرحوم دکتر محمد  
یوسف فاروقی (۳۸) تألیف نموده ولی اطلاعات آن مدیون استاد فاضل  
است. این کتاب ذکر احوال و آثار استاد را دارد و تبصره ها و تقریظها  
که درباره آثار این استاد نامدار نوشته شده، همه درین اثر باسلیقه و حسن  
ترتیب گنجانده شده است.

#### خانمه سخن:

استاد فاضل بعد از بازنشستگی از خدمت، در سال ۱۹۷۳ م  
مشارف به حج و زیارت حرمین شریفین گردید. او دوسر و دو دختردارد که  
همه تحصیلات عالی کسب نموده اند. در هشتاد و اند سالگی او هنوز  
مشغول مطالعه و تألیف و تصنیف است.

او آثار زیاد در صورت مسوده ها دارد ولی بنا بر طبع غیر خود او  
برای چاپ آنها دنبال اداره ها نمی گردد. در میان مسوده های وی برخی  
بقرار زیر می باشند.

مطالعه اقبال، سفر حجاز، شرح دیوان اردوی غالب، معرفی نامه  
فانی بدایونی (م ۱۹۴۲)، مطالعه جامی، ترجمه تمثیل فارسی، حکیم  
نباتات، مقالات فاضل، شرح مهرنیمزروز غالب و شرح باقبات فانی، بهر  
طور استاد فاضل مانند اقبال هنوز هم گویا دست بدعاست (کلیات فارسی  
اقبال ص ۴۱۲) که:

تو اگر کرم غائی، بمعاشران بیخشم  
دو سه جام دلفروزی ز منی شبانه دارم



## مراجع و حواشی

- ۱- جاوید نامه، کلیات اقبال فارسی؛ لاہور ۱۹۷۳ م و بعد ص ۷۷۱
- ۲- پس چه باید کرد، ایضاً ص ۸۲۵
- ۳- فارسی گویان پاکستان، تألیف دکتر سید سیوط حسن رضوی، ناشر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - راولپنڈی ۱۹۷۴ م ص ۴۹، ۳۹
- ۴- ذکر فاضل مرتبه شاد روان دکتر محمد یوسف فاروقی، کراچی، اداره تحریرات علم و ادب ۱۹۸۲ م، ص ۱۷ ابتدائی
- ۵- نقش چاویدان، کراچی، اداره تحریرات علم و ادب ۱۹۷۳ م ص ۱۶۸
- ۶- آئندہ
- ۷- نردهان
- ۸- ذکر فاضل، ص ۷۵، ۷۴
- ۹- جاوید نامه، کلیات اقبال، فارسی، ص ۷۲۲
- ۱۰- پس چه باید کرد، کلیات فارسی اقبال، ص ۸۲۳
- ۱۱- ص ۲۶۸، با مقدمه استاد فاضل
- ۱۲- چاپ دوم، اداره تحریرات علم و ادب، ص ۱۷۶
- ۱۳- رجوع شود به: شماره ۵ در فوق
- ۱۴- بنگرید: گلشن معانی ص ۱۱
- ۱۵- مهرنیمزروز مرتبه استاد دکتر عبدالشکر احسن، دانشگاه پنجاب لاہور ۱۹۶۹ م ص (امن)
- ۱۶- ایضاً
- ۱۷- ایضاً ص ۱۷۶ و ۳۲۹ بالترتیب
- ۱۸- رجوع شود به مسوده کتاب در موزه اقبال در لاہور (قسمت فلک زهره)
- ۱۹- برای این انتباسات ملاحظه شود بالترتیب مکاتب اقبال بنام گرامی، اقبال اکادمی ۱۹۶۹ م ص ۹۸ تا ۱۰۰، انوار اقبال، اقبال اکادمی ۱۹۶۸ م ص ۱۵۶ نامه بنام تکین کاظمی.

- ۲- نوادرات، اداره طلوع اسلام، مقاله پیام مشرق اقبال
- ۲۱- پیام مشرق، کلیات فارسی اقبال ص ۲۱۷
- ۲۲- مجله ایست آند ویست " روم (اطالیه) بایت ژانویه ۱۹۱۹ م
- ۲۳- پیام مشرق، کلیات فارسی اقبال ص ۱۴۲ تا ۱۴۲
- ۲۴- کلیات فارسی اقبال ص ۸۱
- ۲۵- بیان بیخودی ص ۱۲
- ۲۶- کتاب دوم درسیاست، اکادمی اقبال ۱۹۷۳ م ص ۹۷
- ۲۷- ترجمة اشعار اردو به فارسی از نگارنده است
- ۲۸- ماخوذ از شاعر اقدم هندی برتری هری از خدمت، در ۱۹۶۲ م
- ۲۹- ص ۴۳۲، طبع ۱۹۶۷.
- ۳۰- مرتبه صابر حسین کلوروی، مکتبته تعمیر انسانیت
- ۳۱- ۳۴- کلیات فارسی اقبال صفحات بالترتیب ۱۲۳، ۱۲۷، ۲۲۷، ۵۱، ۸۱۸
- ۳۵- صفحات ۱۹۲
- ۳۶- ۳۷- کلیات فارسی اقبال ص ۶۵، ۶۶، ۸۲۰، ۸۹
- ۳۸- آقای عبدالرحمن بزمی در شعری مرحوم دکتر فاروقی و این نگارنده را  
یکجا ذکر کرده آند:
- ذَاكُرْ يُوسُفْ هُوْ يَا كَهْ ذَاكُرْ صَاحِبْ رِيَاضْ  
صَاحِبَانْ فَضْلْ وَ دَانِشْ هُيْنْ تَلَامِيذَ الرَّشِيدْ
- ترجمه: دکتر محمد یوسف فاروقی باشند یا آقای دکتر محمد ریاض کافانی، بهر  
تلامیذ عبدالرشید فاضل صاحبان فضل و دانش می باشند.
- \* \* \* \*
- ۷۱- ۷۲- ۷۳- ۷۴- ۷۵-
- ۸۱-

حسین عارف نقوی

اسلام آباد

ترجمه های متون فارسی

۶ زبانهای پاکستانی

گفتار حاضر مشتمل است بر تکمله کتاب "ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی از دکتر پروفسور اخت راهی و مقاله به همین عنوان از آقای عارف نوشاهی (رک دانش: ۱۴ ص ۸۵ - ۱۳۱) که در کتاب مقاله مزبور ذکر نشده است.

این کتابشناسی بر ترتیب الفبائی تنظیم شده است. عنوان متن

فارسی

<sup>\*</sup> با علامت یک گل و عنوان ترجمه یافته ها نشانگزاري شده است:

## \* ۱- آفتاب ظهر، مهدی:

مولانا سید علی حسن اختر (م ۲۲ ذی الحجه ۱۴۰۹ھ) ۱۴۴  
ص، مفید بک ایجنسی کراچی (پاکستان)، سنده آگسٹ پریس، ۲۵، ذی  
قعدہ ۱۴۰۳ھ، کاتب: جعفر زیدی

\* - آیات القیومیہ: سید امام علی شاہ مکان شریفی

۲- ماہ و انجم: دکتر محمد مسعود احمد

احوال و آثار سید امام علی شاہ مکان شریفی، سید صادق علی  
شاہ مکان شریفی و محمد مسعود شاہ محدث دھلوی (جهان مسعود ص

(۵۸)

\* - ابوالفضل: ابوالفضل علامی

۳- بامحاورہ اردو ترجمہ و شرح: مولانا عبدالعلیم

۵۲ ص، بها: ۲۰۸ آنہ، مطبع ارمغان دھلی، ۱۸۸۴ م

۴- تشریحات بلگرامی بر مکاتبات علامی (دفتر سوم): سید  
اولاد حسین شادان بلگرامی (۶۴ + ۱۹۱) ص، بها: ۱۵۰ روپیہ

شیخ مبارک علی بک سبلر لاہور، مطبع کرعی لاہور (پاکستان)،

۱۹۳۰ م

۵- اپنے وطن کے لئے: دکتر محمد علی زرنگار

ترجمہ خود نوشت محمد رضا شاہ پہلوی، ۳۰۵ ص، سفارت خانہ

ایران کراچی (پاکستان)، ۱۹۶۳ م

\* - اثبات الرجعت: محمد باقر مجلسی (رح)

۶- لوح محفوظ (منظوم): اثر

سہ هزار بیت دارد، مخطوطہ، ۱۰۹ ص (قاموس: ۱)

\* - داستان راستان: آیت اللہ مرتضی مطہری (رح)

۷- اجنبی شخص: آغا محمد ناصر

ترجمہ تنہایک جز "داستان راستان" ۲۲ ص، بها: هشت روپیہ،

خانہ فرهنگ جمہوری اسلامی ایران کوٹنہ (پاکستان)، مارچ ۱۹۸۶ م

شفاف پرنشنگ ایجنسی لاہور (پاکستان)، کاتب : محمد باقر

\* - احادیث قدسیہ : شیخ عباس قمی (رح)

- کلام ربانی : ابو محمد نقوی بن سید غلام عباس

۱۲۰ ص، سید نذیر حسین نقوی، مرکنتائل پریس، لاہور

(پاکستان)

\* - احکام بانوان : م وحیدی

۹ - آسان مسائل : بیگم ط - سیده

۱۴۵ ص، دارالثقافتہ الاسلامیہ، کراچی (پاکستان)، ۱۴۰۷ھ /

۱۹۸۶ م

کاتب : سید جعفر صادق

\* - احکام شیعیان

۱۰ - احکام شیعیان (عقائد شیعہ) : مرزا حسن احقاقی کربلائی

۱۰۰ ص، مدرسه جامعۃ الثقلین، خانیوال روڈ، ملتان (پاکستان)،

جون ۱۹۸۴ م

\* - احکام الصلوٰۃ :-

۱۱ - شریعت نامہ : شاه مالک بیجا پوری (قاموس : ۱)

\* - اخبار الاولیاء : عبدالله خوشگی عبدالی

۱۲ - ترجمه اخبار الاولیاء :-، نسخہ خطی، (احوال و آثار ۷۸)

۱۳ - ترجمه و تلخیص اخبار الاولیاء : دکتر مولوی محمد شفیع

نسخہ خطی (احوال و آثار ۷۸)

\* - اخلاق جلالی : جلال الدین دوانی (م ۹۰۷ھ)

- ١٤- ظہیر الاخلاق : مولانا سید ظہیر الحسن زیدی آف پیدی ضلع بجنور (ہند) ۱۱۲ ص، گلزار محمدی ستیم پریس، لاہور (پاکستان)
- ١٥- شعلہ جوآلہ : پاندیت کریما رام منشی فاضل حل بعض مقامات اخلاق جلالی، ۳۲ ص، بها، سہ آنہ
- الہی بخش تاجر کتب لاہور، مطبع گنیش پرکاش لاہور (پاکستان)
- ١٦- تاریخ میلکم و اخلاق جلالی کا اردو ترجمہ مع فرهنگ: مولوی محمد فیروز الدین، ترجمہ تنہا لمعہ دوم و چہارم، ۱۷۵ ص، بها : شش آنہ مطبع مفید عام لاہور (پاکستان)، ۱۸۸۷ م
- ١٧- نیر اعظم : مولانا غلام حسین داد ۸۴ ص، مطبع عزیز دکن، حیدر آباد دکن (ہند)، ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۳م
- ١٨- معاون اخلاق : آقا بیدار بخت سوالاً جواباً، ۸۸ ص، بها : یک روپیہ تاج بدپور لاہور، انشاء پرنٹنگ پریس، لاہور (پاکستان)
- \* - اخلاق محسنی : ملا حسین بن علی واعظ کاشفی (م ۶۹۱ھ)
- ١٩- جوهر اخلاق : نشر شادمانی، بها : ۴ آنہ ۶۱- ۶۲- ۶۳-
- ٢٠- خلاصہ اخلاق محسنی (تحفہ جعفریہ)
- \* - اخلاق ناصری : خواجہ نصیر الدین طوسی (م ۶۷۲ھ)
- ٢١- تحفہ جعفری یعنی خلاصہ اخلاق ناصری : مولانا میرزا محمد

جعفر کشمیری رامپوری، ۱۰۹ ص، بہا : یک روپیہ، شیخ جان محمد اللہ بخش، تاجران کتب علوم مشرقی لاہور (پاکستان)، رفاه عام ستم پریس لاہور، اپریل ۱۹۳۱ م

۲۲- بھاگ بھری : کنھیا لال، ۶۳ ص، منشی گلاب سنگھ، لکھنؤ (ہند)، ۱۸۹۲ م

۲۳- مطلع الاخلاق، ترجمہ انتخاب اخلاق ناصری : درگاہ پرشاد نادر دھلوی، ۲۷ ص، مطبع محمد سعادت علی خان، ۱۲۸۲ھ/مارج ۱۸۶۶ م

مولانا مظہر الحق قطعہ تاریخ گفت:

۲۴- اسرار جو یہ مجموعہ اخلاق نادر علی لایق تذکرہ، ہر منظمه جہار آنہ، کتب کھانہ حیدر آباد، ۱۲۸۲ھ  
کھا ہاتھ نئے لکھ مظہر یہ تاریخ چہبا گلاستہ اخلاق زیبا

۱۲۸۲

۲۵- فرنگ اخلاق ناصری : درگاہ پرشاد نادر، ۱۶ ص،

مطبع محمد سعادت علی خان، ۱۲۸۲ھ، مرزا اشرف بیگ قطعہ تاریخ گفت:

۲۶- بھر تاریخ کتاب اوستاد منشی والا وہم دانش قرین سر بزانو بردم و گفتمن بغور کن مخالفت، اسلام میں ایسا ہی سال تاریخش «زہی نثر متین» روایت (۱۲۸۲ھ) لکھیہ لسانیہ خواری، ۱۶۸۲

۲۷- خلاصہ اخلاق ناصری : محمد اشرف خالد، ۹۸ ص، بہا : یک روپیہ ترجمہ تنہا مقالہ اول، حاجی فرمان علی بک سیلر، لاہور، رشید

آرت پریس لاہور (پاکستان)

\* - اذکار قلندری : پیر فرح بخش فرحت خادم دربار سید احمد توخته

۲۶ - سوانح قلندر شاه قریشی هاشمی هنکاری (م ۱۲۷۹ھ / ۱۷۰۰م) : غلام دستگیر نامی، ۵۲ ص،

مطبع حمیدیہ، لاہور (پاکستان)، ۱۳۳۲ھ  
متترجم تاریخ چنین گفت است:

جو پوچھے کونی سال طبع نامی

تو کھدو خوب، اذکار قلندر

\* - الارشاد : سید عبداللطیف

۲۷ - تنبیہ العباد ترجمہ الارشاد : غلام محی الدین قادری

مسائل فقه (قاموس ج ۱ : ۳۲۱)

\* - ارض العتاق لاهل الوفاق : علامہ سید ابوالقاسم حائزی (رح)

۲۸ - ارض العتاق لاهل الرفق

جواب یک پرسشی که عراق در زمانہ خلیفہ دوم فتح شدہ بود یقہر و غلبه، خربدن ارض تینوا برای حضرت امام حسین علیہ السلام چگونه جائز بود؟

۱۲ ص، نیو امپیریل پریس، لاہور (پاکستان)، ۱۳۱۴ھ /

۱۸۹۶م

\* - ارمغان حجاز : دکتر محمد اقبال لاہوری (م ۱۹۳۸م)

۲۹ - ماورائی مجاز : آغا بیدار بخت

۱۸۶ ص، بها : دو روپیہ چهار آنہ، تاج بکدپو، انشا پریس،

لاہور (پاکستان)

\* - اسرار الاولیاء : شیخ فرید الدین گنج شکر

- ۳۰ - اسرار الاولیاء : پروفسور عبدالسمیع ضیاء

۲۲۲ ص، بہا : ۱۵ روپیہ

\* - اسرار خودی : دکتر محمد اقبال لاہوری (م ۱۹۳۸ م)

- ۳۱ - اردو ترجمہ اسرار خودی، بہا : ۵ / ۴ روپیہ، جامعہ ملیہ،

دہلی (ہند)

\* - مظہر العجائب

- ۳۲ - اسرار الغرائب ترجمہ مظہر العجائب : مولانا میر محمود

علی لایق تذکرہ طرق خواندن ناد علی، ۴۸ ص، بہا : چھار آنہ، کتب خانہ حیدری، چھتہ بازار حیدر آباد دکن (ہند)، حیدری پریس

\* - ۳۳ - اسلام — دین فطرت : محمد فضل حق

مشتمل بر پفت باب، ۲۴۸ ص، جامعہ تعلیمات اسلامی، پاکستان، کراچی (پاکستان) ۱۴۰۰ھ / ۱۹۸۰م، کاتب، سید جعفر صادق.

دو قسمت دارد بہ عنوانہای زیر:

اسلام میں کام اور محنت، اسلام میں والدہ کا مقام، اسلام میں نیکوکاری، اسلام میں الکھلی مشروبات کی ممانعت، اسلام میں قمار بازی کی مخالفت، اسلام میں جہوث کے خلاف جہاد، اسلام میں اجتماعی روابط، اسلام میں آداب معاشرت، اسلام میں بھائی چارہ اور غم خواری، اسلام میں دوستی کا آئین، اسلام میں پاکیزگی اور صفائی، ۳۰۴ ص جامعہ تعلیمات اسلامی، کراچی، ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱م، کاتب : سید جعفر صادق

(انگلیسی) ۲۸۵

\*

- ۳۵- اسلام کیا ہے ابھی ضمیمه "قرآن یورپی مفکرین کی نظر میں"  
ترجمہ مقالہ دکتر با هنر، خانہ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران،  
۴۲ ص.

\* - اصولہ عشرہ : مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی

- ۳۶- ترجمہ اصولہ عشرہ: محمد مهدی واصف (۱۲۱۷ھ) (۱۲۹۰)

جواب پرستش ہائی پادشاہ بخارا دربارہ امور اسلامی، ۳۴۰ ص،  
نسخہ خطی (تذکرہ مخطوطات، ج ۵)

- ۳۷- اشغال و اذکار و مراقبات طریقہ شریفہ مشائخ مجددیہ،  
ترجمہ مع من، ۴۰ ص، آرمی پریس کراچی (پاکستان)

\* - الاصول الاربعہ فی تردید الوهابیہ : مولانا محمد حسن جان سرہندی

- ۳۸- الاصول الاربعہ فی تردید الوهابیہ : مولانا حافظ محمد عبدالستار قادری چشتی، ۲۰۰ ص (مراة التصانیف : ۲۵۱)

۳۹- ترجمہ الاصول الاربعہ فی تردید الوهابیہ : مولانا عبدالحکیم خان شاہ جہانپوری، (مراة التصانیف : ۲۵۱)

\* - اصول حدیث : شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۴۰- اصول حدیث : شیخ الہی بخش بھاری (قاموس ج ۱)

\* - آیت اللہ سید روح اللہ خمینی (رح) (م ۱۴۰۹ھ)

۴۱- اقوال رہبر : شیخ اسد علی شجاعتی ۲۴۸ ص، بہا : ۱۵

روپیہ

ترجمہ انتخاب بیانات و پیغامات آیت اللہ(رح) چھار فصل۔

۱۰۱- اسلام — امام کی نظر میں

۱۰۲- دوم: اسلام کے سیاسی اور حکومتی مسائل

۱۰۳- سوم: اسلام کے سیاسی اور حکومتی مسائل

۱۰۴- چہارم: امام اور اسلامی جمہوریہ

۱۰۵- امامیہ پبلی کیشنز، لاہور (پاکستان)، مارچ ۱۹۸۲م، شرکت

پرنٹنگ پریس لاہور (پاکستان) ۱۹۸۳م، قادر

۱۰۶- انتظار : آیت اللہ مکارم شیرازی

۱۰۷- انتخاب مشنویات و غزلیات امیر خسرو دہلوی : مولانا سید

حسن عباس رضوی فطرت، ترجمہ مع متن، ۱۹۷۵م، ہند

۱۰۸- انتظار : آیت اللہ مکارم شیرازی

۱۰۹- فلسفہ انتظار : سید احمد علی عابدی

۱۱۰- ص، بها : هشت روپیہ، نور اسلام امامبارہ فیض آباد (یو-

پی)، ۱۹۸۳م، امیرالمؤمنین پریس، قم (ایران)، کاتب : حسن اختر لکھنؤی

۱۱۱- انتقام خونین : سید محمد علی افجه ای

۱۱۲- انتقام خونین یا خروج مختار : مولانا سید علی حسن اختر

امریکی (م ۱۴۰۹ھ) ۷۱ ص، بها : ۵ روپیہ، رضوی بلک ایجنسی کراچی،

جو لاتی ۱۹۸۰م، مترجم تاریخ چاپ گفتہ است بقرار زیر:

گھر ہی تاریخ ترجمہ درکار — لکھدو اختر "سعید ہی مختار"

۱۱۳- الانوار الخمسہ : مولانا سید ابوالقاسم حائزی (م ۱۳۲۴ھ)

۱۱۴- الاذکار الخمسہ (ذریعہ)

- \* - انبس الارواح : خواجہ معین الدین چشتی  
۱۴ - روح الارواح : مولانا محمد عبدالصمد کلیم  
۲۸ ص، ۱۳۰۸ھ مطبع رضوی (دہلی) (مرآۃ التصانیف :  
۱۱۶)
- \* - اوراد : شیخ یعقوب چرخی  
۴۷ - اوراد : —، نسخہ خطی، ترجمہ مع من ۱۰۰ ص،  
۱۸۳۵م (قاموس ج ۱ : ۱۰۶۵)
- \* - اوراد امیریہ : سید علی همدانی (رح) (م ۷۸۶)
- \* - اوراد امیریہ : غلام حسن بلستانی  
۱۸۰ ص، بها : ۰/۵ روپیہ، مشتمل است یوسرہ باب  
۱ - اوراد کے فضائل : اسمن پانچ فصلیں بین  
۲ - اوراد و وظائف اور ذکر کی ضرورت : اسمین پانچ فصلیں بین  
۳ - اوراد کے لئے وقت کی تقسیم : اسمین چار فصلیں اور چند  
ورد بین، ندوہ اسلامیہ نور بخشیہ لاہور (پاکستان)، ۱۹۶۸م
- \* - اوصاف الاشراف : شیخ نصیر الدین طوسی (رح)  
۴۹ - تشریف الاوصاف : حکیم ذاکر حسین  
شش باب دارد، ۱۳۲۸ھ/۱۹۲۰م، مطبع اثناعشری،  
دہلی (ہند)
- \* - اویس قرنی (رح) : محمد محمدی  
۴۰ ص، بها: چهار روپیہ، مکتبہ مسعود، ناظم آباد، کراچی  
(پاکستان) ۱۹۸۴م

\* - مصطفیٰ زمانی

۵۱- اونٹنی : محمد فضل حق

۶۴ ص، جامعہ تعلیمات اسلامی، ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱م، قادر پرنترز

کراچی (پاکستان)، کاتب : جعفر صادق

۵۲- ترجمتہ پوستان "ب"

\* - باغ ارم : مصطفیٰ زمانی

۵۲- باغ ارم : محمد فضل حق

تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام، ۷۶ ص، ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱م، قادر

پرنترز کراچی (پاکستان)، کاتب : سید جعفر صادق

\* - بعد ہندی : حافظی

۵۳- کنوز الآخرة : مرزا محمد عباس حسین ہوش، (عقائد شیعہ

- منظوم) ۶۰ ص، مطبع نو لکشور، لکھنؤ (ہند) جمادی الاول

۱۳۲۱ھ/اگست ۱۹۰۳م

آغاز: حمد سے ابتداء کلام کی ہے

برکت سب خدا کے نام کی ہے

ہیں جو احمد نبی اور ہے خدا

ان سے وہ، ان سے یہ نہیں ہیں جدا

۵۴- بعد حمد بلستانی (منظوم) : مولانا اخون محمد سلطان

مرحوم

۶۴ ص، بہا : هشت آنہ، مکتبہ امامیہ سکردو، ہمدرد پرنس

راولپنڈی، کاتب : ملک محمد اسحاق

۵۵- بعد ہندی (منظوم) : فاضل خان بندج بندج، لملہ بیتلہ

۲۸ ص، نومبر ۱۸۸۴م، مطبع نولکشور

آغاز اول که زبان سے نام خدا

اسکی نعمت کا کر تو شکر ادا

پھر تو تعریف کر پیغمبر کی

مدح کر اسکے بعد حیدر کی

انجام: حافظی نے کہے تھے دین کے اصول

سعی اسکی خدا کریں مقبول

شرح هندی کیا ہے فاضل خان

دیوے اسکو خدا بہشت مکان

\* - بناء الاسلام: مفتی میر محمد عباس (م ۱۳۰۶ھ)

مفتی میر محمد عباس بن سید علی اکبر جزائری از اخلاق سید  
نعمت اللہ جزائری بودند - در لکھنؤ ربيع الاول ۱۲۲۴ھ/۱۸۰۹  
م ولادت یافتند و ۲۵، رجب المرجب ۱۳۰۶ھ/ماج ۱۸۸۹م واصل  
بحق شدند. قریباً ۱۵۰ کتاب نو شتند. بعضی اسمائی کتاب این است

۱- روانی القرآن-عربی ۲- تفسیر سورۃ الرحمن - عربی ۳-

تفسیر سورۃ انوار یوسفیہ - فارسی ۵- حاشیہ شرح لمعہ-عربی ۶-

الشرعۃ الغرا عربی دو جلد ۷- منابع الاسلام - عربی دو جلد ۸- لسان

الصباح عربی ۹- رطب العرب دیوان عربی ۱۰- الشعلۃ الجوالہ عربی ۱۱-

اجناس الجناس مثنوی عربی و فارسی ۱۲- بیت الحزن فارسی ۱۳-

آب زلال عربی و فارسی ۱۴- مثنوی نان و حلوا-فارسی ۱۵- ریاحین

الانشاء-خطوط فارسی ۱۶- مثنوی بنیاد اعتقاد-اردو ۱۷-

نصر المؤمنین-فارسی، ردیہود ۱۸- ید بیضا-فارسی ۱۹- ظل مددود-عربی

مکاتیب علماء، عرب و عجم

- ٥٦- بناء الاسلام : مفتی میر محمد عباس (مسائل روزہ فقط) (ذریعہ : ۳)

\* - بوستان : شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

٥٧- ترجمتہ بوستان : شمس بربلوی (اردو : ۲۲۵)

٥٨- ترجمتہ بوستان : حاجی مرزا مغل (اکل کرست : ۱۷۷)

٥٩- بوستان سعدی : مولانا محمد میرزا بیگ خان بیدل دہلوی، ترجمہ باب چہارم تا دهم، مطبع یوسفی دہلی (ہند)، ۱۸۸۱م، ۱۹۵ ص، بہا : ۱۲،

٦٠- حکایات بوستان ۹۶ ص، بہا : شش آنہ هشت پائی، فیروز سنز لاہور، ۱۹۴۸ء، فیروز پرنٹنگ پرس، لاہور

\* - صادق الاحوال:-

٦١- بوستان خیال، جلد اول موسوم به مهدی نامہ : مرزا محمد عسکری عرف چھوئے آغا لکھنؤی، ۱۸۸۰م (آصفیہ)

\* - معزالدین نامہ

٦٢- بوستان خیال، جلد دوم موسوم به روحتہ ابصار مرزا محمد عسکری عرف چھوئے آغا لکھنؤی، ۱۸۸۹م (آصفیہ)

\* - جمشید نامہ

٦٣- بوستان خیال جلد سوم موسوم به ضیا الابصار : مرزا محمد عسکری عرف چھوئے آغا لکھنؤی، ۱۸۹۹م (آصفیہ)

\* - خورشید نامہ

٦٤- بوستان خیال، جلد چہارم موسوم به شمس النہار، ۱۸۹۲م (آصفیہ)

٦٥- بوستان خیال، جلد پنجم : منشی پیاره میرزا ۱۹۰۹م  
(آصفیه) (٤: نهن)

\* - خورشید نامه

٦٦- بوستان خیال، جلد ششم موسوم به خزانته الاسرار : نواب میرزا محسن علی خان عرف آغا حجو خان (آصفیه)

٦٧- بوستان خیال، جلد هفتم موسوم به نورالانتوار : نواب میرزا محسن علی خان عرف آغا حجو خان، ۱۹۰۷م (آصفیه)

٦٨- بوستان خیال جلد هشتم موسوم به مشرق الآثار منشی پیاره میرزا لکھنؤی، ۱۹۰۷م (آصفیه)

٦٩- بوستان خیال، جلد نهم موسوم به تفریح الاحرار، منشی پیاره میرزا و میرزا علی خان لکھنؤی، ۱۸۹۲، (آصفیه)

\*

مولانا میرزا محمد علی بن حجۃالاسلام محمد حسین مرعشی  
شهر سtanی

٧٠- البيان المبرهن فی نفی عرس قاسم بن الحسن(ع) : مولانا سید حسین گریان ۵۲ ص، جواب یک پرسش درباره عروسی حضرت قاسم بن الحسن(ع)، ترجمه مع من، ۱۹۰۶، تصویر عالم پریس، لکھنؤ

مرزا کاظم حسین محشر تاریخ طبع گفت:

از بیان مبرهن و روشن

حق چو مهر مبین هویدا شد

ادعای عروسی قاسم

بی سرو پا بچشم بینا شد

(نیکت)

۷۸ - خواندن وهم شنیدنش باطل  
پندی ۷۲۵ ص، حکم ثابت از قول اهل فتوی شد  
لکهنو، کس قاریع طب علمای عراق از سر صدق  
آنچه دادند حکم امضا شد  
سال طبعش رقم زده محشر  
عقد قاسم دروغ پیدا شد

۱۲۰ ج لیالی میلت، بـ ۱۹۰۶ (۱۹۰۶)

(پ)

\* -

۷۹ - پانج مقاله حصه چهارم : علامه نصیرالدین هونزانی (۵۹)  
ترجمه و تشریح یک غزل شیخ فرید الدین عطار خاننه حکمت، کراچی،  
۱۳۹۷ه/۱۹۷۷ء

\* - پرواز روح : حجۃ الاسلام سید حسن ابطحی

۸۰ - پرواز روح : انوار بلگرامی، ۲۲۸ ص، بها : ۳۰ روپیہ  
دریاره مشاهدات روحانی ولی العصر ثرست، رته متده، جهنگ،  
۱۴۰۹ه/۱۹۸۸ء

\* - پندیات جوادردی

مولانا مستنصر بالله علیہ السلام

۸۱ - پیر پندیات جوادردی : علامه نصیرالدین نصیر هونزانی  
۱۳۵ ص، دارالحکمت الاسلامیلیه هونزه، گلگت، بها : پنج روپیہ  
۱۳۹۰ه/۱۹۷۰ء، مشرق پریس، کراچی

\* - مصطفی زمانی

۸۲ - پهلا قتل : محمد فضل حق، ۶۴ ص، تذکره حضرت آدم،

حوا، هابیل، قابیل و ابلیس ۱۹۸۱/۱۴۰۱، کراچی

(\*) -

۷۵- پیام انقلاب : مولانا سید سراج الكاظم حسنی ۶۰ ص،  
مشتمل بر سه مقالہ

۱- ایک کیمونسٹ سے تباہ کن مناظرہ

۲- ازدواج در اسلام ۳- جہاد و انقلاب، تنظیم فدائیان اکبر،  
کراچی

\* - پیغمبر و یاوران : علامہ محمد علی عالمی دامغانی

۷۶- یاوران محمد (ص) : میرزا مصطفی علی ھمدانی، سابق  
مدیر اخبار سفینہ، لاہور، شاگرد علامہ سید اولاد حسین شادان بلگرامی  
۲۵ ص، تذکرہ ۱۹۴ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، نسخہ  
خطی، نستعلیق، کاتب : مترجم، در ملکیت ملک فیض بخش، گلبرگ،  
لاہور

آغاز : کفار قریش کے مقابلے میں سپر رسول، داعی اسلام کے  
محافظ و حامی، مریم پیغمبر اور محسن اسلام شجرہ نسب اس یگانہ  
روزگار ہستی کا یہ ہے .....

## "ت"

\* - تاریخ ادبیات ایران : دکتر شفقت، رضا زاده

۷۷- تاریخ ادبیات ایران : سید مبارز الدین رفعت ۵۶۰ ص، بها  
: ۳۵/ روپیہ، تبصرہ دربارہ ادبیات قبل از اسلام تا دورہ قاجاری در ایران،  
ندوۃ المصنفین، دہلی، ذی الحجه، ۱۴۰۲ھ/ ستمبر ۱۹۸۲ء، کوفیو لیتھو  
آرٹ، پریس، دہلی

\* - تاریخ انبیاء : حکیم شیخ احمد دیوبندی (م ۱۲۱۵)

\*- ۷۸- تاریخ انبیاء در اقوال اصفیاء، جلد اول : حکیم شیخ احمد دیو  
بندی ۷۳۵ ص، یکم صفر المظفر ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء مطبع مظہر العجائب  
لکھنؤ. کسی تاریخ طبع گفت:

مرحبا نسخہ مقید جہان  
(زندگی)  
جسمین ہے حال انبیاء اکثر  
توحید، عدل و نیوت فقہ  
کبیر مکدر نہروہ اسکندر  
بیت ن بالظاہر مصلحت و طبع کا سال یون لکھا میں نے  
دار معنیت رفیق للصطفاء کے  
حسب ایمانی (۱۸۹۷ء) مطبع راجہ

آغاز: بسمہ و خطبه اما بعد بنده مسکین خاکپای مومنین با  
صدیقین الشیخ احمد بن مولانا مولوی محمدوجیہ الدین العثمانی  
الدیوبندی عرض کرتا ہے کہ تاریخ الانبیاء ۱۳۰۶ھ میں حفیر پرتفصیر  
نے فارسی عبارت میں لکھی تھی.....

\*- تاریخ فرشته، گلشن ابراهیمی، محمد قاسم هندو شاہ

- ۷۹- سلطان التاریخ : مولانا حیدر علی سہسوائی

ترجمہ فقط مقالہ سوم، ۲۲۵ ص، بہا : یک روپیہ،  
۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء مهرنیمروز پریس، بجنور

\*- تاریخ نادر شاہ

- ۸۰- تاریخ نادر شاہ : سید محمد علی داعی الاسلام حیدر  
آبادی، (ذریعہ : ۲۶)

\*- مکتوبات امام ربانی : شیخ احمد سر هندی (م ۱۰۳۴ھ)

- ۸۱- تخلیقات ربانی: مولانا نسیم احمد فریدی امروہی (م  
۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء) ۳۵۲ ص، بہا : ۱۳/۵۰ روپیہ ترجمہ فقط  
۳۱۳

مکتوبات، تعارف از مولانا محمد منظر نعمانی کتب خانه الفرقان لکھنؤ

\* - تحفة الاحرار : عبدالرحمن جامی پختہ بخشنده ۵۷۷

۸۲ - ترجمتہ تحفة الاحرار، بہا : ۱۲، ترجمہ مع متن (تحفته

عفری)

\* - تحفة الصلواة : مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی

(م ۹۱۵)

۸۳ - ریاض الحسنات، ترجمہ تحفة الصلواة : احمد الدین صبر

مراد آبادی ۱۳۰ ص، مطبع صدیقی بریلی، مترجم قطعہ تاریخ گفت:

کل مجموع این ریاض حسن

چون شگفتہ به تحفة الصلوات

پر فلک شد بلند صلی علی

بر زمین فرش کردہ شد برکات

شور در بزم حور عین افتاد

جسته رضوان به تحفته جنات

عشریان را هزار عید دمید

فرشیانرا رسید آبیات

پی مضمون عالی تاریخ

ساختم فکر خویش را مرقات

بهر تاریخ خاطرم آورد

ار مغانی ز گشن حسنات

بے سرو عد مصرعه ای بر گفت

بشه مرسلان بسی صلوات

آغاز: بسمه و خطبه بعد اسکے یہ گمنام خیر خواه انام برمندہ

شمندہ جوش خجالت معااصی سی سرفگنندہ احمد الدین صبر مراد آبادی

گزارش کرتا ہے کہ بعد تأثیر نسخہ کیمیاں سعادت ایقان الملقب بہ  
ملخص القرآن فی امتحان اہل الایمان ....."

\* - حدیقۂ سلطانیہ : سید العلما مولانا سید حسین (م  
(۱۲۷۳ھ)

- ۸۴- تحفۃ العارفین : ۱۵۶ ص، بها : ۵، ترجمہ خلاصہ مباحث  
توحید، عدل و نبوت فقط ۱۳۰۹ھ، مطبع یوسفی، دہلی

آغاز: بسمہ و خطبہ اما بعد بنده شرمندہ خاکسار یہ سواد امید  
وار معفرت رب العباد سید امداد حسن بن سید علی حسن نے چاہا کہ  
حسب ایائیے

\* - حدیقۂ سلطانی : سید حسین کشمیری

- ۸۵- تحفۃ العارفین : سید حسن بن سید علی کشمیری،  
۱۲۸۸ھ، کشمیر

\* - تحفۂ عباسی، آقا محمد طاهر شیرازی قمی (م  
(۱۶۸۷ھ/۱۰۹۸)

- ۸۶- هدیتہ محمدی، ترجمہ تحفۂ عباسی، حکیم سید محمد علی  
فیض آبادی، ۱۳۶ ص (ناقص الآخر) جلد ۲

عقائد شیعہ، مطبع اکسیر اعظم، بنارس  
آغاز: بسمہ و خطبہ اما بعد امیدوار رحمت لم بزلی حکیم سید  
حسن عسکری خدمات عالیات میں حضرات مونین کی مدعای طراز ہے کہ  
یہ رسالتہ نادرہ عجالہ باہرہ جو اصول دین میں ایک قابل قدر اور ممتاز  
رسالہ ہے.....

\* - تحفۂ عجم

- ۸۷- ترجمہ تحفۂ عجم، ۱۹۶۲ء، ہند

- \* - تحفة النصائح : شيخ محمد يوسف شاه راجو  
٨٨ - تحفة النصائح : ٨٤ ص، نسخة خطى (تذكرة مخطوطات ٥ : ٢٥١)
- \* - تحقيق اراضى هند، شيخ جلال الدين تهانيسرى  
٨٩ - ترجمة، تحقيق اراضى هند : مولانا سعيد اشرف ندوی (اردو  
كتابون کي ڈائرکٹری : ٢٦٩)
- \* - تحقيق الفتوى فى ابطال الطفوی : مولانا محمد فضل حق  
خير آبادی (م ١٢٧٨ھ)
- ٩٠ - تحقيق الفتوى فى ابطال الطفوی : مولانا محمد عبدالحکیم  
شرف قادری، مولانا محمد اسماعیل دہلوی (م ١٢٤٦ھ) در کتاب "تقویت  
الایمان" انکار شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردہ بودند. این  
کتاب مشتمل است ٤٣٧ ص، ترجمہ مع متن، شاہ عبدالحق محدث  
دہلوی اکیدمی، بنديال (سرگودھا)، ١٣٩٩ھ/ ١٩٧٩ء، کاتب : شاہ  
محمد چشتی نظامی
- \* - تکمیل الایمان : شیخ عبدالحق محدث دہلوی  
٩١ - خلاصتہ تکمیل الایمان : غلام محمد مهدی واصف (قاموس  
ج ١: ٢٠٧)
- \* - تذكرة الاولیاء : شیخ فرید الدین عطار
- ٩٢ - تذكرة الاصفیاء، فی ترجمة تذكرة الاولیاء : شاہ عبدالله  
مشتاق قادری (اصفیاء)
- ٩٣ - انوار الاولیاء : رئیس احمد جعفری ١٤٦ ص، خلاصہ تذكرة  
الاولیاء، شیخ غلامعلی و پسران لاہور، ١٩٥٨ء، علمی پرنٹنگ پریس  
لاہور

- \* - تذكرة العارفین شرح نهج البلاغه : ملا فتح الله کاشانی
- ۹۴ - تذكرة العارفین : مولانا سید صدر حسین رضوی ۳۲ ص، فقط ترجمه لمعه اول، کراچی
- \* - تزک تیموری امیر تیمور گورگانی (م ۸۰۷ ه)
- ۹۵ - ترجمة تزک تیموری : ابوالهاشم ندوی (اردو کتابوں کی ڈائرکٹری : ۳۶۳)
- \* - تزک بابری: ظہیر الدین محمد بابر (م ۹۳۷ ه)
- ۹۶ - بابر نامہ : محمد قاسم صدیقی
- ۶۴ ص، ترقی اردو بیورو نشی دہلی، ۱۹۸۳م، سپر پرنشرز، دہلی
- \* - تشنيد المطاعن  
مولانا سید محمد قلی خان (م ۱۲۶۰ ه)
- ۹۷ - النار الحاطمه لقصد احراق بيت فاطمه(ع) : سید مقرب علی بن سید شیر علی نقی (م ۱۳۴۵ ه)
- رد تحفه اثناعشریه عبدالعزیز دہلوی، مولانا سید محمد قلی خان در رد این کتاب کتابی نوشته بودند بنام "تشنيد المطاعن" در ده جلد. ترجمه است فقط یک باب "طعن قصد احراق بيت ابیلیت علیهم السلام"
- آغاز: بسم الله و خطبه اما بعد خدمت برادران ایمانی میں عاصی سراپا معاصر مقرب علی ابن المرحوم السيد شیر علی نقی الحسینی ملتمنس ہے کہ بعد اقام جلد اول نفعات الر یاحین فی احوال سیدنا خاتم البنین....
- ۲۰۴ ص، ۱۷ ذی قعده ۱۲۸۱ ه، مطبع مجمع البحرين، لدھیانہ
- \* - تعالیم آسمانی : سید محمد مصطفی

۹۸- اسلام میں قرضہ حسنہ

ترجمہ فقط یک باب ۴۰ ص، بہا : سہ روپیہ، مدرسہ مخصوصین  
کراچی،

\* - تقلید المقلدین

۹۹- تقلید المقلدین : علامہ سید علی الحائری (رح) (م ۱۳۶۰ھ)

ترجمہ فتاوی مجتهدین، ۸۸ ص، مطبع جعفری، لاہور

\* - تکمیل القرآن : مرزا محمد کامل (م ۱۲۳۵ھ)

۱۰۰- رسالہ تکمیل القرآن : مولانا سید محمد حسین دھلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دھلوی (م ۱۲۳۹ھ) در تحفته اثنا عشر بہ نوشته بود کہ  
شیعہ بر قرآن ایمان نمی دارند هم عصر دھلوی مولانا مرزا محمد کامل در  
این کتاب جواب این الزام نوشته

۵، ربیع الاول ۱۲۹۶ھ / ۲۴، جون ۱۸۷۹ م چاپی

\* - عملیہ

آیت اللہ سید مصطفیٰ کاشانی

۱۰۱- رسالہ تقلید : مولانا سید شریف حسین سبزواری (رح)

۹۲ ص، بہا : ۴ آنہ

جعادی الاول ۱۳۲۲ھ، رفاه عام سبیم پریس، لاہور

\* - تنقید التقلید

۱۰۲- تنقید التقلید : شیخ محمد کاظم ۱۸۰ ص، رسالہ ایست

دریارہ، رد تقلید مجتهدین، ربیع الاول ۱۳۲۴ھ، مطبع کاظمی، کانپور

\* - سراج الاسلام ترجمہ الفقہ الاحوط

۱۰۳- تنور السراج : مولانا شیخ روشن علی هندی ۲۷۶ ص،

الفقه الاحوط (عربی) تصنیف سید محمد نور بخش (م ۱۹۸۶)  
بانی سلسله نور بخشیه ترجمه فقط کتاب الصلاة با حواشی مولانا سید  
عیاس کرسی (م ۱۹۸۶) مولانا محمد مهدی لنگرودی مقدمه نوشته و  
با همراه یک مضمون از مولانا سید محمد باقر موسوی کشمیری بدگامی  
پسر مولانا سید محمد یوسف موسوی مترجم "لمعه" بزیان فارسی، بعنوان  
کشمیر کی شیعہ تاریخ پر ایک ورق در قم چاپ شده است

\* - توضیح الاحکام : سید محمد شیرازی

۱۰۴ - ترجمه: مولانا شیخ محمد اسحاق نجفی ۲۶۳ ص، بها : دو  
روپیه، انترنشنل پریس، کراچی

\* - توضیح المسائل : آیت الله سید محمد شیرازی

۱۰۵ - احکام اسلام : مولانا محمد علی فاضل، ۶۰۳ ص، بها :  
۲۵ روپیه، مکتبة المفید الحسین متزل، ذیره غازیخان

\* - توضیح المسائل : آیت الله سید محسن الحکیم (رح)

۱۰۶ - احکام طھارت : مولانا سید محمد عادل (رح) (م ۱۳۹۵هـ)، ۱۸ ص، بها : ۲۵ پیسہ

ترجمه فقط باب طھارت، اداره ناصرالاسلام کراچی، ۱۹۶۷ م

\* - توضیح المسائل : آیت الله سید ابوالقاسم الخوئی

۱۰۷ - توضیح المسائل : مولانا سید کرامت علی نجفی ۴۴ ص،  
یونانستید تربیز، امین پور بازار، فیصل آباد، پاکستان آرت پریس

\* - توضیح المسائل : آیت الله سید عبدالله شیرازی (م ۱۹۸۴)

۱۰۸ - توضیح المسائل : مولانا عبدالواحد ایم ۱۳۳ ص، بها :  
شش روپیه مکتبه اصغریہ دارالعلوم الحمدیہ، سرگودھا

\* - توضیح المسائل : شیخ حسین علی منتظری

۱۰۹ - توضیح المسائل : طلاب غیر ایرانی، ۷۵۷ ص، ۱۴۰۶ هـ،  
جانچانه ارشاد اسلامی، کاتب : جعفر صادق

\* - توقیعات کسری : سید محمد جلال الدین زواری

۱۱۰ - احکام نوشیروان : سید آقا حسن عرف میرن صاحب رضوی  
۱۱۸ ص، ۵ دسمبر ۱۹۶۶م، مطبع جنگ بهادر برام پندت دیاشنکر  
فگار تاریخ طبع گفت.

ها جو ترجمہ توقيع کسری کا فگار  
بحسن کوشش نامی شاعر یکتا  
کہو یہ مصروعه تاریخ از سر انصاف  
عروس عدل کو ملبوس خوب پہنایا

آغاز: بسم الله حمد و ثنا اس خداوند زمین و زمان کو زیبا ہے جسے  
حکومت بنی آدم کے لئے دنیا کو خلق کیا اور انسان کو فرمانروا اور  
سردار فرما کے اختیار عدل و احسان دیا

"ج"

\* - جاماسب نامہ : حکیم جاماسب خلیفہ حکیم زرتشت

۱۱۱ - جاماسب نامہ : محمد الواحدی، دربارہ نجوم، ۳۴ ص،  
۱۳۳۰هـ/۱۹۱۲م، نظام المشائخ دہلی، دلی پرتننگ ورکس، دہلی

\* - جامع عباسی : شیخ بهاء الدین عاملی (م ۱۰۳۰هـ)

۱۱۲ - جامع عباسی : مولانا سید سبط حسن (م ۱۳۷۲هـ)  
۱۴۰ ص، فقه شیعی، رائل پریس، جونپور

\* - استاد سبحانی

۱۱۳ - جبری صلح اور ظالم جماعت، ۳۴ ص، تذکرہ مظالم عراقی ہا، ۱۹۸۶م، بھا : ۵۰ ریال

\* - الجغرافی جدید : عبدالغفار نجم الدولہ تهرانی

۱۱۴ - جغرافینہ ایران : اللہ بخش، ۷۲ ص، ۱۹۰۹م، خادم التعليم، استیم پریس، لاہور (قاموس : ۲)

۱۱۵ - جامع عباسی، ترجمہ : مولانا خواجه عابد حسین انصاری (م ۱۳۳۰ھ) ۳۲۳ ص، ۱۳۰۵ھ، مطبع یوسفی، دہلی، مولانا شیخ غلام حسین قطعہ تاریخ گفت

ہیں مترجم کتاب هذا کے  
خواجه عابد حسین نیک و رئیس  
فقہ دان، متنقی، فصیح و بلیغ  
عالم با عمل خلیق و انسیں  
دیکھئے کیا بیان واضح ہے  
ترجمہ کسقدر ہے صاف و نفیس  
سر بد قطع کر کے ہاتھ نے  
بولا یہ ترجمہ ہے چست و سلیس

۱۳۰۵

\* - جلاء العیون : محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ھ)

۱۱۶ - جلاء العیون : مولانا محمد باقر (رح) (الذریعہ)

۱۱۷ - ترجمہ جلاء العیون (منظوم)، مرزا محمد حسن مذنب،  
نسخہ خطی، (مقدمہ تذکرہ خوش معرکہ زیبا)

\* - جمهوری اسلامی : آقای حسین نوری

۱۱۸ - اسلامی جمهوریت : مولانا سید صفیر حسین رضوی.

مشتمل است بر عنوانین، عقلی نقطۂ نظر سے معاشرے کے لئے حکومت کا وجوب، ایران و اسلام، اسلامی حکومت میں رہبری کے شرائط، اقسام حکومت ۱۴۴ ص، ۱۹۷۹م، امامیہ مشن لاہور، کاتب: صدر حسین شیخ

\* - جواہر التفسیر (۲ جلد) : علامہ مجدد الدین خاصہ شیرازی

۱۱۹ - ترجمہ : (قاموس ج ۱: ۲۱)

\* - جواہر الحقائق

۱۲۰ - جامی المظاہر (منظوم) : محمد عبدالله قادری، ۷ ص

۱۶۵۱

نمونہ: بندہ بندہ خدا ہے

ہے ایک کبھی کبھی جدا ہے

(قاموس ج ۱: ۱۰۳۶)

\* - جہاد اکبر : آیت اللہ سید روح اللہ الخمینی (رح) (م

۱۴۰۹)

۱۲۱ - جہاد اکبر : مولانا سید محمد عباس قمر زیدی، ۱۲۸ ص،

بها : پانچ روپیہ

مکتبہ معراج ادب ۲۰/۹۱۹ سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا،

کراچی، ۸، مشی ۱۹۷۹م، المجنون پرس

## "ج"

\* - چرا شیعہ شدم

۱۲۲ - عقائد الشیعہ : مولانا موسیٰ بیگ نجفی ۳۲ ص، ترجمہ

فقط مقدمہ کتاب، جامع المنتظر، لاہور

\* - چرا و چگونہ مسلمان شدند

آیت الله سید محمد شیرازی

۱۲۳ - اور صلیب ثوت گئی : مولانا آغا بین سرحدی، ۸۰ ص، رد عیسائیت، بها : ۹ روپیہ، درس آل محمد فیصل آباد

۱۲۴ - چریان اور پاتھی : سید غضنفر حسین بخاری ۲۰ ص، دارالثقافتہ الاسلامیہ، کراچی

\* - چهار زندان انسان : دکتر علی شریعتی

۱۲۵ - چهار زندان انسان : سردار نقوی، ۷۹ ص، بها : ۵ روپیہ، ادارہ احیای تراث اسلامی، اگست ۱۹۸۷، کاتب : اے الیس خورشید

\* - چهل حدیث : آیت الله سید علی الاصفهانی (رح) (م ۱۴۰۹ھ / ۱۹۸۹م)، چهل حدیث: مولانا سهد صدر حسین نجفی (م ۱۴۱۰ھ / ۱۹۸۹م)، چهل حدیث: مولانا سهد صدر حسین نجفی (م ۱۴۱۰ھ) ۲۰۷ ص، بها : ۱۲ روپیہ، مشتمل برہشت فصل : توحید، نبوت، امامت، شرعی واجبات، شرعی محرمات، معاشرتی امور و حقوق، اخلاق، معاد امامیہ پبلی کیشنز لاهور، فروردی ۱۹۸۳م، الامان پریس

## " ح "

\* - حج : دکتر علی شریعتی

۱۲۶ - حج: سید انوار احمد بلگرامی ۸۷ ص، مکتبه لوح و قلم، ۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳م، جدید پریس لاهور

\* - حدیث الثقلین : آقای شیخ مصطفی ملکی

۱۲۷ - حدیث الثقلین : مولانا سید محمد عباس قمر زیدی، ۸۲ ص، بها : چار روپیہ، مقالہ عربی حجۃ الاسلام قوام الدین دشنوی قمی که در دارالتقریب بین المذاہب قاهره خوانده بود ترجمه فارسی از آقائی ملکی مکتبه معراج ادب کراچی، ربیع الاول ۱۴۰۱ھ / فروردی ۱۹۸۱م

\* - حدیقه هندی : مولانا غلام حسن

۱۲۹ - روفته الصالحین (منظوم) : سید مصطفی ۱۳۲ ص،  
مجموعه فتاویٰ سید العلما مولانا سید حسین بن غفران‌آب (رج) که مولانا  
غلام حسن مرتب کرده اند، مطبع البحرين لدھیانہ، رمضان المبارک  
۱۲۸۶ھ

آغاز: پھلے تو کر خدا کی حمد و ثناء  
جسے ہم سبکو کیا پیدا  
اور فضیلت دی اپنی رحمت سے  
نوع انسان کو ساری خلقت سے

\* - ۱۳۰ - حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام  
سید احمد علی عابدی  
۷۶ ص، موسسه در راه حق قم ایران، ۱۴۰۶/۱۴۰۲ھ/۱۹۸۴م چانچانه  
سلمان فارسی کاتب : موسیٰ کلیم فیض آبادی

\* - ۱۳۱ - حضرت اما رضا علیہ السلام : سید احمد علی عابدی،  
۷۲ ص بھا : هفت روپیہ، اداره نوراسلام فیض آباد (یوپی)،  
۱۴۰۲/۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲م، سلمان فارسی پریس قم

اداره در راه حق قم ایران

۱۳۲ - حضرت امام تقی علیہ السلام : سید احمد علی، ۵۶ ص،

بها : هفت روپیه، نوراسلام امامبازه فیض آباد (یو پی)، ۱۴۰۲ هـ / ۱۹۸۲ء، سلمان فارسی پریس قم کاتب : حسن اختر

\* - حق نما : دارا شکوه

۱۳۳ - راه هدی ترجمه حق نما : سید احمد علی شاه بتالوی

۳۲ ص، انقلاب پریس لاہور (مرآۃ التصانیف : ۱۱۵)

\* - حق البقین : محمد باقر مجلسی (رح) (م ۱۱۱ هـ)

۱۳۴ - حق اليقین : مولانا مظفر علی اسیر (م ۱۲۹۹ هـ / ۱۸۸۱ء)، (مطبع انوار : ۹۸)

\* - گلستان سعدی : شیخ مصلح الدین سعدی شبرازی

۱۳۵ - حکایات گلستان سعدی ۱۵۱ ص، ترجمه فقط ۱۰۷  
حکایت، فیروز سنز لاہور

\* - حکومت اسلامی : آیت الله سید روح الله الخمینی (رح)

۱۳۶ - حکومت اسلامی حصہ اول و دوم، ۸۷ ص، بها : ۱۲ روپیه، مکتب رضا کراچی

\* - حملہ حیدری : مرتضی محمد رفیع باذل (م ۱۱۲۳ هـ)

۱۳۷ - غزوات حیدری ترجمه حملہ حیدری : سید محسن علی  
اسیر ابن سید میر علی ۷۴۸ ص، ۱۳۳۲ هـ / جولائی ۱۹۱۴ء، مطبع  
نولکشور لکھنؤ.

۱۳۸ - مباریہ صدری ترجمه حملہ حیدری بها : یک روپیہ شش آنہ

۱۳۹ - ترجمه حملہ حیدری : سید ابرار حسین (م ۱۳۰۰ هـ) مطبع  
انوار

۱۴۰ - ترجمه حملہ حیدری جلد اول

سید ذوالنقار علی خان صفا (م ۱۲۶۰) شاگرد میر تقی میر  
تلامذہ میر : ۵۴

۱۴۱ - ترجمہ حملہ حیدری جلد دوم

محمد مرزا بن تجلی علی شاه، ۲۱۴ ص، نسخہ خطی

آغاز: عهد آسمان علوم و ذکا

سخن سنج اعلیٰ جناب صفا

زبان اسکی جان بخش جان سخن

سخن پہلوان، پہلوان سخن

کیا ریختہ حملہ حیدری

تلورہ سے سرقدسے سارے برباد

(تذکرہ اردو مخطوطات)

۱۴۲ - غلبہ حیدری تر حملہ حیدری، ذریعہ : ۱۲

۱۴۳ - حریہ حیدری، غزوہ حیدری : حیدر مرزا

۸۵ ص، ۱۳۰۴ھ، مطبع اثنا عشری لکھنؤ

آغاز: بسمہ و خطبہ اما بعد راقم السطور حیدر مرزا نے ترجمہ  
حملہ حیدری ملا محمد رفیع باذل سے بکہ تاز عرصہ مدحت ثانی فارس  
میدان صفائی.

۱۴۴ - هبیت حیدری، ترجمہ حملہ حیدری (منظوم) : واجد علی  
شاه بادشاہ اختر، ۲۹۷ ص، مطبع سلطانی کلکتہ، رمضان المبارک  
۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵م در بارہ سبب ترجمہ می گوید:

کہی نظم جب میں نے اے نکتہ سنج

تو هجرت سے تھے بارہ سو شصت و پنج

بتائید استاد روح الامین

نمودم بدل فکر هجری سنین

۱۴۷- خسی جوهر سیف باوج فکر  
در آمد در سال از موج فکر

۱۳۰ ه

دگر دم زدم با مسیحی سنین  
ز سلطان باذل فضائل مبین  
۱۸۷۵ م

آغاز کتاب: شروع سخن صاف هی حمد رب  
در لعل تن صاف هی حمد رب  
خداؤند دنیا و دین و زمین  
ضیاء بند دنیا و دین و زمین

آغاز ترجمه: نگارنده داستان کهن

خوش انداز و خوش خلق شیرین دهن

\* - حیات امام خمینی : رجب علی مرزووعی

۱۴۵- حیات امام خمینی : سید عطا محمد عابدی، ۱.۲ ص، بها

: ۱۵ روپیه، اداره احیاء، میراث اسلامی، محرم ۱۴۰۸ ه / ستمبر ۱۹۸۸

\* - حیات رسول(ص) (۵) : ع ب شیرازی

۱۴۶- حیات رسول(ص) (۵) : سید غضنفر حسین بخاری

۱۲ ص، جون ۱۹۸۵ م، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران،  
کراچی، کاتب : سید تهدیب حسین نقوی امروہی

\* - حیات القلوب : محمد باقر مجلسی(رح) (م ۱۱۱۱ ه)

۱۴۷- ریاض القلوب، ترجمه حیات القلوب : محمد واجد علی شاه

با دشاد اختر

۲۲۳ ص، شوال ۱۳۰۲هـ، مطبع سلطانی، کلکته، مترجم درباره

سبب ترجمه می گوید:

بنام خداوند هر انس و جان

بیان میں کرونگا نئی داستان

با حسان ختم الرسل مصطفا(ص)

زمانے میں رہ جائیگا تذکرہ

رکھا نام اسکا ریاض القلوب

نهو جس سے اختر کا طالع قلوب

جو بارہ سو پر ہیں انہائیں

سن هجری ای خوش سیر جان لے

اسی سن میں کی ابتدا نثر کی

خدا مشعل دل میں دے روشنی

ہوں شاہ اوده نام واجد علی

مگر ملک تعبیر ہے خواب کی

خدا یا هو الحمام اسکا بخیر

کروں ہفت کشور کی میں خوب سیر

- ۱۴۸ - تنبیہ الغافلین:-

۲۲۳ ص، ترجمه فقط یک روایت حیات القلوب در بارہ گفتگوی

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ با مردہ، ۱۵، جمادی الاول

۱۳۰۲هـ/۲۰ فروری ۱۸۸۶م، مطبع اثنا عشری، لکھنؤ۔

## خ

\* - خاور نامہ، جلد اول: ملا حسام الدین قہستانی

۱۴۹ - خاور نامہ جلد اول : سعید احمد ناطق لکھنؤی، تذکرہ حضرت علی(ع) ابوالمحجّن، سعد بن ابی وقار، مالک اشتر ۱۷۶ ص، دسمبر ۱۹۰۰م، مطبع نولکشور لکھنؤ.

\* - خروج ابا مسلم

۱۵ - محاریۃ حق/جنگ نامہ ابا مسلم

مرزا رحم علی ششدیر عرف مرزا بنے، ۱۵۸ ص، ۱۵، اکتوبر ۱۸۸۷م، مطبع اثنا عشری، لکھنؤ.

آغاز: بسمله و خطبہ جملہ سادات عظام و مؤمنین عالی مقام غلامان حیدر کرار کو واضح ہو کہ ذکر خروج عبدالرحمن ابا مسلم بن خواجه اسد بن خواجه جنید بن خواجه علی مرکب سوار قوم قریش بزیان فارسی شاہان ماضیہ میں تحریر ہوا تھا.

\* - خلاصہ النجوم : میر قمر الدین

۱۵۱ - رسالہ گرہن : ۱۵ ص، نسخہ خطی،

آغاز: خلاصتہ النجوم فارسی کتاب میں میر قمر الدین نجومی کے قول سوں سورج گھران کا بیان لکھا ہے کہ سال میں ایک بار سورج گھران پکڑتا ہے، تذکرہ مخطوطات ۵ : ۲۵۹

\* - خواب، بیداری، ملا فتح علی شیرازی

۱۵۲ - خواب بیداری : بها : ۸ آنه، نظامی پریس، لکھنؤ

\* - رباعیات عمر خیام : عمر خیام نیشاپوری

۱۵۳ - خیمے کے آس پاس : میرا جی

ترجمہ فقط ۳۲ رباعی بزبان اردو و انگلیسی، مکتبہ ادب جدید  
لاہور، انفارٹنگ پریس، لاہور۔

\* - داستان امیر حمزہ : شاہ ناصر الدین محمد

۱۵۴ - داستان امیر حمزہ، حصہ اول : سید نظر زیدی  
فقط هفت داستان، ۱۲ ص، بہا : سہ روپیہ، شیخ غلام علی و  
پسران لاہور، علمی پرنتنگ پریس، لاہور

۱۵۵ - گلستان باختہ ترجمہ داستان امیر حمزہ : شیخ تصدق  
حسین،

۶۷۵ ص، ۱۹۰۹م، مطبع نو لکشور، لکھنؤ  
آغاز: وہ خالق لائق حمد و ثنا ہے  
کہ جس نے سب جہاں پیدا کیا ہے  
وہی ہے خالق هر اوج و پستی  
عدم اُسکا اُسی کی ہے یہ پستی

محمد(ص) بادشاہ دوسرا ہے

محمد(ص) شافع روز جزا ہے

محمد(ص) عرش اعظم کا ہے تارا

گنگاروں کی بخشش کا سہارا

زیان سے وصف حیدر گر بیان ہو

زمین شعر رشک آسمان ہو

وہ حیدر(ع) جو وصی خاص احمد(ص)

وہ حیدر(ع) جو ہی داماد محمد(ص)

۱۵۴ - داستان امیر حمزہ، حصہ چہارم : سید نظر زیدی، ۱.۸ ص،

بها : سه روپیہ، شیخ غلام علی و پسران لاہور، علمی پرنٹنگ پریس لاہور

۱۵۷ : امیر حمزہ : تواب مرزا امان علی خان غالب لکھنؤی،

نوکشور لکھنؤ.

\* - داستان راستان : آیت اللہ مرتضی مطهری(رح)

۱۵۸ - اجنبی شخص : آغا محمد ناصر

ترجمہ فقط یک جزو، ۲۲ ص، بها : هشت روپیہ، مارچ ۱۹۸۶ م،

خانہ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کوئٹہ، شفاف پرنٹنگ ایجننسی، لاہور

کاتب: محمد باقر

۱۵۹ - دانش رومی و سعدی: دکتر غلام جیلاتی برق (اردو کتابوں

کی ذائقہ کشی: ۴۲۔

\* - دانش نامہ جہان

غیاث الدین علی

۱۶۰ - دانش نامہ جہان، بها : ۱۳ آنہ، مطبع لوہارو

\* - دربار ملی : شیخ محمد اکرم و وحید قریشی

۱۶۱ - ترجمہ دربار ملی : سید اصغر علی شاہ، تذکرہ علمای

اپلینسٹ و جماعت لاہور ۳۸۴

\* - درشین : مرزا غلام احمد قادریانی (م ۱۹۰۸ م)

۱۶۲ - درشین فارسی مترجم : دکتر میر محمد اسماعیل

(م ۱۹۴۷ م) ۳۸۴ ص، بها : ۴۵ روپیہ، ۱۹۶۷ م، محمد احمد اکیدمی،

رام گلی، لاہور نقوش پریس لاہور.

\* - در الفرید فی عزا، السبط الشہید(ع) : مرزا محمد علی بن

حجۃ الاسلام شیخ محمد حسین، شهرستانی

\* - ۱۶۳ - ترجمه در الفرید فی عزا، السبط الشهید (ع) : سید عاشق

حسین وصل، در جواز عزا داری سید الشهداء، علیہ السلام ۱۴۳۲، ص ۳۴

مطبع تصویر عالم، لکھنؤ

\* - مترجم تاریخ طبع گفت:

بطریق آمده فی الحال و بہر تاریخش ۸۰۱ -

به بست و پنج دقیقه چو فکر کرد حقیر

دلم تپید و فغان زد بکو بکرای وصل

رساله هدیه آداب ماتم شبیر

۱۴۳۲

آغاز: بسمه و خطبه بعد اسکی کهتا ہیے بنده جانی فانی محمد علی  
بن محمد حسن الحسینی المرعنی الشہیر بشهرستانی کہ ایک شخص برادر  
ایمانی نے مجھ سے خواہش کی کہ ایک رسالہ لکھوں جو عزا داری سید  
الشہداء....

\* - در نجف : علامہ سید محمد علی هبة الدین شهرستانی (رح)

۱۶۳ - در نجف : مولانا سید نظیر حسین زیدی جونپوری،

۱۹۱۲/۱۴۳۳ (ذریعه : ۸)

\* - دستور علی علیہ السلام — برای متعدد کردن مسلمانان

دنیا، دکتر صادق تقوی تهرانی

۱۶۵ - دستور علی علیہ السلام : مولانا صدر الدین الرفاعی

المجددی رد شیعه، ۶۴ ص، بها : روپیه، تعمیری کتب خانه، راولپنڈی

\* - الدعا الحسینیه : آیت الله محمد علی نخجوانی

۱۶۶- اکیس اعتراضات، اردو ترجمہ الدعا الحسینیہ باسخ بیست و  
یک اعتراض کہ مخالفین عزای حضرت امام حسین علیہ السلام میں کنند،  
۱۱۲ ص، محفوظ بک ایجننسی، کراچی، سندھ آفسٹ پرس، کراچی

\* - دلیل العصا : الذخائر فی احکام الکبائر

۱۶۷- مولانا سید علی حسین زنگی پوری، (ذریعہ : ۱۵)

\* - دو گوہر گران بہا : اقای حاج قوام الدین دشتوی قمی

۱۶۸- حدیث الشقلین : مولانا سید محمد عباس قمر زیدی ۸۳ ص،  
مکتبہ معراج ادب کراچی، ۱۹۸۱/۱۴۱۴، المجمن پرس

آیت اللہ سید محمد شیرازی

۱۶۹- دینی تبلیغ کے مراکز .... مسجد و امام بارگاہ : سید  
نجم الحسن تقوی ۶۵ ص، وفاق علمای شیعہ پاکستان لاہور، نیازی پرنٹنگ

\* - دیوان باہو : سلطان باہو

۱۷۰- نقش باہو : مسعود قریشی، ۱۳۵ ص، بہا : ۸۔ روپیہ

ترجمہ مع متن، لوك ورثہ اشاعت گھر اسلام آباد، کاتب : اعجاز احمد

آغاز : یقین دانم درین عالم کہ لا موجود الا ہو - وگر موجود فی  
الكونین لامقصود الا ہو

ترجمہ: یقیناً کوئی دنیا میں نہیں موجود الا ہو - نہیں کوئی  
میں موجود یا مقصود الا ہو

\* - دیوان حافظ : حافظ شیرازی

۱۷۱- جام جم : سید اصغر علی شاہ جعفری،

(تذکرہ علمای ایلسنت و جماعت، لاہور ۲۸۳-۲۲۱)

۱۷۲- ترجمہ دیوان حافظ : مولانا ابوالحسنات سید قادری،

(شریف التواریخ، جلد ۳ : ۲۸۱، تذکرہ علمای ایلسنت ۱۳۸)

۱۸۳- ترجمہ دیوان حافظ (بنجای) : ماسٹر غلام حبیر،

شرح چوہدری محمد افضل (اردو)

نقط ۵۶ غزل ۱۲۷ ص، کتب خانہ پیسے اخبار لاہور، اشرف پریس

لاہور

۱۷۴- انتخاب از تفسیر حافظ : رشب الدین انصاری ۱۳۶ ص، بہا

: ۱۲ روپیہ، ترجمہ منظوم

بعض غزلیات، ادبی مرکز، حبیر آباد، دکن، ۱۹۷۹م، کاتب: محمد

ولی الدین، نمونہ: ای دل از سیل فنا بنیاد ہستی بر کند - چون ترا نوح است

کشتی ابان ز طوفان غم مخور.

ترجمہ: اگر سیل فنا ای دل تری ہستی مٹا ڈالیے۔ جو عزا داری مختینہ

محمد تیس کشتی بان ہیں طوفان سے مت گھبرا

\* - دیوان حضرت غوث الاعظم

شیخ عبدالقادر جیلانی (م ۵۶۱ھ)

۱۷۵- دیوان حضرت غوث الاعظم مع منظوم اردو ترجمہ : الحاج

عبدالقادر قادری فدائی

۱۵ ص، بہا : ۱۵ روپیہ، ترجمہ مع متن، ۱۹۷۹م، نیا بازار

عیدگاہ رود دہنیاد (بہار)

آغاز: بی حجابانہ در آ از در کاشانہ ما

کہ کسی نیست بجز درد تو در خانہ ما

ترجمہ: بے حجاب آپ چلے آئیں کاشانہ میں

\* آپ کے غم سوا کون ہے غم خانہ میں

\* - دیوان خواجہ معین الدین چشتی : خواجہ معین الدین چشتی

۱۷۶ - ترجمہ : محمد شاہ الدین ابن مولانا محمد قطب الدین

قریشی ۵۶ ص، بہا : ۱۲ آنہ

ترجمہ بزیان پنجابی: اللہ والی کی قومی دکان لاہور، حسن سیم

پریس لاہور

\* - دیوان فرخی : ابوالحسن علی فرخی

۱۷۷ - ترجمہ انتخاب فرخی : مولوی احمد حسن سواتی الچھار

باغی

ترجمہ فقط ۷۲ قصیدہ، ۹، مارچ ۱۹۳۸م، مطبع چرخی دالان

دہلی

## ذ

\* - ذخیرۃ العباد : آیت اللہ میرزا محمد کاظم خراسانی

۱۷۸ - خزینۃ الرشاد : مولانا سید شریف حسین بریلوی

۳۴۸ ص، حمیدیہ سیم پریس، لاہور

\* - ذخیرۃ العابد لیوم المعاو : آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی

۱۷۹ - لآلی النقاد، اردو ترجمہ ذخیرۃ العباد : مولانا سید شاکر

حسین نوگانوی، ۲۲۴ ص، مطبع یوسفی، دہلی

آغاز: بسملہ و خطبہ اما بعد بنده گھنگار امیدوار رحمت غفار ارذل

عبا درب المشرقین سید شاکر حسین بن سید غلام حسین...

۱۸ - تحفة المؤمنین : مولانا بهبود علی مرزا

ترجمہ فقط احکام الجنائز، حیدر آباد، دکن

\* - راه علی (ع) : آیت اللہ السید رضا صدر مدظلہ

۱۸۱ - حضرت علی علیہ السلام کا راستہ : مولانا محمد حسین

اکبر فاضل قم. مشتمل است بر عنایوں ذیل:

حضرت علی علیہ السلام کی تجارت، حضرت علی علیہ السلام کی  
عدالت، جوانگردی، و حضرت علی علیہ السلام کی حکومت، عبادات، روش  
اور طریق کار، شہادت، ۴۔۱ص، سید محمد حسین رضوی، مدرسہ  
باقر العلوم مکھنا والی گجرات (پاکستان)

\* - رباعیات خیام : عمر خیام

۱۸۲ - احوال و رباعیات خیام - متن و شرح : مولانا سید مرتضی

حسین فاضل (رج) (م ۱۹۸۷م) ۳۷۳ ص، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور  
پاکستان، علمی پرنٹنگ پرنس لاہور، ۱۹۶۵م، کاتب : منشی رحمت اللہ  
وزیر آبادی

\* - رسالہ عبدالواسع : عبدالواسع

۱۸۳ - کنز المثافع، اردو خلاصہ رسالہ عبدالواسع : مولانا میرزا محمد

جعفر کشمیری، بہا : ۲۴ آنہ، شیخ جان محمد اللہ بخش تاجران کتب علوم  
مشرقی انارکلی لاہور (پاکستان)

\* - رسالہ نور : مولانا سید ابوالقاسم حائری (م ۱۳۲۴ھ)

۱۸۴ - ترجمہ رسالہ نور : علامہ سید علامہ الحائری ابن مصنف

رد عیسائیت، متن فارسی و ترجمہ بر حاشیہ، ۱۲ ص، مطبع اسلامیہ لاہور  
(پاکستان)

\* - سیاحت غرب - سر نوشت ارواح بعد از مرگ : سید حسن

نجفی قوانی

شکر ادا ۱۸۵ - روحون کا سفر - موت کے بعد : محمد المهر مرزا

۱۳۶ - ص، بها : دہ روپیہ طرس (۱۲۲ : عل آج بالہ)

مکتبہ معراج ادب کراچی، الجمن پریس، کراچی، ذی قعده

۱۴۰ م/ جولائی ۱۹۸۷ (۱۲۲ : عل آج بالہ) ۵۷۷

\* - روضۃ السیر : -

۱۸۶ - روضۃ السیر : ناصر

بعکم واجد علی شاه اخت در ۱۲۷ ه ترجمہ شده است

مهدی علی زکی مراد آبادی تاریخ گفت

گفتہ شعری بھفت گانہ تاریخ

هر هفت سخن به فکر سالم آمد

اعداد حروف هر یک از مصراعش

صوری زیکی حجت قائم آمد

بس معجمہ و مہملہ هر دو بهم

میں جمع درست

با وفق و خلاف ازان ملازم آمد

\*

وی شعر گرفته بامید کرمی

ناچیز ذکی پیش مکارم آمد

هدشن و دو صدی و سی دگر چهل با وہ

ناصر بوقوف او مترجم آمد

(دیوان مهدی علی زکی مراد آبادی)

\* - روضۃ القیومیہ : کمال الدین محمد احسان

۱۸۷ - حدیقہ محمودیہ : مولانا ولی اللہ صدیقی

مطبع بلبریر ریاست فرید کوت (ہند)، ۱۹۱۸ھ - ۱۹۱۷ء

(احوال و آثار : ۲۲۱)

\* - ترجمه روضة القيومیہ : ۱۸۸  
لاہور، ۱۳۴۵ھ (احوال و آثار : ۲۲۱)

\* - رہ آورد سفر : حافظ محمد ظہور الحق ظہور  
ایران میں دس دن : حافظ محمد ظہور الحق ظہور

۶۳ ص، بہا : ۱۲ روپیہ، مکتبہ انوار الاسلام، اسلام آباد، ایس  
ٹس پرس، راولپنڈی، کاتب : صدر علی

\* - ریاض الشہادة : ۱۹۰  
۱۲۸۳ھ، مطبع مجتمع البحرين، لدھیانہ

آغاز: بسمه و خطبه اما بعد شیخ فاضل محدث سید جعفر بن محمد  
کہ جملہ مشائخ کبار محدثین و اعاظم فقهاء متقدمین میں سے ہیں بیچ  
رسالہ حال مختار نامہ کی فرماتے ہیں...

\* - ریگستان تجف : مولانا سید محمد رضوی المعروف به آقای  
پرہیزگار (م ۱۳۵۲ھ)

۱۹۱ - هدایا ای تجف : مولانا سید مرتضیٰ حسین فاضل (رح)  
ترجمہ انتخاب مع متن، ۴۔۱ ص، بہا : دو روپیہ  
اما میہ پیلی کیشنر لاهور، اپریل ۱۹۸۵، اظہار سنتر پرنٹرز  
کاتب: ملک علی محمد

آغاز: حمد و شکر آن خداوند جلیل، کی تواند کرد این عبد ذلیل و  
حکیم، بزرگ و برتر خدا کی نہ حمد کا حق ادا کر سکتا یہ نہ پوری طرح

شکر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے ...

\* - معیار الاشعار : محقق طوسی

۱۹۲ - زر کامل عبار ترجمہ معیار الاشعار :: مولانا مظفر علی

اسیر

۳۱۔ ص، جمادی الثانیہ ۱۴۸۹ھ اگست ۱۹۷۲م، مطبع نولکشور

لکھنؤ سید افضل علی خان افضل تاریخ طبع گفت:

عجب یہ شرح ہے معیار کی صحیح صحیح

ورق پہ منتخب روزگار خوب چھپی

خرد نے طبع کی تاریخ یوں کہی افضل

مطالب زر کامل عبار خوب چھپی

(۱۴۸۹ھ)

آغاز: بسم الله وخطبه کہتا ہے نقیر حبیر سید مظفر علی اسیر

کہ در نیو لا اکثر دوستان الہا اور آشنا یا ان با صدق و صفا فقیر خانے

میں جمع ہوئے

\* - زندگی جاوید : مرتضی مظہری شہید (رح)

۱۹۳ - زندگی جاوید : حافظ سید ریاض حسین مجفی، ۴۰ ص،

بها: چار روپیہ، وفاق علمای شیعہ، لاہور (پاکستان)



لکھنؤ شرح جامی مقدمہ "آثار الباقیہ" آورہ  
تو تمام دلائل حجت و مکاریات زندگی ابیر حباد و ابیر بعلوی میں نوشته شدہ است.  
کند مطالعہ کرو اسکے قریباً در مشرق زمین شرح صحیحی لز احوال این  
صلیفہ و سیاستی خانہ بزرگ ایرانی وجود تواریخ ایشان جیہت درج

عده ششاده و معلم آن تیجاییه ۲۸۷ دینگلار رئیسیه . بیمه ۱۶۰

دکتر گوهر نوشانی

اسلام آباد

البرونى

شرح حال بیرونی در تذکره‌ها و تواریخ قدیم از جمله در جلد ششم "معجم الادباء و اخبار الحكماء" شهرزوری، "طبقات الاطباء" ابن ابی اصیبیعه، تتمه "صوان الحکمة" و "مختصر الدول" آمده است. اما شرح حال آنقدر نامنظم، مجلل و مبهم هست که هیچیک از جنبه‌های زندگی بیرونی را روشن نمی‌کند. البته در مقدمه "آثار الباقيه": پروفیسور سخاون بوسیله قام مآخذی که درباره احوال بیرونی بدست رسیده است، خلاصه‌ای از شرح زندگی او را بنظر خواننده می‌رساند. خلاصه این احوال را محمد بن عبدالوهاب فزوینی در حواشی، "چهار مقاله" درج کرده که ما نیز در اینجا قبل از همه آن را ذکر می‌کنیم. او می‌نویسد:

"آنچه مستشرق ادوارد سخاڑ در مقدمه "آثار الباقيه" آورده بهترین شرح حالی است که تاکنون درباره ابوریحان بیرونی نوشته شده است. او تمام مأخذ و مصادری را که جزئیات زندگی ابوریحان را نیز معلوم می کند مطالعه کرده است. زیرا در مشرق زمین شرح صحیحی از احوال این فیلسوف و ریاضی دان بزرگ ایرانی وجود ندارد. "بهمن جهت، درج

خلاصه نوشته پروفیسور سخاون در اینجا مناسب بمنظور می‌رسد:

بیرونی در سوم ذی‌حججه سال ۳۶۲ هـ در خوارزم تولد یافت و در دوم رجب سال ۴۴ هـ در غزنه در سن ۷۷ سالگی در گذشت. بیرونی به بیرون خوارزم منسوب است چون ساکن حومه شهر خوارزم یا اطراف ایالت خوارزم بود، بهر حال در خود شهر خوارزم سکونت نداشت بهمین جهت او را "بیرونی" نامیدند. در "كتاب الانساب" سمعانی که تقریباً یکصد سال بعد از وفات بیرونی نوشته شده، چنین آمده است::

"سبت بیرونی به بیرون شهر خوارزم مربوط می‌شود. چون مردمی که در خود شهر خوارزم ساکن نباشند بلکه در بیرون شهر سکونت داشته باشند "بیرونی" خوانده می‌شوند و در زبان خوارزمیان این مردم را "ایزک" می‌نامند. منجم ابو ریحان بیرونی بهمین نسبت معروف است."

ظاهرآ ابو ریحان دوره اول زندگی خود را در خوارزم و در سایه حمایت مأمونیان که به خوارزمشاهی معروف هستند، بسر برد. خاندان مأمونیان در ابتدا باج گزار شاهان سامانی بود. بعد از این در فاصله بین پایان حکومت سامانیان و استقلال حکومت غزنیان، یعنی بین سالهای ۳۸۴ و ۳۹۰ هجری این خاندان بطور مستقل فرماتروائی کرد، اما فقط چند سال بعد از این استقلال، در سال ۴۰۷ هجری، سلطان محمد غزنوی خوارزم را فتح کرده به قلمرو وسیع سلطنت خود افزود.

ابو ریحان چند سال هم در جرجان در دریار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر که در دو دوره مختلف یعنی سال ۳۶۶ تا ۳۷۱ و ۳۸۸ تا ۴۰۴ هجری در جرجان و الحالات آن حکومت کرد، بسر برد و در حدود سال ۴۰۰ تا ۴۰۷ هجری ابو ریحان دوباره به وطن اصلی خود خوارزم باز گشت و در دریار (ابوالعباس) مأمون بن مأمون خوارزمشاه اقامت

گزید. و خود به چشم خوش شاهد شورش خوارزمیان، قتل خوارزمشاه و لشکرکشی سلطان محمود به بهانه خونخواهی خوارزمشاه و تمام وقایع فتح خوارزم بود و در همه آن وقایع، خود حضور داشت. در فهرست کتابهای ابو ریحان کتابی است بنام "تاریخ خوارزم" و ابو ریحان در آن کتاب بر حسب عادت، همه اخبار و آثار و قصص و حکایات وطن خود بخصوص همه وقایع تاریخی زمان خود را که قسمت اعظم آنها را بچشم خوب دیده بود، درج نموده است. این کتاب ظاهراً مفقود شده اما چند فصل از آن را ابو الفضل بیهقی در پایان "تاریخ مسعودی" آورده است.

بهر حال، هنگامی که سلطان محمود از خوارزم به غزنی بازگشت، در بهار سال ۸۰۴هـ ابو ریحان و بهمراه او همه فضلای دربار خوارزمشاهی را با خود به غزنی برد. بعد از استقرار غزنی، ابو ریحان چندین بار به وطن خود خوارزم سفر کرد. محمود غزنی به هندوستان حمله‌ها کرد و اکثر همراهان او در آنجا اقامت گزیدند و با علماء و حکماء هندوستان مقاس پیدا کرده زبان سانسکریت را آموختند و با مطالعه تاریخ و هیئت و ریاضی و جغرافی و علوم طبیعی، معلومات خود را وسعت بخشیدند. در همین سفرها ابو ریحان مطالب کتاب معروف خود "کتاب الهند" را درباره علوم و مذاهب و اخلاق هندوان جمع آوری نمود. این کتاب در سال ۱۸۸۷ع به اهتمام پروفیسور سخاون و به خرج دولت هند در لندن بچاپ رسید.

تألیفات ابو ریحان به دو زبان فارسی و عربی است. اما از مطالعه کتابهای او معلوم می‌شود که وی به زبان سانسکریت و مقداری هم عبرانی و سریانی آشنائی داشته است. البته از زبان یونانی هیچگونه اطلاعی نداشت و آنچه از قول بطليموس و جالینوس وغیره در کتابهای خود نقل کرده، از ترجمه عربی یا سریانی کتب یونانی اقتباس کرده است.

ابو ریحان اطلاعات خود را علاوه بر آن کتابهای خوب که در حال حاضر نا معلوم هست، بیشتر از زبان مردم بدست آورده است، و همیشه با

پیشوایان مذاهب و علماء و حکماء ملل در ناس بوده، و با سعی و کوشش فراوان آن اطلاعات را بدست آورده است. مخصوصاً قسمت اعظم اطلاعات نادر و کمیابی که درباره تاریخ و تقویم زرتشتیان ایران و اهل خوارزم و صفوی و سمرقند جمع آوری کرده غالباً از بیانات شفاهی گرفته شده است و از کتابها نقل نشده، و اگر ابو ریحان آنقدر به حفظ آثار قدما علاقمند نبود از آن مطالب حتی نام و نشانی هم باقی نمی ماند.

در زمان ابو ریحان، اغلب هسوطنان او اهورا مزدا را می پرستیدند و در اکثر شهرها و شهرستانها، آتشکده‌ها بربا بود و تأثیر علمای مذهب زرتشت کاملاً از بین نرفته بود. بهمین علت است که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به اخبار و آثار و تقلید و تعالیم زرتشتیان مأخذ خوبی برای ابو ریحان وجود داشت.

از مطالعه سطحی تألیفات ابو ریحان نیز عقیده و مشرب او مشخص و معلوم می شود. ابو ریحان جویای حقیقت بود و هیچ چیز را در دنیا بر حقیقت ترجیح نمی داد. برای هیچ غرض دیگر حقیقت را پنهان نمی کرد و برای از بین بردن توهمند و خرافات از هیچ کوششی دریغ نمی نمود. او مسلمان بود و به مذهب تشیع "تاپل" داشت. اما متعصب، متشدد و خشک نبود. از اعراب که اعتبار و عظمت ساسانیان را از بین برداشت، بشدت متنفر بود، و نسبت به هر چیز که به ملت ایران مربوط می شد بی اختیار علاقه نشان می داد. ظاهراً در اوایل آن دوره دین اسلام آنقدر قدرت نیافتد بود که مردم آشکارا ادیان دیگری اختیار نکنند، و یا کسی از خوبی و بدی اسلام سخن نگوید. دقیقی شاعر دوره سامانیان که از زمان ابو ریحان خیلی دور نیست در کمال آزادی این نوع شعر می سراید:

دقیقی چار خصلت برگزیده است

به گیتی از همه خوبی و زشتی

لب یاقوت رنگ و ناله چنگ

مشی گلرنگ و کیش زرتهشتی

ولی چندی بعد یعنی در زمان سلطان محمود غزنوی اینگونه اشعار  
بدون شک زندگی شاعر را به مخاطره می‌افکند.

شرح حال بیرونی که به وسیله پروفیسور سخاون نوشته شده، اگرچه  
بسیار مفصل و مرتب است و در تذکره‌های موجود ما این نظم و ترتیب یافت  
غایی شود، باوجود این در آن تذکره‌ها مطالب زیاد دیگری هم مذکور است که  
پروفیسور سخاون به آن توجه نکرده. بهمین علت در اینجا ما آنها را نیز ذکر  
می‌کنیم تا هیچ نکته‌ای از زندگی بیرونی از نظر پنهان نمانده باشد.

**وطن:** دربارهٔ موطن بیرونی اختلاف نظر هست. در "طبقات  
الاطباء" آمده که "بیرون" شهری از سند است و نام "بیرونی" به این شهر نسبت  
داده شده. در "اخبار الحکماء" شهرزوری هم همین نظر آمده است و همینقدر بر  
آن افزوده شده که: "بیرون که مولد و وطن اوست شهر خوبی است که در آن  
عجائب و غرایب زیاد پیدا می‌شود و این سخن عجیب نیست زیرا که  
مروارید همیشه در صدق یافت می‌شود." اما در حقیقت این نظر بکلی غلط  
است و علت این اشتباه آنست که در سند شهری بنام "نیرون" وجود دارد که در  
آن محل و موقع نیرون مشخص شده است و شهری بنام "بیرون" در سند  
نیست. شاید مردم به غلط همین نیرون را بیرون خوانده ابوریحان را به آن  
نسبت داده اند. آشنائی بیرونی با زبان سانسکریت و "کتاب الهند" او هم باعث  
ایجاد این اشتباه شده است. زیرا وی به این زبان کهنه هندی و مذهب و تمدن  
و علوم هند آنقدر علاقه داشت که فقط یک هندی می‌توانست این چنین  
باشد. بهر حال، نه "بیرون" شهری در سند است و نه بیرونی در آنجا تولد  
یافته. مولد اصلی او دهکده‌ای است در خوارزم. در این باره پروفیسور سخاون  
به "کتاب الانساب" سمعانی مراجع داده است و در معجم الادبای یاقوت هم  
همین نظر تائید شده است.

**ولادت و وفات:** تذکره نویسان ما سال تولد بیرونی را ننوشته اند. البته یاقوت حموی سال وفات او را چنین ذکر کرده که: "وی در حدود سال ۳۴۰ ه در غزنه پس از یک زندگی طولانی وفات یافت "به نظر اینجانب این کاملاً غلط است و از خود "معجم الادباء" یاقوت هم این اشتباه آشکار می شود، چون او نوشته است که وقتی سلطان محمود در سال ۴۲۲ ه وفات یافت ابو ریحان در غزنه می زیست. از این قول کاملاً ثابت می شود که ابو ریحان تا سال ۴۲۲ ه وفات نیافته بود، شاید این اشتباه از نویسنده (یا کاتب) باشد که بجای سال ۴۳۰، ۴۴۰ نوشته است. درباره سال ولادت بیرونی غلط یا درست، تذکره نویسان ما چیزی ننوشته اند. البته یکی از دوستان بیرونی از او فهرست تصنیفاتش را خواسته است و در جواب بیرونی نوشته است:

"شما نام آن دسته از کتب مرا دریافت کرده اید که تا سال ۴۲۷ نوشته شده است. در این زمان سن من به ماه قمری ۶۵ سال و به ماه شمسی ۶۳ سال است."

از این نوشته از یک طرف سقم سخن یاقوت درباره سال وفات بیرونی ثابت می شود و از طرف دیگر معلوم می شود که بیرونی در سال ۳۶۲ ه بدنیا آمد. البته از روی این نوشته، ماه و روز ولادت او معلوم نی شود اما ابواسحاق ابراهیم بن محمد الفضنفر تبریزی در شرح این نامه بیرونی رساله ای نوشته است که نسخه ای از آن در اروپاست، و در آن وی به صراحة نوشته است که ابو ریحان در صبح روز پنجشنبه سوم ذیحجه بدنیا آمد. و در حاشیه یکی از کتب ابو ریحان بخط یکی از شاگردان او بنام امام فاضل سرخسی نوشته شده که ابو ریحان در شامگاه روز جمعه دوم ربیع سال ۴۴۰ ه وفات یافت و در جای دیگر بدست شخص دیگری نوشته شده که سن ابو ریحان در آن هنگام ۷۷ سال و ۷ ماه بود.

**خانواده و تعلیم و تربیت:** از تذکره های موجود، احوال خانوادگی، طنولیت و تعلیم و تربیت ابو ریحان بهیچوجه معلوم نمیشود.

البته ابو ریحان در "آثار الباقیه" نام دو تن از استادان خود را ذکر کرده؛ یکی ابو نصر منصور بن علی بن عراق مولی امیر المؤمنین که درباره او کلمه "استادی" بصراحت نوشته شده، و دیگری بندار سرخسی نام دارد که سید حسین برنسی او را در شمار اساتید ابو ریحان آورده است. اما ابو ریحان در "آثار الباقیه" نام او را به این شکل "آورده": محمد بن اسحاق بن استاد بندار سرخسی. که از آن به صراحت معلوم نمیشود که آیا بندار سرخسی استاد ابو ریحان بود یا اینکه "استاد" لقبی برای اوست. از "معجم الادبای" یاقوت نام یکی دیگر از استادان ابو ریحان معلوم می شود. او می نویسد که: هنگامیکه محمود بر خوارزم سلطنت یافت ابو ریحان و استادش عبدالصمد را اسیر کرد و او را به اتهام باطنیت و کفر بقتل رساند "بهر حال، از تذکره های موجود بیش از این چیزی درباره تعلیم و تربیت بیرونی آشکار نمیشود.

**روابط با دربار:** ابو ریحان عمری طولانی کرد و در این مدت طولانی روابط او با دربارهای مختلف شاهی استوار شد. از متن "معجم الادبای" چنین بر می آید که ابتدا شمس المعالی قابوس بن وشمگیر ابو ریحان را به دربار خود خواند، اما ابو ریحان نپذیرفت. بطوریکه او می نویسد: "قابوس او را برای همصحبتی خویش برگزید و می خواست او را در خانه خود نگهدارد، با این شرط که فرمان ابو ریحان در سراسر قلمرو و متصرفات سلطنت قابوس نفوذ یابد. اما ابو ریحان امتناع ورزید".

قابوس بن وشمگیر در سال ۳۶۲ هجری بتخت نشست و در سال ۳۷۱ دیلمیان بر سلطنت او غلبه یافتد. ابو ریحان در سال ۳۶۲ بدنبال آمده. به این ترتیب در سال ۳۷۱ فقط ۹ سال داشت و در این سن لایق دعوت شدن به دربار نبود. البته قابوس در سال ۳۸۸ هجری دوباره به حکومت رسید و در یک شورش در سال ۴۰۴ کشته شد. به این ترتیب ارتباط ابو ریحان به دربار قابوس از این زمان آغاز شد و در این زمان "آثار الباقیه" را بنام قابوس نوشت. از متن "معجم الادبای" آشکار می شود که بیرونی پیشنهاد قابوس را

رد کرد. در ضمن از احوال زندگی بیرونی مثالهای دیگری از این بی نیازی وجود دارد اما شاید فقر و تنگدستی او را به برقراری این روابط مجبور می کرد.

از این توضیح چنین بر می آید که بیرونی در آغاز روابطش با دریار قابوس در نهایت تنگدستی بود و همین فقر و تنگدستی او را وادار به برقراری ارتباط با دریار قابوس نمود.

رابطه بیرونی با دریار خوارزمشاهیان بعد از این آغاز شد. سلسله خوارزمشاهیان که شرح آن در بالا گذشت بین سالهای ۳۸۴ تا ۳۹۰ هجری بطور مستقل فرمانروایی کردند و در سال ۷۰۴ هجری سلطان محمود غزنوی به حکومت آنها خانه داد. بنا بر این روابط ابو ریحان با این دریار باید بعد از سال ۳۹۰ هجری بوجود آمده باشد. بهر حال، ابو ریحان در این دریار هم عزت و احترام زیادی کسب نمود، آنچنانکه روزی خوارزمشاه سوار بر اسپ از مقام ابو ریحان می گذشت و فرمود تا ابوریحان را از حجره اش فرا خواند. ابو ریحان قدری تأخیر کرد و خوارزمشاه لجام مرکب خود را بر گرداند و می خواست پیاده شود ولی ابوریحان قبل از از حجره بیرون آمد و او را سوگند داد که از اسپ پیاده نشود. در این وقت خوارزمشاه بیتی را خواند که معنی آن این است:

"علم از همه ممالک معزز تر است زیرا که همه مردم بسوی او می آیند و او با این نزد کسی نمی رود."

پس از انفراض خوارزمشاهیان بیرونی با دریار سلطان محمود غزنوی رابطه برقرار نمود. اما دریاره این موضوع باید تحقیق شود که رابطه او با این دریار چگونه بوجود آمد؟ در اینباره نظامی عروضی سمرقندی در کتاب "چهار مقاله" این روایت را نقل می کند که:

"سلطان محمود غزنوی نامه ای برای ابوالعباس مأمون خوارزمشاه نوشت که: در دریار شما فضلاء بی نظیری گرد آمده اند، ایشان را به دریار ما

پفرستید تا از علم و فضل ایشان بهره ور شده رهین منت شما باشیم.  
خوارزمشاه حکمای دربار خود را گرد آورد و این نامه را خواند. شیخ ابو  
علی سینا و ابوسهمیل یحیی از وقت امتناع ورزیدند اما ابو نصر، ابوالخیر و  
ابوریحان بعلت احتیاجات مالی رضایت دادند.

"بعد از این، داستان طویل فرار و گرفتاری شیخ بوعلی سینا و  
ابوسهمیل یحیی ذکر شده است. اما این روایت قرین صحت نیست و نا درستی  
آن از اینجا نیز ثابت می شود که در "معجم الادبا"، یاقوت شرح حال مفصلی  
از ابوریحان نوشته شده، اما هیچ جا ذکری از این واقعه نشده است. بلکه  
بعای آن نوشته شده که علت رفتن ابوریحان به غزنه این بود که وقتی سلطان  
محمد خوارزم را فتح کرد ابوریحان و استادش عبدالصمد اول بن عبدالصمد  
را دستگیر نمود و استاد را به باطنیت و کفر متهم نموده بهمین دلیل وی را  
قتل رسانید و می خواست ابوریحان را نیز بقتل برساند، اما وی بدان علت  
جان سالم پدر بردا که به محمود گفت که وی (ابوریحان) در زمان خود امام و  
پیشوای علم نجوم بشمار می رود و پادشاهان از وجود چنین شخصی بی نیاز  
نخواهند بود. در این موقع سلطان محمد او را بهمراه خود بردا. بیرونی به سر  
زمین هند رفت و آنجا سکونت گزید، زبان مردم آنجا را آموخت و علوم ایشان  
را فرا گرفت. پس از آن در غزنه اقامت گزید و همانجا وفات یافت. بھر حال  
سلطان محمد ابوریحان را برای همنشینی خود بر گزید و درباره آنچه از نجوم  
و موضوعات فلکی وارد ذهن او شده بود با وی گفتگو می کرد.  
سید حسن نوشته است که :

"بعد از فتح خوارزم موقعیکه محمود به قلمرو سلطنت خود باز  
گشت، همه مشاهیر و بزرگان مملکت را دستگیر نمود که بیرونی غمزده ما نیز  
جزو این اسیران سیاسی بود. بعد از رسیدن به غزنه چه بر سر او آمد؟ کلیه  
تواریخ موجود از پاسخ دادن به این سؤال عاجزند و تا وقتیکه مدارک مستند  
تاریخی بدست نیامده هیچ نظر قاطعی نمی توان ابراز داشت. بعلت ضعف و

ستی روايات موجود و از بین رفتن وقایع مجبوریم در شرح احوال و تصنیفات بیرونی تعمق نموده، نتیجه ای قیاسی از آن استخراج کنیم. در شرح احوال بیرونی که بوسیله شمس الدین شهرزوری و ظهیر الدین بیهقی نوشته شده هیچ جا به این نکته اشاره نشده که بیرونی با دربار محمود رابطه ای داشت.

اما خود شهرزوری روایت "معجم الادب" را گرفته و این واقعه را ذکر کرده است. چه گواهی بیشتر از این می‌تواند درباره ملازمت و وابستگی به دربار محمود وجود داشته باشد. البته بیرونی بنام سلطان محمود همچ کتابی ننوشتند اما بعد از محمود در زمان رابطه بیرونی با دربار پسرش سلطان مسعود، قدردانی او نسبت به سلطان محمود غزنی افزایش یافت و بنام مسعود کتابهای متعددی نوشت و علت آن بود که سلطان مسعود خود بی نهایت علم پرور بود و بخصوص به علم نجوم علاقه خاصی داشت. چنانکه روزی در مورد اختلاف شب و روز با بیرونی گفتگو کرد، و از او خواست که علت این اختلاف را روشن سازد زیرا که صحت آن تا آن زمان از روی مشاهده ثابت نشده بود. در این باره ابو ریحان گفت: "هم اکنون که شما استحقاق لقب پادشاه زمین و مالک شرق و غرب را دارید، از این رو واقف شدن بر این مستله بیشتر از هر کس دیگر حق شماست."

به این ترتیب بیرونی درباره این موضوع کتابی نوشت که در موضوع و اصطلاحات نجوم بسیارقه بود، و حتی کسی که با اینگونه مسائل آشنا نداشت می‌توانست آن را درک کند. از آنجا که سلطان مسعود در زبان عربی تبحر داشت، به آسانی آن را فهمید، و به بیرونی صله و انعام داد. به این ترتیب به فرمان او کتاب "لوازم الحركین" را تألیف کرد که سراسر اقتباس از آیات قرآن مجید بود. بهترین کتابی که بنام سلطان مسعود نوشته "قانون مسعودی" بود. سلطان هم پمنظور قدر دانی، یک بار فیل نقره بعنوان صله به او داد اما بیرونی با بی نیازی آن را رد کرد.

پس از کشته شدن سلطان مسعود، پسرش شهاب الدوّلہ ابوالفتح مودود فرمانروا شد که بیرونی با دربار او نیز رابطه برقرار نمود و بنام او کتاب "الدستور" را نوشت.

**اخلاق و عادات:** درباره اخلاق و عادات بیرونی تذکره نویسان ما چیزی نوشتند اند. یاقوت در "معجم الادبا" فقط همین اندازه نوشتند که بیرونی رفتار خوبی داشت. اگرچه سخنان جسورانه می گفت، در عمل اخلاق نیکو داشت. شهرزوری بعضی اخلاق او را نقل کرده شکل ظاهری او را اینطور توصیف می کند که وی "گندم گون و کوتاه قد بود و ریشی انبوه و سپید داشت و شکم او برآمده و بزرگ بود.

**تألیفات و مقام علمی بیرونی:** بطور کلی شهرت بیرونی در علم هیئت و نجوم و نظایر آنست و در این شکی نیست که بیشتر کتب او در همین زمینه نوشته شده است. اما علاوه بر اینها از علوم دیگر نیز بی اطلاع نبود. علامه ابن ابی اصیبیعه نوشتند که: "او در علم طب صاحب نظر بود، علاوه بر ریاضی و نجوم با علوم حکیمة دیگر نیز آشنا بود بطوریکه در مورد آن علوم با شیخ ابو علی سینا مباحثات و مراسلاتی داشته، اما گذشته از نجوم و ریاضی در علوم حکیمة دیگر با شیخ همرتبه نبود." و چنانکه شهرزوری در شرح احوال بیرونی می نویسد: "وی با شیخ بو علی سینا مناظراتی داشته اما ورود در دربار معمولات کار او نبود، هر کس کاری را می تواند انجام بدهد که برای آن ساخته شده است."

علاوه بر این علوم در علوم ادبی هم صاحب ذوق و قریحه بود و یاقوت بهمین جهت شرح حال او را در "معجم الادبا" آورده و نوشتند است: "بیرونی ادیب و زیانشناس بزرگی بود و در باره آن علوم تألیفات متعددی دارد که من آنها را دیده ام. یکی شرح اشعار ابو تمام است که من نسخه ای از آن را که بدست خود بیرونی نوشته شده، دیده ام. اما وی آن را بپیابان نرسانده است. نام کتاب دیگر او "التعلل باحالة الوهم فی معانی نظم اولی الفضل"

است. کتاب دیگری درباره تاریخ دوره سلطان محمد و پسرش نوشته است، و در شرح احوال خوارزم کتابی بنام "کتاب الماسمه" دارد. نام کتاب دیگر از او "مختار الاشعار و الآثار" است.

علاوه بر این تألیفات ادبی و تاریخی، در حکمت و نجوم و هیئت و منطق نیز کتابهای نوشته است که بشمار نمی آید. یاقوت می نویسد: "من در اوقاف جامع مرو فهرست کتب اورا به خط ریز در ۶۰ ورق دیده ام." و تمام تذکره ها هم کثیر تصنیفات و علاقمندی علمی او را تحسین کرده اند.

شهرزوری می نویسد که: "بیرونی همیشه غرق در تصنیف و تألیف بود و دست او قلم را، چشم او مطالعه را و دل او غور و تفکر را فقط در وقت غذا خوردن رها می کرد. تصنیفات او از یک بار شتر افزونست".

یاقوت می نویسد که: "بیرونی کار نویسندگی را فقط در ایام تو روز و مهرگان رها می کرد تا زندگی روزمره خود را سر و سامانی بخشد. بعد از آن در بقیه ایام فقط به کارهای علمی مشغول بود. "تا آنجا که فقیه ابوالحسن علی بن عیسی الولواجی می گوید که: "وقتی ابوریحان در حال مرگ بود، من نزد او رفتم اما او در آن حالت نیز گفت: درباره حساب جدات فاسده روزی من چه گفته بودی؟ دلم بحال او سوخت و گفتم: حتی در این حالت؟ ابوریحان گفت: آیا علم به این موضوع بهتر از آن نیست که دنیا را در حالی ترک گوییم که از آن بی اطلاع ماند، ام. به این ترتیب من آن مسئله را دوباره بیان کردم و او آنرا یاد گرفت. بعد از آن از نزد او بیرون آمدم و در راه بودم که صدای شیون و گریه شنیدم."

از همه این توضیحات، ذوق و علاقمندی علمی و کثیر تصنیفات ابو ریحان آشکار می شود. خود بیرونی فهرستی از تألیفات خود را که تا سال ۴۲۷ یعنی ۱۲ سال قبل از وفاتش نوشته، برای یکی از دوستان خود فرستاده است و آن فهرست در مقدمه "آثار الباقیه" آمده است. تعداد آن کتابها ۱۱۴ است اما این فهرست بکلی ناتمام است. اولاً بیرونی بعد از این تاریخ تا

۱۳ سال زنده ماند و در این مدت نیز کتابهایی نوشته است. علاوه بر این در آن زمان کتابهایی نیز در دست تألیف بود. علاوه بر همه اینها نام بسیاری از تألیفات او در کتابهای دیگر کشش آمده و نام تألیفات زیادی در "کشف الظنون" حاجی خلیفه نوشته شده است. نسخه‌های زیادی از کتابهای دیگر او نیز در اروپا و کتابخانه‌های دیگر دنیا وجود دارد و فهرست همه آنها را سید حسن برنی در رساله خود درج نموده است. اما نسخه‌های خطی تألیفات بی پایان بیرونی هم اکنون نایاب است البته بعضی کتابهای او از الجمله "آثار الباقیه" و "کتاب الهند" منتشر شده است.

بیرونی اگرچه "آثار الباقیه" را درباره موضع خاصی یعنی ریاضی نوشته است، اما در آن کتاب بسیاری از مطالب جالب فلسفی، مذهبی، تاریخی و علمی دیگر هم آورده است و آزادانه از آنها انتقاد کرده است. از این حیث، این کتاب بیرونی، نقدی بر مسائل مهم تاریخی، مذهبی و علمی گذشتگان را نیز در بردارد و از آن چنین بر من آید که اگر فلاسفه ما کتابهای تاریخی می نوشتند این فن از خرد گیریهای انتقادی عصری بکلی بی نیاز می شد. اما از میان فلاسفه ما فقط ابن مسکویه مستقل<sup>۱</sup> و بیرونی ضمناً از اینگونه مسائل انتقاد کرده است. بیرونی، نام، القاب و احوال پادشاهان قدیم ایران را به تفصیل نوشته است. با وجود این توضیح می دهد که در آن بسیاری مطالب غیر ممکن، بعید و غیر قابل قبول وجود دارد.

در این ضمن، از نظر تاریخی بعضی نکات ادبی را هم ذکر کرده مثلاً اینکه شعرای ایران دعای زندگی هزار ساله کرده اند. ما آن را مبالغه می دانیم اما از گفتة بیرونی معلوم می شود که این دعا بر یک روایت تاریخی مبتنی است.

بهر حال، او وقایع تاریخی قدیم را از نظر عقلی بررسی کرده و بهمین جهت از آنها انتقاد نموده است با وجود این کاملاً پیرو عقل هم نبوده

بلکه وقایع تاریخی را از دیدگاه های مختلف بررسی کرده مثلاً درباره طول عمر سلاطین فارس در تاریخ ایرانی، روایات بعیدی که ذکر شده، بیرونی اگر چه آن را قبول نمی کند. باوجود این حدود و معیار خاصی برای زندگی انسان را نیز قابل نیست بلکه نسبت به نظریه عقلیون که به معیار محدودی معتقدند تردید دارد.

به این طریق بعضی چیز ها به اشتباه طبیعت بوجود می آیند و چون بیرون از عادت هستند از نوع خود خارج می شوند. مثل اینکه در بسیاری حیوانات اعضاء زاید یافت می شود. بعد از آن بسیاری مثالهای دیگر از این قسم آورده است:

”من درباره تمام این گونه اشیاء کتابهای مخصوص نوشته ام که مورد قبول مردمی که آنها را ندیده اند نیست چون در این کتب شرایط صحت روایت یافت نمی شود.“

”در فرغانه و یامه عمر ها آنقدر طولانی است که در شهرهای دیگر بیشتر از آن وجود ندارد، بهمین ترتیب عمر مردم عرب و هند از آنها بیشتر است.“

”در میان گیاهان هم این امر بخوبی آشکار است. بعضی از انواع گیاهان تا مدتی طولانی دوام می آورند و بعضی زود از بین می روند. بنا بر این قول مردمی که از روی اقوال نجوم استدلال می کنند، باطل است.“

”از ابوعبدالله الحسین بن ابراهیم الطبری نائلی رساله ای درباره مقدار عمر طبیعی دیدم که در آن می گوید که حد اکثر آن یکصد و چهل سال شمسی است و بیشتر زان غیر ممکن است. اما بطور کلی گفتن اینکه امری غیر ممکن است آوردن یک دلیل لازم است که دل بدان اطمینان یابد.“ و اینک سخنی در باب ضخامت اجسام: هر چند که ضروری نیست، چون در این زمان مشاهده نمی شود و این سخن درباره دورانی بسیار دور است، باوجود این غیر ممکن نیست. اگر هیچ گروهی از انسانها عظیم الحشنه نبوده اند چرا مرتب از

آنها یاد شده است.

بیرونی به آگاهی یافتن از احوال و عقاید و اعمال اقوام گذشته علاقه خاصی دارد بخصوص توجه خاصی به کشف احوال پیشوایان مذهبی ایرانی نشان می دهد. اگرچه در این باب مطالب بسیاری را بر اساس شنیده های خود نوشته است، با وجود این سراغ مأخذ اصلی این مطالب را نیز گرفته و آن عقاید و اعمال را بدین وسیله آشکار کرده است. با وجود اینکه خود با آنها همعقیده نیست، فقط از روی شوق و علاقه علمی، تأثیفات ایشان را مطالعه کرده است بطوریکه یکی از دوستانش از او فهرستی از کتابهای محمد زکریای رازی درخواست می کند و او در جواب فهرست آنها را می فرستد. اما بهمراه آن بر کنار بودن خود را از آن عقاید و نظریات ابراز داشته می نویسد:

"اگر به احترام شما نبود اینکار را نمی کردم چون با این کار دشمنی مخالفان آنها را برای خود می خرم و ایشان گمان می برند من نیز در جماعت آنها وارد شده ام."

اما با همه اینها بیرونی کتابهای ایشان را در باب الهیات مطالعه کرد و مطلع شد که نظریات ایشان از کتابهای مانی علی المخصوص "سفر الاسرار" سر چشمه می گیرد. از از نیرو بیرونی از دوستان خود سراغ این کتاب را گرفت و نزدیک به چهل سال در این تلاش و جستجو سر گردان بود. سر انجام یک نفر کتابهای متعددی از مانی به او داد که کتاب "سفر الاسرار" نیز جزو آنها بود. بیرونی از این موضوع آنقدر شادمان شد که گوئی تشنه ای به آب زلال رسیده است.

اگرچه احوال تاریخی اقوام گذشته در بسیاری تواریخ قدیمی دیگر نیز آمده، با وجود این آنقدر از افکار و عقاید و رسوم مذهبی ایشان از تأثیفات بیرونی آشکار شده که در هیچ کتاب دیگری پیدا نیست. او در "آثار الباقيه" جشنواره های اقوام گذشته را مفصلًا بیان کرده، احوال پیشوایان مذهبی آنها را می نویسد. در یک فصل مخصوص احوال مدعیان پیامبری را ذکر کرده و

از آن میان درباره مفهوم مفصلًا می نویسد.

حقیقت این است که در عقاید و رسوم و افکار مذهبی اقوام پیشین و فرقه های مختلف، علم کلام یکی از ضروریات محسوب می شد و از اینجا معلوم می شود که یک قوم یا فرقه تا چه حد از قوم یا فرقه دیگری تحت تاثیر آمده است و در دوره های بعدی در عقاید و رسوم و افکار آنها چه تغییراتی پدید آمده است. در کتب ملل و نحل که عقاید و رسوم و افکار اقوام و فرق مختلف بیان شده به این منظور است که اگرچه قبل از دوره بیرونی درباره عقاید و رسوم عیسیویان، یهودیان و پارسیان مطالب زیادی نوشته شده است، اما بیرونی هم در "آثار الباقیه" و کتب دیگر خویش در این باره به اندازه کافی نوشته است، و درین مورد شکی نیست که هجگنس درباره اهالی هندوستان پیشتر از بیرونی چیزی نوشته است.

در دوره عباسی اگرچه مقدار زیادی از کتب سانسکریت ترجمه شده و تعداد زیادی از دانشمندان، روحانیان و فلاسفه هندو به دربار خلافت راه یافته بودند. با وجود این بیشتر کتابهایی که ترجمه شده بود درباره طب، ریاضی، نجوم و فلسفه بود که افکار و عقاید مذهبی و رسوم و آداب معاشرت هندوان از آن کتابها معلوم نمی شد. عده ای از مسلمانان نیز اگرچه به شوق علم به هندوستان آمده بودند آنها نیز این جهت درباره هندوستان مطالعه نکردند.

ب این بیرونی اولین کسی است که به این منظور به هندوستان سفر نمود و تذکره نویسان اظهار دارند که وی چهل سال در هند سیاحت می کرد. در باره این مدت اگرچه هیچ تحقیقی نشده و ظاهراً خالی از مبالغه نیست. با وجود این هیچ شکی نیست که بیرونی در سال ۷۰۴ هجری به مراد محمود غزنوی به هندوستان آمده و در سال ۷۰۴ هجری در غزنی وفات یافت. بنا بر این قسمت عده ای از عمر خود را در هند بسر برد و در پنجاب و سند گردش نموده، هندوستان را بچشم خود دید. زبان سانسکریت را فرا گرفت و درباره

علوم و فنون و عقاید و رسوم و معاشرت و اخلاق هندوان به عنوان "کتاب الهند" کتابی نوشته که نظیر آن تا کنون بوجود نیامده است. در این راه مشکلاتی برای او پیش آمد که وی در آغاز کتاب آورده است:

۱- یکی از مشکالات، زبان سانسکریت بود که آن را از فارسی و عربی دور می ساخت و یاد گرفتن آن برای خارجیان بسیار مشکل بود.

۲- دیگر اینکه بیشتر کتب علمی به نظم بود و بعلت وجود تکلفاتی که در نظم دیده می شود فهم مطالب و معانی آن کار آسانی نبود.

۳- سوم اختلاف ملی و مذهبی بود که هندوان غیر از خود ملل دیگر را "ملیح" یعنی نجس می دانستند و نشست و برخاست و خوردن و آشامیدن با آنها بکلی غیر ممکن بود.

۴- چهارم اینکه عادات و رسوم ایشان با مسلمانان بکلی فرق داشت تا به آنجا که بچه های خود را از قبایه مسلمانان می ترسانند و آنها را هیولا می دانستند.

۵- فتوحات اسلامی از زمان محمد بن قاسم تا دوره محمود غزنوی که بعلت آن همه نظام علمی و قومی ایشان از هم پاشید، آنها را دشمن سخت مسلمانان ساخته بود.

علاوه بر این علل بیگانگی، هندوان چنین می پنداشتند که در دنیا غیر از هند هیچ کشوری، غیر از هندوان هیچ قومی، و غیر از پادشاه هند هیچ پادشاه دیگری وجود ندارد، و قومی دیگر بجز هندوان از علم و دانش بیهوده متذمّت نیست، تا بدان حد که اگر ذکری از یک دانشمند خراسانی یا فارسی پیش آنها آورده می شد آن را نمی پذیرفتند بلکه تکذیب می کردند.

اگر چه بیرونی تزد دانشمندان هندو سمع شاگردی داشت، با وجود این وقتی با مقداری از علوم آنها آشنائی پیدا کرد و پیش ایشان شروع به بحث و استدلال نمود، دانشمندان هندو در کمال تعجب شروع به استفاده از او کردند و می پرسیدند که "این مطالب را از کدام دانشمند هندی یاد گرفته ای؟" بیرونی

در آنها بدبده حقارت می نگریست و آنها او را جادوگر می دانستند و نزد دانشمندان خود او را به زبان خویش "بحر ذخار" یعنی دریای بیکران علم می نامیدند.

هندوان دو طبقه بودند خاص و عام و عقاید و افکار و اعمال آنها نیز متفاوت بود. همین وضع در میان مردم یونان در آغاز پیدایش عیسیویت دیده می شد اما بعد از آن که حکماء یونانی ظهور کردند عقاید و رسوم و علوم یونانی را از افکار عامیانه پاک نمودند. اما در میان هندوان چنین علمایی پدید نیامدند. به این ترتیب مقدار زیادی اوهام و خرافات در عقاید و افکار ایشان آمیخته است و بیرونی با اعتقاد و ایمان بدون انتقاد آنها را نقل کرده، با وجود این از آنچه نوشته طرز فکر خواص نیز آشکار می شود.

بیرونی فقط به نقل عقاید و افکار هندوان اکتفا نکرده بلکه عقاید و افکار مذاهب دیگر را نیز بیان می کند که از آن مطالب بسیار مفیدی بدست می آید.

بیرونی اگرچه در "کتاب الهند" فقط عقاید و افکار هندوان را ذکر کرده، اما گاهی نیز مطالبی نوشته که از آنها تأثیر مذهب هنرها بر مذاهب دیگر دنیا نیز آشکار می شود. چنانکه درباره تنازع می نویسد: "مانی وطن خود ابران را ترک نموده و به هندوستان رفت و مسئله تنازع را از هندوان به مذهب خود منتقل کرد".

همان طور که در ابتدا ذکر شد در افکار و عقاید اساسی هندوان مقدار زیادی اوهام و خرافات وجود دارد، اما بیرونی کتب اصلی هندوان را در نظر گرفته، آن اوهام و خرافات را فاش کرده است. چنانکه درباره عقاید و افکار اساسی هندوان درباره روش رستگاری از دنیا به تفصیل بحث کرده است.

بیرونی در مدت سفر خود به هندوستان به اشاعه علوم و فنون اسلامی پرداخت و این امر از کتاب "تحقيق مالله‌هند" ظاهر می شود. در این

باره بیشترین سعی او در این بود که هندوان از علوم و فنون مسلمانان آگاهی یابند و در این هدف برای او مشکلات زیادی پیش آمد.

بهر حال، با قام این سختی‌ها بیرونی علوم و فنون مسلمانان را بین هندوان انتشار داد، و بهمین ترتیب مسلمانان را نیز از علوم و فنون هندوان بی‌اطلاع نگذاشت بلکه کتابهای هندی را هم به عربی ترجمه نمود.

افسوس که درباره همه علوم و فنون هند کتابهایی بدست بیرونی نرسیده و گرنه اگر برای خواندن و ترجمه کردن آن کتب فرصت منی یافت، اشتباهات آنسته از کتب هندوان که قبل از اول ترجمه شده بود نیز بوسیله وی معرفی می‌شد.

عصری که بیرونی در آن به هند آمد، از حیث تمدن و اوضاع اجتماعی وحشت و جهالت هندیها بود، اما بیرونی که وضع تمدن و رفتار و معاشرت این دوره را نوشت، بمنظور نشان دادن حقارت هندیها و برتری مسلمانان نبوده، بلکه منظور او ترسیم نقشه صحیحی از زندگی عدنی و اجتماعی هند بوده است.

بهر حال اگرچه وی در این کتاب بیشتر درباره موضوعات ریاضی و هیئت بحث می‌کند، اما در بسیاری از فصول کتاب افکار و اعمال مردم هند را نیز بتفصیل ذکر کرده و بدینوسیله تاریخ مذهب هندو را تا اندازه کافی روشن نموده است.

## هاخذ

۱- البیرونی (مقاله) : مولانا عبدالسلام ندوی، البیرونی (مجموعه بادگاری)،  
بکوشش : پروفیسور برنسی، ایران سوسائٹی، کلکته (بهارات) ۱۹۵۱

۲- چهار مقاله : نظامی عروضی سر قندی، باهمام دکتر محمد معین، مؤسسه

- انتشارات امیر کبیر، تهران : ۱۳۶۶ هـ من انتشارات ایوان دانشگان ایران معاصر شهید خانی
- ۲- آثار الباقيه : ابو ریحان الپیرونی، ترجمه فارسی : اکبر دانا سرشت، مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران : ۱۳۶۳ هـ
- ۴- طبقات الاطباء : ایسی داؤد سلیمان بن حسان الاندلسی بتحقیق فرواد سید، مهد العلیی، قاهره : ۱۹۵۵،
- ۵- معجم الادباء : شهاب الدین یاقوت بن عبدالله الحموی، یتصحیح : د - ص - مرجلوٹ مطبع هندیه، مصر : ۱۹۲۰.
- ۶- تحقیق ما للهند : ابو ریحان بیرونی، ترجمه فارسی : منوچهر صدرقی سها، مؤسسه مطالعات، تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چاپ سوم : ۱۳۶۲ هـ، ترجمه: اکبر دانا سرشت، چاپ تابان : ۱۳۳۴ هـ
- ۷- تاریخ الحکماء : شمس الدین محمد بن محمد شهرزوری، ترجمه: مقصود علی تبریزی، بکوشش محمد تقی دانش پژوه، شرکت انتشار علمی و فرهنگی، تهران: ۱۹۸۷.
- \* \* \* \*
- هندیان نویسنده ریاضیات، فیزیک، کیمیا، ریاضیات، فلسفه، ادب و ادبیات هندیان  
بریانی اگرچه در کتاب الهند فقط عقاید و افکار هندوان را برکشید  
که در این کتاب نویسنده مطالعه و تحقیق کرده است اما این کتاب هندیان را به این انتساب  
نهاده و نه مطالعه این کتاب را باقی نهاده اند این لیست از این کتاب هندیان نیز نویسنده  
آن کتاب را نهاده اند این نویسنده هندیان را میتوانند این کتاب را مطالعه نمایند اما این  
مطالعه خود مستقبل کرد.
- هندیان طیور که در اینجا دیگر نشود در افکار و عقاید اساس هندوان  
مقداری زیادی اوهام و خرافات وجود دارد. این بیرونی کتب اصلی هندوان را  
در نظر گرفته، آن اوهام و خرافات را باش کرده است. چنانکه در باب عقاید فی  
افکار اساس هندوان درباره روحشود و بگاری از دنیا به تفصیل بحث کرده

۱- (ن) لایه ریاضیاتی که در این کتاب دیده و مکالمه نیاید: (عالیه) بختیاری ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ هـ (تلکیه) مکلامه این کتاب را باخواهی داشتند و نیز میتوانند این کتاب را  
همچنانی دریافت کنند که نکته این کتاب را در میان فیضیان این کتاب میتوانند این کتاب را در این

پروفسور سید وحید اشرف  
دانشگاه، مدراس

## قصیده در نعت

خاتم الانبیاء صلی الله علیہ و آله وسلم

و منقبت سیدة النساء فاطمه زهرا رضی الله عنہا

سر بنه ای قلم پیش در پیغمبر  
خواه توفیق ادب در ره نعت سرور  
سروری کوست شه عالم پست و بالا  
خاک پایش همه کونین نهاده بر سر  
آنکه آمد تقبیش رحمت عالم لاریب  
ذات او خاتم پیغمبران، اوج بشر  
رفت تا عرش، بین رتبه نعلین رسول  
شد سرافراز چو زیر قدمش داشته سر  
نور او بود که اول بوجود آمده است  
اوست مقصود همه، نوبت او شد آخر  
از وجودش همه عالم شده معمور ز نور  
دل که ظلمت کده بوده ست شده رشك قمر  
افضل و احسن و اعلى و کریم و اکرم  
اوست محمود که در شان او آمد کوثر  
گشت محبوب خدا هر که ورا دوست بداشت  
آمده در صفت دشمنش اسفل، ابر  
چون خدا ختم براو کرد همه مدحت و فضل  
پس نکرد آنکه کند ذره ای از آن کمتر

پیش از او آمده بودند رسولان خدا  
 ما بدانیم نبی زادگان را پیغمبر  
 ختم شد چونکه نبوت بر سردار رسول  
 خواسته رب نه ازو مانده بود هیچ پسر  
 دین اسلام ولی هست چو دین فطرت  
 نگذارد که بباشند زنان بی رهبر  
 چونکه محروم شده بود زن از عدل و حقوق  
 بر زمین هستی او بود رذبل و احقر  
 خورده افسوس که زن بهر چه زاییده شد  
 ننگ بوده چو کسی داشته بوده دختر  
 پس خدا خواست که تکمیل هدایت بشود  
 تا که شکوه نبرد زن ببر پیغمبر  
 مرد زن را بود ار مثل لباس زیبا  
 مرد را زن بود ای دوست لباس خوشتر  
 راست گویی که بود کار زنان زاییدن  
 هست بی تربیت روح ولی هیچ بشر  
 پس نباید که فراموش کند حاجت روح  
 زن که استاد نغست است بنام مادر  
 مختصر اینکه خدا خواست که یك زن باشد  
 کارهایش بشود تا که زنان را رهبر  
 پدرش خاصنه خاصان رسول میباید  
 شوهرش آنکه علی، شیر خدا و حیدر  
 پس از این همه موصوف صفات حسن  
 تا بسازند نگونسار سر هر خود سر

پس برافزود خدا فضل خودش بر عالم  
شد محمد پدر دختر عالی گهره  
فاطمه نام لقب سیده وصفش زهرا  
آنکه خود خیر نساء و پدرش خیر بشر  
فاطمه خیر نساء هم بجهان هم بجهنان  
سیده یعنی خواتین جنان را افسر  
چونکه اوصاف بلندش ز قیاس است بروان  
قلم از عجز رقم بروق انداخته سر  
کس ندانست بلندی صفاتش بجهان  
جز خدای متعال و شه روز محشر  
چند زاوصاف بلندش بتوصیم، ولی  
میکنیم آنچه رقم هست از آن ش برتر  
او که لخت جگر سید عالم بوده  
دل پاسایش دنیا نهاده یکسر  
او بدانست که دنباست فقط دار عمل  
آخرت هست که آنجا همه یابند شعر  
از جهان داشته سه چیز برای سه چیز  
صبر و فقر و حیا، زیبائی و تاج و زیور  
چون نبی گفت که فقر است مرا باعث فخر  
فاطمه هم همو کرده است که دیده ز پدر  
قدر مادر همه دانند ز فرزندانش  
دانی شبیر که بوده است که بوده شبیر  
هر دو سردار جوانان بهشتی باشند  
جان خود هر دو بدادند برآه داور

باختن جان و تن خود برضای مولا  
اسوه فاطمه ابیست درین راهگذر  
راز این بود که گفت آن شه داننده راز  
عترتی هست مر این امت ما را رهبر  
رتیه پنج تن از آیه قرآن دانید  
زان یکی آیه تطهیر و تباهل دیگر  
اسفل است آنکه بود آل نبی را دشمن  
اشرفم زانکه منم خانه شان را چاکر

## به یاد حضرت امام

"راز اشراق"

زمان بحرکت دستان تو ارادت داشت  
زمین به تابش اشراقی تو عادت داشت  
کدام حکمت نورانی از تو ساطع بود  
که آسمان به زمین دلت ارادت داشت  
فضای قلب تو بود و هزار غنچه سرخ  
کدام دشت با اندازه تو وسعت داشت  
قسم به آیه چشم که راز اشراق است  
برای درک تو باید چو عشق جرأت داشت  
چگونه کشف کنم آن سوی وجود ترا  
که ارتباط به آن سوی بی نهایت داشت  
به زیر ساینه دست تو کاروان شهود  
نشسته بود و دمی قصد استراحت داشت  
که مرغ روح تو ناگاه از قفس پر زد  
به آن دیار که روز ازل اقامت داشت



غلامرضا مرادی اینجا و آن خود بروزگشته تاء لسا پنهان

اسود فاطمه است درین راهگز

راز این بود که گفت آن شه داشتند و از

## سوکواره شقایق

شب که بر شط خون شعله می زد روح بر اضطراب شقایق  
 ما چه کردیم؟ وقتی که بدیم، جان در التهاب شقایق  
 از هجوم شب درد و آتش ای دریغا! دریغا! دریغا!  
 باد گنگی نهاده است بر جای لحظه های شتاب شقایق  
 هفته بر بستر رنگ و نیرنگ، روح خون و خطر، روح بیدار  
 آما در وسعت باورم نبست، حجم خونین خواب شقایق  
 با نگاهی همه شور پرداز، با تنی شعله در شعله فرباد  
 طرح زیبایی از زندگی داشت، آخرین پیج و تاب شقایق  
 او کجا رفت، او، آنکه باخویش حرمت عشق را پاس می داشت  
 ما کجا بیم؟ با خود چه داریم، بعد از این در جواب شقایق؟  
 عاشقان! عاشقان! واگشانید دیده گلگونه زین بی قراری  
 سینه مالان صد خار اندوه، سرخ تر از کتاب شقایق

تئاتر تئاتر تئاتر تئاتر

تئاتر تئاتر تئاتر تئاتر

تئاتر تئاتر تئاتر تئاتر



علامه طباطبائی بیانی و نشاط (و) علماء ائمه رحمة الله علیهم بیانی

مکالمات شنیدن و افکار پژوهی در میان ادبیات اسلامی

## مهر خوبان

مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد  
 رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد  
 تو مپندار که مجانون سرخود مجانون گشت  
 از سک تا به سهایش کشش لیلی برد  
 من به سر چشمته خورشید نه خود بردم راه  
 ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد  
 من خس بی سرو پایم که به سیل افتادم  
 او که می رفت مرا هم به دل دریا برد  
 جام صهبا ز کجا بود مگر دست که بود  
 که درین بزم بگردید و دل شیدا برد  
 خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود  
 که به یک جلوه ز من نام و نشان یکجا برد  
 خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم  
 با برافروخته رویی که قرار از ما برد  
 همه یاران به سر راه تو بودیم ولی  
 خم ابروت مرا دید و ز من یغما برد  
 همه دلباخته بودیم و هراسان که غمت  
 همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد

(و) ایله تقدیم رشیه پشت سر لیلی  
 بیهه بل ♦ ♦ ♦ نیستا

استاد سید وزیر الحسن عابدی (مرحوم)

رباعیات میرزا دبیر موثیه نگار بزرگ اردو

## رباعی از هرزا دبیر

ترجمه منظوم به فارسی از استاد عابدی

قطره کو گهر کی آبرو دیتا ہے  
قد سرو کو، گل کورنگ و بو دیتا ہے  
بیکار تشخص ہے، تصنع ہے سود  
عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے



قطره کہ شود گھر، کرامت از تست  
سر و گل را جمال و قامت از تست  
مردم بیهودہ کبر و نخوت دارند  
عزت نبود سهل کہ عزت از تست



بن بن کی ہزار آنی دنیا  
پر چشم علی میں نہ سماںی دنیا  
جتنا کہ انہایا در خبیر کو بلند  
نظرؤں سے اسی قدر گرانی دینا




دنیا چو عروس شد، نپرداخت علی(ع)  
رخشید ہزار بار ورد ساخت علی(ع)  
آنسان کہ بلند کرد باب خبیر  
دنیا را ز چشم خوش انداخت علی(ع)

به عیش و نشاط و کامرانی کب تک؟  
گر به بھی سہی تو نوجوانی کب تک  
گر یہ بھی سہی، قرار دولت ہے محال  
گر یہ بھی سہی، تو زندگانی کب تک



این عیش و نشاط و کامرانی تا کی؟  
وین ہا گر داشتی، جوانی تا کی؟  
ور بود جوانیت، نپايد ثروت  
ور اینت بود، زندگانی تا کی؟



باران گذسته کی خبر خاک نہیں  
ایسے ہی گھے کہ اب اثر خاک نہیں  
چن چن کیے کیا خاک هنرمندوں کو  
اے چرخا تجھے قدر هنر خاک نہیں



ای وای ز رفتگان خبر پیدا نیست  
رفتند چنانکہ هیچ اثر پیدا نیست  
یک یک ز میان برد هنرمندان را  
در چشم فلک قدر هنر پیدا نیست



اے تن! تو فروتنی و مسکینی کر  
اے دل! چمن علم کی گل چینی کر  
گرم نظر ہے چشم مردم میں جگہ  
پتلی کی طرح سے ترک خود بیٹھی کر

ای تن! پیشه نیاز و مسکینی کنا  
ای دل ز ریاض علم گل چینی کن  
خواهی که بچشم جا دهنده مردم  
چون مردم دیده ترک خود بینی کن

عاصی کرنالی  
ملتان

## غزل

ای بسا دلها که ویران کرده ای  
صد گلستان را بیابان کرده ای  
داده ای ما را متاع آه و اشک  
اهتمام باد و باران کرده ای  
آن چنان حست تجلی آفرین  
آینه را چشم حیران کرده ای  
باد تو روشن کند شام فراق  
شمع در جانم فروزان کرده ای  
از خیالت خانه ام معمور باد  
خویش را از من گریزان کرده ای  
از جفاایت مردم دشوار نیست  
زندہ باشی کارم آسان کرده ای  
نرخ بالا بود جان عشق را  
من سرت گردم، چه ارزان کرده ای  
دست همت را زکشتن باز دار  
شهر را گنج شهیدان کرده ای  
حسن بی مثلت دلیل حق نیاست  
کافری بودم، مسلمان کرده ای  
در غزل عاصی ترا مددت سراست  
خامه اش ساز غزلخوان کرده ای



خانم دکتر زبده صدیقی

ای دلما چمن علم کی گل چینی کو نلتله

گرمه میں جگه پنل کی چشم مردم میں جگه

**قبای صبوری**

دروغ بود، دروغ آنچہ می شنیدم من  
 خیال بود، خیال آنچہ آفریدم من  
 فریب بود، فریب آنچہ تو همی دادی  
 غم تو بود، غم آنچہ می خریدم من  
 آمید بود، آمید آنچہ می شکستی تو  
 امل برای امل تاباه چیدم من  
 فراق بود، فراق که آتشی افروخت  
 ز سوز بود گدازیکه می تپیدم من  
 دل و شباب و تن و جان نشار تو کردم  
 ز درد و رنج ندانی چه ها کشیدم من  
 هزار جامه سالوس و مکرداری تو  
 مرا قبای صبوری که خوش دریدم من  
 هرس جهان را همه شعله و رچو دوزخ کرد  
 زبده! عشق بهشتی است ارجرسیدم من



تسلیه ریه رلیا، تسلیه ریه رسمه

رها ریه نسلسے ریه ریه ریه

تسلاپ تصلیه لایه ریه ریه

رها ریه ناینیتیه نل ریه ریه



سید فیضی  
اسلام آباد

۵

لکھنؤ ملکہ ناہ رہلے تھے ملکہ  
لکھنؤ ملکہ رہیں ملکہ ملکہ ملکہ  
ملکہ لکھنؤ ملکہ ملکہ ملکہ ملکہ

## رہبر انقلاب اسلامی

(شعر اردو)

خمینی راہ بر انقلاب اسلامی  
چراغِ حق کی ضیاؤں کا مرجع نامی  
فقیہ و مردِ مجاهد وہ حریت کا نقیب  
سرپا پا عزم، سیاست مدار، علامی  
زبان اسکی شریعت، عمل بیان کتاب  
جبھی تو عظمت کردار میں نہ تھی خامی  
خدا پہ، قوم کی طاقت پہ تھا یقین محکم  
کہ ہے نصیب شہنشاہی کا تو ناکامی  
دکھایا اس نے جہان کو مقابلہ کرکے  
کہ ظلم و جور تو ہوتا ہے صرف ہنگامی  
اسی لئے تھا وہ مستکبرین کا دشمن  
غیرب دوست تھا مستضعفین کا حامی  
خمینی کو رہی تائید ایزدی حاصل  
ہر اہل دل کو اسی سے ملی دل آرامی  
خمینی محسن عالم، زعیمِ ملت ہے  
پیام اس کا سنیے گا، ہو خاص یا عامی  
ہمیشہ روشن و رخشان رہیے گی شمعِ جہاد  
یہی ہے دین براہیم کی خوش انجامی  
وہی جیالیے توہین فخر ملک و ملت کے  
زمین ملک نے کی جن کی خون آشامی

خاتم دکتر نزول رحمت باری هو ان شہیدوں پر  
کہ خاک و خون میں ملی جسکی نازک اندامی  
بلند رہتا ہے فیضی حسینیت کا علم  
"بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی"



نے کافٹا بے کافٹا سب لا شہدم منہ  
نے خاک و میتہ لا خاک سب لے کر مجھے مٹاوا  
پیغمبر لا انتہی سب الحکمہ عیسیٰ قادریت  
نے شگرد نہیں اللہ تعالیٰ سب ایک سب میخواہیں مٹاوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

إِنِّي أَسْأَلُكُكَ مُغْفِرَةً لِّذَنبِي

وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ



افضل منهاس (راولپنڈی)

کیا نگاہ مرد مومن

کیا نگاہ مرد مومن

کا اثر تھا، یاد ہے؟

(شعر اردو)

بُون خمینی (رح) جلوہ گر دیکھا گیا ایران میں  
 جل انہے لاکھوں دنیے بپھے ہونے طوفان میں  
 وہ قیادت تھی کہ جیسے قوم پھر زندہ ہونی  
 وہ صدا گوئی کہ جیسے جان آئی جان میں  
 وہ ادائے خاص تھی، منظر تبسم ریز تھا  
 قوت حیدر (ع) نے اک انگزانی لی ایمان میں  
 کیا نگاہ مرد مومن کا اثر تھا، یاد ہے؟  
 ہو گیا تبدیل اک آتش فشان پستان میں  
 حق نے باطل کو سر میدان شکست فاش دی  
 ضیغمون کا زور تھا اس ریبر ذی شان میں  
 سطوت شاپی کو یہ ریلا بھا کر لے گیا!  
 ساری ملت ڈٹ گئی آکر کھلے میدان میں  
 ہر حشم، ہر رعب جیسے ہو گیا مشی کا رزق  
 مت گیا نام و نمود شاہ بس اک آن میں  
 اس قلندر کی طرف عالم کی نظریں انہ گئیں  
 بھر دیا فولاد جس نے قلب میں، ایقان میں  
 خسروانہ تیوروں کی کوئی گنجائش نہ تھی  
 جشن کا سا اک سوار تھا چار سو تہران میں

ذہن روشن، دل کشادہ اور مصنف ہو گئی۔  
 ہر عمل تلنے لگا سچائی کی میزان میں  
 بھولی بسری قدر انسانی ہونی پھر ضوفشار  
 آگئی انسانیت بھٹکی ہونے انسان میں  
 شیر اور بکری اکھنے ہو گئی اس گھاٹ پر  
 کوئی اب دوری نہ تھی دیقان میں خاقان میں  
 رب واحد کی شہنشاہی کا ذنکہ بج گیا  
 آبteen تھیں سر پہ سجدہ سورہ رحمان میں  
 انقلاب ایسا کہ صدیوں بعد آئی یہ صدا  
 اب سجائیے گا نہ کائیں کوئی بھی گلدان میں  
 جبر کے ماتھے پہ جیسے لکھ گیا صبرِ حسین (ع)  
 فرق کیا ہے بندہ جمہور اور سلطان میں  
 معجزہ ایسا ہوا افضل کہ بدلتی کائنات  
 نظر نے جان ڈال دی پھر سے برائی پہ جان میں



عبدالغفار آرزو

مشهد مقدس

## طور معرفت

نشنه تعلیم تواضع میدهد، میخانه کو؟  
قلقل میناسرايد: سجده مستانه کو؟  
سجدگاه حیرت دل گشته "طور معرفت"<sup>(۱)</sup>  
بیدل کامل، کلیم جلوه جانانه کو؟  
قرعه اقبالی ندارد در "رموز بیخودی"<sup>(۲)</sup>  
رُقْعَةٌ صهبا سرود همت مردانه کو؟  
چون خط پیمانه می گردم به گرد خوشن  
گرد باد محفل ما گردش پیمانه کو؟  
غرق لا هوت صفا، صوفی سرايد نغمه ای  
در تجلیگاه جانان کعبه کو بتخانه کو؟  
شاه مذهب گشته در شطرنج عرفان کیش و مات  
بهتر ازاین حرکت شبگفتہ رندانه کو؟  
های و هوی در هوا پیچیده می آید بگوش  
گوش مستی آشناي فاضل دیوانه کو؟  
مرغ دل شد دانه چین دام استغناي دوست  
ناز پرواز رسما پروردہ، دام ودانه کو؟  
فُنْسِ عشقم که می پرسم به هنگام گداز  
بانگاه شعله افزا شمع کو پروانه کو؟

۱- طور معرفت اثر مولانا عبدالقدار بیدل.

۲- رموز بیخودی اثر علامه دکتر محمد اقبال.

پروفیسر ظہور الحسن خاں ارزوں کے مکان پر اگھنڈا بیوی فعالیت  
کے عمل شریعہ لیکا سچائی کی میزان میں پہنچے۔

زندگی

محبیط زیست بفکرم زسیر موج آمد  
سپیده دم که شدم ناظر نظاره جو  
دریده پیرهن آرزو بخود گفتمن  
ولی کرا به جهان رخصت خیال رفو  
حدیث عیش غلط اندرین چمن کین جا  
به آب دیده بلیل بهار ساخت وضو  
کنوز علم و خرد باشترچین ماند  
شاوری که بکبرد بخود شکسته سبو  
زجیر و قدرچه گویم که اینقدر دامن  
حیات ماست چو در رقه خناق گلو  
نفیر غمزدگان شد کارگاه حیات  
زسوز واشک نهال زمانه بانت غر

الطبعة الأولى ● ● ● ● ●

اخبار فرهنگی

اخبار فرہنگی

(ا) مجلس معارفہ

موجب کمال خوشوقتی است که اخیراً آقای دکتر قاسم صافی در سمت معاونت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد مأموریت یافته اند و جزو "حلقه درویشان" مجله دانش و گسترش زبان و ادبیات فارسی هم درآمده اند و انشاءالله مجله دانش بیش از پیش سودمند خواهد شد و فواید دینی، ادبی و فرهنگی و هنری بیشتر و بهتر به همگان خواهد رسید.

به این مناسبت مجلس معارفه‌ای در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۹ برابر ۱۸ ژوئن ۱۹۹۰ م در رایزنی فرهنگی ترتیب یافت که در آن آقایان دکتر سید کمال حاج سید جوادی رایزن فرهنگی و دکتر احمد تمیم داری مدیر مرکز تحقیقات فارسی و استاد احمد منزوی وعده‌ای از اساتید و محققان و هنکاران ایرانی و پاکستانی حضور داشتند و ضمن خوش آمدگویی، به فعالیت‌ها و خدمات علمی و فرهنگی ایشان، اشاره کردند.

آفای دکتر قاسم صافی در سال ۱۳۲۷ هش در شهرستان گلپایگان

که خطه‌ای دانشمند پروراست و بسیاری از عالمان و دانش پژویان در آن نشو و غا بافته‌اند، متولد شد و در میان خاندانی که اهل علم و ادب بودند تربیت یافت. وی در جوانی به تهران آمد و به تحصیلات عالی در رشته ادبیات فارسی پرداخت و چندین اثر مفید در موضوعات ادبی، تاریخی و کتاب‌کتابداری منتشر ساخت. ایشان در دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق اشتغال داشته، سالها نیز مسؤولیت نشریات متعدد را عهده دار بوده و با سیمای جمهوری اسلامی ایران در نویسنده‌گی و اجرایی برخی از برنامه‌های علمی فرهنگی و بزرگداشت بزرگان علم و ادب ایران همکاری داشته است. مدتی نیز در سمت فاینده فرهنگی ایران در پاکستان انجام وظیفه نموده و از جمله آثار نیک ایشان "سفر نامه پاکستان" است که اطلاعات جامع و ارزنده ارائه شده در آن نه تنها برای ایرانیان بلکه برای خود مردم پاکستان بسیار جالب و خواندنی است و تاکنون دوبار چاپ شده و در دانش شماره ۱۹ معرفی شده است.

در آخر اداره مجله دانش از اینکه ایشان مجدداً برای خدمت به زبان و ادبیات فارسی و تقویت و گسترش فرهنگ مشترک به پاکستان آمده اند ابراز خرستنی می‌نماید و مقدم ایشان را گرامی می‌دارد و امید وار است که بتوانند از وجود ایشان به خوبی استفاده برد انشا الله.

**(۳) مجلس یادبود صریح استاد صوفی غلام مصطفی تبسم**

صوفی تبسم نه تنها شاعر زبان فارسی، اردو و پنجابی بود بلکه ادیب بزرگ و استاد بی‌مانند به شمار می‌آمد. روز دهم مارس ۱۹۹۰ م مطابق ۱۹ اسفندماه ۱۳۶۸-ش در لاہور برای تجلیل خدمات صوفی غلام تبسم سمیناری به اهتمام خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لاہور برگزارشد محل مجلس در هتل "آواری" (هتل عاج) بود. صدر مجلس آقای معراج خالد (رنیس مجلس ملی) پاکستان بود. آقای دکتر جاوید اقبال

فرزند علامه دکتر محمد اقبال قاضی داد گستری عالی، دکتر منیر الدین چفتانی رئیس دانشگاه پنجاب، آقای شهرت بخاری رئیس آکادمی اقبال، آقای علی قمی سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران و استاد صوفی گلزار تبسم پسر صوفی تبسم مهمنان ویژه بودند.

برنامه مجلس بدین ترتیب بود: نخست تلاوت قرآن کریم توسط آقای قاری صداقت علی، سپس نعت حضرت رسول اکرم (ص) وغونه اشعار صوفی تبسم بوسیله الحاج محمد اعظم چشتی شاعر و نعت خوان معروف پاکستان، خوانده شد. بعداً آقای صادق گنجی مستوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لاہور سخنرانی کرده و گفت که صوفی تبسم نه تنها شاعر زبان فارسی و اردو بود بلکه از مؤسسان خانه فرهنگ ایران و اولین مسئول این مرکز فرهنگی در لاہور بود. دبیر انجمن فارسی پاکستان آقای دکتر محمد اکرم اکرام در سخنرانی خود اینگو نه بیان کرد که آقای صادق گنجی حق دوستی را ادا کرده زیرا که به یاد این شاعر بزرگ جلسه بزرگی را ترتیب و تنظیم کرده است. وی افزود اکنون در پاکستان زبان فارسی سر نوشت اندوهناکی دارد همه اولیای کرام علماء، ادباء و دانشوران شبه قاره پاکستان و هند به این زبان سخن گفته و نوشته و آثار خود را بر جای نهاده اند. البته بنیاد علمی در زبان فارسی وجود دارد ولیکن در مدارس ابتدائی و متوسطه فارسی را پایان داده اند. اکنون واجب است که به همراه زبان عربی زبان فارسی راهم ترویج کنیم. آقای دکتر اکرم شاه بوسیله رئیس مجلس گزارش کرد که فارسی را دوباره در مدارس دایر کنید و رواج بدھید که این زبان فرهنگ ماست و زبان اسلام ماست.

آقای دکتر جاوید اقبال در بیانات خود گفت تا وقتیکه اینجا ترویج فارسی برقرار بود، شناخت ما مشکل نبود. برای شناخت ما شناخت پاکستان بسیار لازم است که فارسی را دوباره زنده بکنیم و ترویج نمایم. آقای شهرت بخاری رئیس آکادمی اقبال مختصراً فرمود که صوفی تبسم

استاد بن مانند و شاعری بی نظیر بود. آقای دکتر منیرالدین چفتائی اینگونه بیان نمود که صوفی تبسم مقامی را که برای بزرگان ادب به وجود آورده بود همان مقام را برای کودکان به وجود آورد و احساسات شاعری را برای آنان در موضوعات گوناگون سرود و بیان کرد. آقای علی قمی سرکنسنسلگر جمهوری اسلامی ایران در لاهور گفت مرحوم صوفی تبسم برای ترویج زبان و ادبیات فارسی خدمات گرانبهای انجام داد و روابط فرهنگی ایران و پاکستان را ترویج داد.

پسر مرحوم صوفی تبسم، آقای گلزار تبسم از همه حاضرین و آقای صادق گنجی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران تشکر نمود که ایشان بیاد صوفی تبسم این جلسه بزرگ را به وجود آورد. در آخر جناب معراج خالد رئیس مجلس شورای ملی پاکستان سخنان خود را اینگونه بیان فرمود که مرحوم صوفی تبسم ادیبی کامل و دانشور فاضل و شاعر انسان دوست بود. و درین مورد ماباید آکادمی تبسم به وجود بیاوریم و دانشگاه پنجاب هم باید که "کرسی تبسم" را بنا نماید. در پایان پذیرانی گرمنی از اهل مجلس به عمل آمد.

### (۳) بزرگداشت شاعر پاکستانی

سینوار تجلیل و گرامیداشت شاعر پاکستانی فارسی گوی معاصر دکتر عبدالحید عرفانی روز دو شنبه سیزدهم فروردین ماه از سوی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از هشتصد تن از دانشمندان، ادبیا، شعرا، دانشگاهیان و نیز سفیر ایران در پاکستان برگزار شد.

در این سینوار سخنرانان ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند عبدالحید عرفانی در زمینه گسترش و پیشرفت ادبیات فارسی در پاکستان، خواستار توجه هر چه بیشتر حکومت پاکستان نسبت به زبان فارسی شدند. سخنرانان همچنین تلاش این شاعر برای احیاء فرهنگ اسلامی و

مقابله با هجوم فرهنگ غربی به مسلمانان را مورد ستایش قرار دادند و او را از اقبال شناسان و شاگردان علامه اقبال لاهوری - که تلاش فراوانی برای برقراری ارتباط فرهنگی هر چه بیشترین دو ملت مسلمان ایران و پاکستان نموده - معرفی کردند.

باد آور می شود که دکتر عبدالحمید عرفانی بیش از ۴۰ کتاب تحقیقی در زمینه های مختلف ادبی نوشته که از این میان ۹ کتاب در ایران به طبع رسیده است.

وی که بیش از بیست سال به عنوان رایزن فرهنگی و مطبوعاتی سفارت پاکستان در ایران فعالیت داشت، ماه گذشته در سن ۸۰ سالگی بدرود حیات گفت.

**قطعه از خیا محمد خیاء پسرو را**

چو عرفانی ز دنیا رخت برسست  
سیه شد روز ماچون شب زمانم  
به مرگِ ناگهانِ آن سخنور  
پر کاری و هول بیت جوان و پیر نالیدند باهم  
غمش در سینه ام صد نیشتازد  
تراود خون ز زخم سینه پیهم  
چو پر سیدم ز هاتف سال فوت ش  
ندا آمد به گوشم "نشترغم"

### (۳) دومین جشنواره فیلم های ایران در پاکستان

دومین هفته فیلم ایران در پاکستان از یازدهم ماه مه تا هفدهم ماه مه (۲۱، اردیبهشت تا ۲۸)، در شهر اسلام آباد برگزار شد. در مراسم گشایش این جشنواره پس از اجرای چند سرود و قرائت شعر، آقای خرازیان مستنول بخش فیلم و امور هنری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی

ایران طی گزارشی به تشریع نحوه برگزاری این جشن پرداخت و پس از آن آقای باقر کربیان معاون پارلیمانی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی به تشریع فیلم‌های پرداخت که ابعاد انقلاب اسلامی را در بر می‌گرفت. در این جشنواره هفت روز فیلمهای اجاره نشین، تشکیلات، گزارش یک قتل، تا خداحورشید، آنسوی مه، مردی که زیاد می‌دانست و زنجیرهای ابریشمی (هر روز ۳ سانتی به غایش درآمد). تا آخرین روز هفته از ازدحام مردم نکاست و گنجایش محدود و کم بودن در تالار سینمای "نافادیک" بعضی از مشتاقان فیلم را محروم داشت. تمام فیلمها مورد استقبال مردم پاکستان واقع شدند و وسیله خوبی برای شناساندن از آداب و رسوم اخلاق ایران و ایرانیان گشتند. ضمناً در طول برگزاری این جشنواره، جلسات نقد و بررسی و سخنرانی توسط اساتید و هنرمندان پاکستانی و ایرانی و مصاحبه‌های مطبوعاتی با اعضای هشتاد هنری که از ایران برای این جشنواره اعزام شده بودند، در مراکز مختلف ادامه داشت.

## ۵- دبستان ائمیس

### جشن تجلیل محتشم عصو جناب قیصر باره‌هواں

برای شناخت و بزرگداشت خدمات پنجاه ساله آقای سید قبصہ عباس المعروف به قبصہ باره‌هوا، مرثیہ سرای بزرگ پاکستان، جلسه تجلیل از سوی اخیمن دبستان ائمیس و اداره ادبی پروار، در روز سی و یکم ماه مه ۱۹۹۰ در هتل اسلام آباد برگزارشد. ریاست این جلسه بزرگداشت را آقای دکتر جمیل الدین جالبی سر پرست مقدره قومی زبان (فرهنگستان ملی زبان اردو) بر عهده داشت و مهمان خصوصی پروفسور این ذی خان مشیر دولت پاکستان بود. آقای دکتر سید کمال حاج سید جوادی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، استاد احمد متزوی، آقای علی اکبر بهزادی معاون رایزنی، آقای محمد باقر شهبازی مدیر خانه فرهنگ ایران راولپنڈی

وا عضای دبستان ائمّه و ارکان ایوان یادگار دبیر و اعضای گروههای ادبی راولپنڈی و اسلام آباد سید عون محمد رضوی، سید محمد حسن رضوی، سرهنگ محمد اسلم، مولانا احمد حسن نوری و شاعران و مرثیه گویان لاهور و راولپنڈی و حومه در این مجلس ادبی حضور داشتند.

آنای سید ناصر جهان پس از تلاوت قرآن نعمت خوانی کرد. آقایان سید فیضی شارب ظفر، وحیدالحسن هاشمی، حسینی کاظمی، دکتر محمد حسین تسبیحی و دیگران اشعار خوب درباره قیصر باره‌ی و اقتباسات از مراثی جدید و قدیم قیصر باره‌ی را ارائه داشتند. سید شبیه الحسن رضوی، دکتر انعام الحق جاوید، پروفسور مقصود جعفری، نطقهای مختصری ایجاد نمودند. دکتر احمد تمیداری مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در مقاله فارسی خود ضمن مطالبی جالب و تحقیقی درباره "مرثیه جدید" بیان نموده و از مراثی قیصر ابیاتی منتخب را که به فارسی منظوم ترجمه کرده بود. در این مجلس خواند و حاضرین پیوسته به صدای احسنت و آفرین و جزاک الله ابراز احساسات محبت و دوستی می‌نمودند. دکتر سید سبط حسن رضوی صدر دبستان ائمّه ضمن سخنرانی خود بیوگرافی و خدمات قیصر باره‌ی را تجلیل نمود و به تاریخچه مختصر مرثیه گری در ادبیات عربی و فارسی و اردو و انگلیسی اشاره نمود و مخصوصاً در ادبیات اردو سیر کمال فنِ مرثیه سرانی را بالبسط و شرح بیان کرد.

در آخر پروفسور این ذی خان، مهمان خصوصی جلسه در نطق خود فرمود که قیصر باره‌ی در مرثیه نگاری طرزی نو را ایجاد نموده است و شهر. آشوبها که در تمهید مرثیه ها نوشته است واقعاً جالب و فکر انگیزاست. او گفت باید ما بوسیله مراثی جدید اخوت و اتحاد بین قشر های مختلف جامعه ایجاد کنیم تاسو، تفاهم، زد و خورد، کشت و کشتار، ظلم و استبداد از بین بروند و صلح و امنیت و آرامش در جامعه جاگیرد.

## خطبہ صدارت

خواتین و حضرات!

مرثیہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں تاریخ، مذہبی تصورات اور ادب مل جل کر ایک اکانی بن جاتے ہیں۔ ان تین عناصر میں سے ایک عنصر کم کر دیجئیے مرثیہ اپنے درجے سے گر جائے گا۔ اسی لیے مرثیہ ایک مشکل فن ہے۔ اس میں قصیدہ کی روایت بھی اپنے بنیادی عناصر کے ساتھ شامل ہے اور ساتھ مثنوی کی روایت بھی اپنے فطری مزاج کے ساتھ موجود ہے۔ عربی و فارسی میں بھی مرثیہ کی روایت موجود ہے لیکن اردو میں یہ روایت عربی و فارسی سے مختلف ہے۔ اسی لیے اردو مرثیہ اپنی جگہ منفرد ہے۔ یہ ایک طویل مذہبی نظم ہے اور ان تمام خصوصیات کا تقاضا کرتی ہے جو طویل نظم کے لیے ضروری ہیں اور ساتھ یہ مذہبی خیالات کو عوام و خواص تک پہنچانے اور ان کی مذہبی دردمندی کو آسودہ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اب اگر ایک ہی بات کو شاعرانہ مبالغہ کیے ساتھ بار بار دہرا�ا جائے تو وہ یقیناً ذہن نشین تو ہو جاتی ہے لیکن فنی اعتبار سے ہے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی سطح پر مرثیہ نگار کا فنی و تخلیقی مستقلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی شاعرانہ صلاحیتوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس شاعر نے یہ منزل سر کر لی وہ سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ میرانیس اور میرزا دبیر ایسے ہی شاعر تھے۔ عہد حاضر میں یہ مستقلہ اس لیے اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کم و بیش سارے موضوعات برونسے کار لاتے جا چکے ہیں۔ نیز یہ کہ زمانہ بدل چکا ہے اور اتنا بدل چکا ہے کہ اس کے محسوسات بھی بدل گئے ہیں۔ اگر ایک ہی ذگر پر مرثیہ لکھا جائے تو مرثیے کا وہ اثر نہیں ہو گا جو شاعر کا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دور کے شاعروں نے عہد حاضر کے

مسائل اور رجحانات کو قدیم موضوعات اور مرثیے کی روایت سے اس طور پر ملائی کی کوشش کی ہے کہ داستان کریلا میں ہمارے اپنے عہد کی جھلک اور اس کی مسائل کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں۔ اس عمل سے پاکستان میں جدید مرثیے نے جنم لیا اور مرثیے کی ایک نئی روایت کا آغاز ہوا۔ جوش ملیح آبادی کا نام جدید مرثیے میں سب سے نایاب و ممتاز ہے۔ مجھے باد ہے کہ میرے مرحوم عزیز دوست ڈاکٹر یاور عباس محرم کے دنوں میں اپنے گھر میں ہر بفتے ایک محفل مرثیہ منعقد کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ کراچی ایک زندہ شہر اور امن کا گھووارہ تھا۔ محبتون کا علمبردار تھا۔ غریب پرورد بھی تھا اور غریب نواز بھی۔ یہ پاکستان کا ایک ایسا شہر تھا جہاں سارے پاکستان کے لوگ محبت و اخوت کی فضا میں سانس لیتے تھے اور یہ شہر تجارت و صنعت کے علاوہ ادب و تہذیب کا شہر بھی بن گیا تھا۔ جدید مرثیے نے نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ ڈاکٹر یاور عباس مرحوم کی ان محفلوں میں جنم لیا۔ آپ کسی بڑے شاعر کا نام لیجیئے وہ اس محفل میں ضرور شریک ہوا بہر حال اب تو زمانہ بدل گیا ہے۔ لوگ آنکھیں بند کئی شہروں کو ذہا ریسے ہیں اور انہاروں صدی کی مغلیہ سلطنت کی یاد تازہ کر ریسے ہیں۔ میرزا رفیع سودا کے شہر آشوب کے مناظر آج سڑکوں پر گھومتے نظر آ ریسے ہیں۔ جسے دیکھئی وہ آنکھیں میچے اسی شاخ کو کاث ریا ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ آج اس درد ناک منظر کا مرثیہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس صورت حال کا شہر آشوب لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ شعور کو بیدار اور احساس کو زندہ کیا جا سکے۔

خواتین و حضرات!

معاف کیجیئے میں شاید اپنے موضوع سے ذرا بٹ گیا ہوں۔  
مجھے تو آج حضرت قیصر باریوی کی مذہبی و ادبی خدمات کو خراج

تحسین پیش کرنا تھا۔ حضرت قیصر کے جو مرثیے میں نے پڑھیے ہیں ان کے بارے میں اعتماد کئے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عہد حاضر میں ایک ممتاز مرثیہ گو ہیں۔ وہ جدید مرثیے کے ممتاز علمبردار ہیں۔ انہوں نے دور حاضر کی روح کو اپنے مرثیے میں سو کر ایک ایسے رنگ سخن کر پیدا کیا ہے جو ان کا اپنا ہے۔ ان کا مرثیہ آج کے قاری و سامع کے لئے واقعات کریلا کر آج ہی کے حوالے سے سمجھاتا اور سناتا ہے اور اسی لئے ان کے مرثیے دل میں اتر جاتے ہیں۔ انہیں زبان و بیان پر ایسی قدرت ہے کہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ جدید مرثیے کی تاریخ میں ان کا نام مرثیے کی لوح پر بیشہ محفوظ رہے گا۔ میں ان کی پچاس سالہ ادبی خدمات کے موقع پر دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ان کی صحت و سلامتی کے لئے دعا گو ہوں۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے چند مرثیوں کا فتنی تجزیہ کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ قیصر باریوی کے مرثیے کی حقیقی انفرادیت کیا ہے لیکن یہ کام انشا اللہ پھر کسی اور موقع پر کروں گا۔

ان الفاظ کے ساتھ میں ادبی پروار اور مجلس انس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے جلسے کی صدارت کا مجھے شرف بخش۔

(ڈاکٹر جمیل جالبی)

(جناب قیصر باریوی صاحب کی پچاس سالہ خدمات کے موقع پر ۳۱ - مئی ۱۹۹۰ء)

نیمه هفتم، ماه مهر، هشتاد و هشتمین، مجله ایران، سال هفدهم  
۶- مجلس تودیع

جلسه ای ادبی بمناسبت تودیع و سپاسگزاری از خدمات خانم دکتر حکیمه دبیران، استاد اعزامی ایران به دانشگاه پنجاب لاہور، تحت نظرات "الجمن پاسداران فارسی" روز ۱۴ زونن ۱۹۹۰ م ساعت چهار بعد از ظهر برگزار گردید. سر کنسول جمهوری اسلامی ایران در لاہور آقای علی قمی رئیس این جلسه بود. پس از تلاوت کلام الله مجید توسط خانم نگهبان عابد حسین، خانم دکتر خالدہ آفتاب زندگی نامه مهمان ویژه خانم دکتر حکیمه دبیران را عرضه نمود. در این موقع رئیس گروه فارسی دانشکده دختران لاہور، پروفسور خانم سعیده آصف منظومه معروف علامه اقبال "خطاب به مخدرات اسلام" را بصورت دکلمه بسمع حضار رساند. رئیس شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده دولتی لاہور پروفسور ظہیر احمد صدیقی طی سخنرانی خود از خدمات خانم دکتر دبیران تشکر نموده و اشعاری چند که بمناسبت بازگشت ایشان به کشور خود سروده بود خواند. پس ازین پیغام رئیس دانشکده خاور شناسی و معاون رئیس دانشگاه پنجاب پروفسور دکتر ذوالفقار علی ملک توسط آقای دکتر آفتاب اصغر قرائت شد. آقای دکتر آفتاب اصغر طی سخنرانی خود پیرامون گذشته، حال و آینده زبان فارسی در شبے قاره به گذشته درخشنان فارسی در شبے قاره هند و پاکستان اشاره نموده فرمودند که وجود دانشجویان متعددی که شیفتہ فارسی می باشد دلیل برآنست که این زبان شیرین در این خطه آتیه خوبی دارد. خانم دکتر حکیمه دبیران طی خطابه خود که مزین باشعار بخدمات گرانبهای اساتید و شعرای زبان فارسی در شبے قاره را مورد تحسین قرار داده و گفت، ممکن است این امر برای مردم شکفت آور باشد که در میان ۲۵۰ فرهنگ مستند زبان

فارسی تقریباً ۲۰۰ فرهنگ در شبه قاره نوشته شده و بقول دکتر معین بسیاری از فرهنگ نویسان ایرانی در مورد نوشتمن بقیه ۵۰ فرهنگ نیز از منابع مذکور الهام گرفته اند.

## کتابهای تازه

تیپشات کارهای تازه شاعر غلامرضا رفیعی و مهدی عویش از مطبخهای  
معتمد افغانستان انتخاب شده‌اند. در پیشوله جنگی از پیشگام گفتار نسخه فارسی  
آن کتاب اینجا برای این تماشای مغایر ملائمه نشانده باشد. این کتاب از مطبخهای  
کتاب زما (اردو) همین ۲۳ بخش زیرا در آن داشته است:

شماره ۱: مجله کتاب زما (۲۰۰۷) برای انتخاب مکتبه  
نفعی از آنها مکتبه شناسی ایجاد می‌کند. ۳۰۰ صفحه محتوی مقاله ۸ مقاله  
مالیاتی و ۴۰ مقاله تعلیمانی تضمین می‌نماید. برای این کتاب از مطبخهای  
**کتابهای تازه** (اردو) انتخاب شده است. این کتاب از مطبخهای  
جمهوری شان الحق حقیقی، پاکیزه مهدی و غیره و پاکستان و مقالات دیگری که  
متراد مراجعت شود، بهداشتی (۲۰۰۷) نوشته شده است.

## جدید فارسی شاعران (اردو)

این کتاب که دارای ۲۳۶ صفحه است درباره شعرای جدید فارسی  
است از دکتر سید محمد تقی علی عابدی که به سمت محقق در موسسه  
ملی مطالعات علوم و تکنولوژی کار می‌باشد و اصلاً پایان نامه مؤلف بوده  
که وی برای اخذ درجه دکتری از دانشگاه لکھنؤ بسال ۱۹۸۷ تهیه کرده  
است. این کتاب باراول در ژوئیه ۱۹۸۸ از لکھنؤ (هند) چاپ و منتشر  
شده است. مؤلف در باب اول درباره اینکه "شعر جدید چیست؟" بحث کرده  
است و در باب دوم تاریخ شعر جدید و در باب سوم درباره بعض مسائل  
مهم آن بویژه تاثیرات غربی و دخالت دولتهاي خارجی و بیداری سیاسی و  
ظلم و استبداد شاهان از زمان انقلاب مشروطیت و حس وطن دوستی در  
توده مردم سخن گفته است و سپس شرح حال و آثار پانزده شاعر جدید  
ایران ادیب پیشاوری، ایرج میرزا، بهار، پروین اعتمادی، پور داود،  
دهخدا، رشید با سمنی، شهریار، عارف قزوینی، عشقی، فرج زاد، فرخی  
یزدی، لاهوی، نسیم رشتی و نیما یوشیج را آورده در باب چهارم خصائص  
شعر فارسی جدید را بیان کرده است. درباران در باب پنجم نفوذ شعر پروین

اعتصامی در شعر جدید و ویژگیهای شعروی را مورد بحث قرار داده است و در آخر فهرست ۶۳ کتاب اردو و فارسی و پنج کتاب انگلیسی و دوازده مجله اردو و فارسی را ذکر نموده است که مؤلف در تالیف این کتاب از آن استفاده کرده است. بهای این کتاب ۴۲ روپیه است.

### پروین اعتصامی (اردو)

این رساله مختصر در ۱۰۴ صفحه درباره شرح حال و آثار پروین اعتصامی است از همان مولف دکتر سید محمد تقی علی عابدی و به سال ۱۹۸۴ از لکھنؤ (ہند) چاپ و منتشر شده است- بهای آن ۲۰ روپیه می باشد.

### العطش (اردو)

مجموعه مراثی سید وحیدالحسن هاشمی است در ۲۳۲ صفحه بنیان اردر که شبیه الحسن ترتیب داده و الحبیب پبلیکیشنز کراچی آن را طبع و نشر نموده است و حاوی ۱۱ مرثیه به عنوانهای مختلف و سه سلام شاعر است- بهای این کتاب ۶۰ روپیه است.

### تذکرہ فریدیہ (اردو)

این رساله مختصر تالیف مولانا محمد مشتاق صابری که چشتیہ اکادمی فیصل آباد (پاکستان) آنرا بسال ۱۹۸۸ در ۶۴ صفحه طبع و نشر نموده است و حاوی ذکر شیخ فرید الدین گنج شکر، عارف معروف می باشد- بهای این کتاب ذکر نشده است-

### کتاب شناسی (۳)

شماره ۳ مجله کتاب شناسی است بزیان اردو که بااهتمام آقای عارف نوشahi بتوسط اداره معارف نوشاھیہ اسلام آباد در ۱۷۰ صفحه بسال ۱۹۸۹ چاپ و نشر شده است و حاوی فهرست مخطوطات کتابخانه

نوشته به عربی، فارسی، اردو، پنجابی و سندی درباره موضوعات مختلف مانند تفسیر و حدیث و اصول حدیث و فقه و اصول فقه و اخلاق و تصوف و دستور زبان وغیره می باشد. بهای این شماره ۵ روپیه است.

### کتاب نما (اردو)

شماره ۱۰ مجله "کتاب نما" برای اکتبر ۱۹۸۹م با هتمام مکتبه جامعه، جامعه نگر، دہلی (هند) حاوی ۱۰۴ صفحه و مشتمل بر ۸ مقاله درباره موضوعات مختلف از جمله اردو زبان رسمی دوم، بسلم خیر آبادی و مضطرب خیر آبادی و آغا حشر و محقق وغیره و غزلیاتی از ۷ شاعر از جمله شان الحق حقی، باقر مهدی وغیره و یک داستان و مقالات دیگر در طنز و مزاح وغیره. بهای این مجله پنج روپیه است.

### اورینتل کالج مگزین (شماره ۲۴۷ و ۲۴۸)

مجله دانشکده زبانهای شرقی لاهور شماره ۲۴۷ و ۲۴۸ در یک جلد که شماره مخصوص اقبال میباشد در ۱۷۶ صفحه حاوی ۱۰ مقاله از جمله اقبال و تی اس ایلیات و فیشاوی از کلام اقبال و نظر عروضی "بال جبریل" و پیروان اقبال (شعرای فارسی گو)- مکاتیب (نامه های از) اقبال به نام مولوی سراج الدین پاں تقابلات ابتدائی شعر اقبال، اقبال آهنگ و انفرادیت، کعبه و حرم در شعر اقبال بهای این شماره ۱۲ روپیه است.

\* \* \* \*

## دکتر پرویزناتل خانلری درگذشت

دکتر پرویزناتل خانلری، استاد دانشگاه تهران، محقق، نویسنده، زبانشناس و سراینده ایران در ۱۲۹۲ خ چشم به جهان گشود، و پس از هفتاد و هفت سال عمر، در شب پنجشنبه ۱ شهریورماه ۱۳۶۹ خ در پی یک بیماری ممتد در بیمارستان آبان تهران درگذشت. این خبر در آخرین روزهای چاپ مجله دانش بخارسید و اکنون فرصت بررسی کارنامه ادبی او را نداریم. فهرست کارهای او در ۱۳۴۰ خ چاپ شده تا بیست و نه سال پیش به سی کتاب می‌رسد. یکی از مهمترین یادگارهای ایشان دوره‌های مجله سخن است. مجله‌ای که بگونه یک دایره المعارف ادبیات فارسی و نمونه نظر و نظم کهن و معاصر در دست‌رس نسلهای معاصر و آینده ایران و ایران‌شناسان باقی خواهد ماند. از کارهای دیگر او مدیریت وی در بنیاد فرهنگ بوده و دیگر تالیفاتی در زمینه زبان‌شناسی، دستور زبان فارسی و دستور عروض و قافیه می‌باشد که در همه این زمینه‌ها نوآوری‌هایی دارد.

درگذشت او را به خانواده و دوستان و شاگردانشان که بسیاری از آنان در پاکستان جزو پاسدا ران ادب و زبان فارسی هستند تسلیت می‌گوئیم.

## محمدی اخوان ثالث چشم از جهان بست

در لحظاتی که مجله دانش در دستگاه چاپ قرار می‌گرفت خبر یافتیم که محمدی اخوان ثالث درگذشت. به همین مناسبت یاد او را گرامی داشته و اظهار همدردی و عرض تسلیت به اهل علم و ادب می‌کنیم.

محمدی اخوان ثالث سراینده نوپرداز نامور، در ۳۰۷ خ به دنبال یک بیماری ناگهانی در بیمارستان مهر در تهران چشم از جهان بست.

این شاعرتونا با مطالعات ژرفی که در تاریخ گذشته ایران و شعرکهن فارسی داشت، به شعر نوپرداخت و سبک ویژه خود را عرضه داشت و تکامل داد. و پس از نیما یوشیج نامورترین سراینده نوپرداز ایران بود و از خود آثار ارزشمند به یادگار گذاشت. درگذشت ایشان را به بازماندگان ایشان تسلیت گفته از خدا وند مهریان، آمرزش ایشان را خواهانیم.

"دانش"

سلما نیز لغایت این میگشت  
نیمه شب بدبخته  
نه لش نمیگه ن آه  
ریشه عجیب دله زده و بیا  
ن لهم زوال ناریو له  
سته خالق رحیل سالمه  
خان ریه نفله و شفته  
عیشه ریحیت نیکله لوریت  
ن لیوا نایلیمه ریلیمه



## وفیات

شاعر ادیب معاصر اردو و فارسی و پنجابی فقید سید افضل حسین شاه متخلص به افضل ساکن در شهر اتك روز دو شنبه ۲۸ ماه مه ۱۹۹۰ مطابق سوم خرداد ۱۳۶۹ در اثر سکته قلبی چشم از جهان بریست این شاعر زنده دل و مجلس آرا رئیس اداره امور جنگلبانی در بخش اتك در حومه اسلام آباد بود. اتك شهریست کنار رود خانه سند دارای آثار تاریخی و مناظر زیبای کوه و دشت و رودخانه ها و خطه ایست دانش پرور و مردم خیز که بسیار از دانشمندان پاکستانی و علاقه مندان زبان و ادبیات فارسی رادر، دامن خود پرورانده است از قبیل دانشمند فقید دکتر غلام جیلانی برق و آقای ظہور احمد استاد فارسی و پروفسور اشفاق احمد مشوق تاسیس کارخانه ذوب آهن و آقای محمد ایوب وکیل داد گستری و مترجم کتاب جاذبه و دافعه علی و آقای سید افضل حسین شاه رئیس مرکز پژوهش گل و باگذاری که با گلها و نهالها زندگی می کرد. گل می گفت و گل می شنید تبسمش مثل غنچه بود و همیشه خندان و شادان به نظر می آمد. اخیراً درماه دسامبر در جلسه معارفه بی که به هفت او تحت سرپرستی انجمن ادبی اتك در اتك تشکیل شده بود، جناب آقای دکتر سید کمال حاج سید جوادی رایزن محترم فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران را به اتك دعوت کرد و علاوه بر اجرای مجلس مشاعره پذیرائی گرمی از

دعوت شدگان به عمل آورد. وی ریاست انجمن فرهنگ و ادب فارسی اتک را بر عهده داشت. دکتر محمد حسین تسبیحی دکتر سید سبط حسن رضوی، آقای نیاکان، آقای علی پیرنیا و غیر هم در آن مجلس مشاعره شرکت نمودند عکس های آن مجلس هنوز هم در آلبوم های ماموجود می باشد. چه کسی می دانست که این رفیق مخلص ما بزودی از این جهان فانی رخت سفر می بندد. بعداً پم در مجالس انجمن فارسی و خانه فرهنگ ایران راولپنڈی او را دعوت می نمودیم خوشحال می گشت و تلفن می زد که حتماً من می رسم و بروقت مسافت هفتاد کلو متری با ماشین شخصی خود می پیمود و شعرمی سرود و سخنرانی می کرد و صحبت های منفصل از ایران و فارسی بیان می داشت و همیشه دعوت خود را تجدید می نمود.

آه آن دور گذشت آن ساغر شکست و آن ساقی خاند و اینک خبر  
وفات اورا از زبان آقای ناظر بخاری شنیدیم و متوجه گشتم که بدون خدا  
حافظی ابن جهان فانی را بدرود گفت و بسیار خاموش و بی سرو صدا از  
ماجدا شد و نگذاشت که مادر مراسم تدفین و تشییع او شرکت کنیم و به  
وارثان او تعزیت و تسلیت بگوییم. در مقدرات خدای متعال چاره ای نیست  
جز صبر و شکر. تیر غم را در دل شکستم و خاموش شدم. من گویند  
خانواده او به گجرات رفت و فعلًا نشانی آن در دست نیست.

اَنَّ اللَّهَ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ

سید تقی رضا بلکرامی کی بیانات کفر و ملک کا تلیف حلقہ پر اپنے سوچ و نظر  
و بلکر ملک کی تحریک و تبلیغ کی تحریک کی تحریک کی تحریک کی تحریک  
تالیف نہ کر کے اپنے بھائی احمد احمدی کے لئے اپنے تحریک کی تحریک کی تحریک  
و جعل تبلیغ کی تحریک  
پور اور جس شخص با واقعہ سے گھومنی کی تحریک کی تحریک کی تحریک کی تحریک  
بھی اختصار کیے ساتھ گردان گھومنی کی تحریک کی تحریک کی تحریک کی تحریک کی تحریک

علامہ عبدالجلیل بلکرامی کی فارسی تاریخ گوئی دیوان  
لکھنؤ پر ماں علامہ میر عبدالجلیل واسطی بلکرامی

لکھنؤ سے نہ کیا انتقال  
۱۹۹۱ء (۱۱۰۸ھ) کی تحریک وفات

تستہ نہ ریاضہ و خالیہ بیجے ۷۲

علامہ میر عبدالجلیل واسطی بلکرامی، آسمانِ علم و ادب کے  
خورشید تاباں تھے۔ وہ بہت سے علوم پر دستِ قدرت رکھتے تھے چنانچہ  
سید علی معصوم شیرازی (۱) مؤلف انوار الربيع و ریاض السالکین وغیرہ  
نے لکھا ہے کہ "من در تمام عمرِ خود جامع غرائب مثل عبدالجلیل  
نہیں" (۲)۔

علامہ مبرور کی ولادت با سعادت ۱۳ شوال المکرم ۱۰۴۱ھ  
(یکم جون ۱۶۶۱ء) کو بلکرام (۳) کے محلہ میدان پورہ میں ہوئی۔ ان  
کے والد کا اسم شریف سید احمد تھا جو نیکی اور دیانت داری میں کوس  
یکتائی بجا گئی۔ ان کی وفات ۳ جمادی الاول ۱۰۹۶ھ (۲۹ مارچ،  
۱۶۸۵ء) کو ہوئی۔ علامہ جلیل بلکرامی کا سلسلہ نسب ابوالفرح واسطی  
سے ہو کر زید شہید بن (۴) امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتا  
ہے۔ سید ابوالفرح واسطی کے اخلاق میں سید محمد صغیر نے  
۱۲۱۴ھ (۱۷۹۶ء) میں بعهد سلطان شمس الدین التمش (۵) تا  
۱۲۳۶ء (۱۸۲۱ء) بلکرام فتح کیا جسکی تاریخ "خدا داد" ہے۔ انہوں نے بہار

کے راجہ سری رام پر حملہ کیا اور اسے قتل کر کے اسلام کا علم بلند کیا (۵)۔ سید محمد صغیری کی رحلت دوشنبہ بوقت صبح، ۱۳ شعبان ۶۶۳۵ھ (۱۸ نومبر ۱۲۳۸ء) کو ہوئی۔ ان کا مزار بلگرام میں جانب شمال باغ محمود میں واقع ہے اور مرجع خاص و عام ہے۔ علامہ جلیل بلگرامی منشوی "امواج الخیال" میں فرماتے ہیں (۶)

مائیم نخل سبزِ ریاض پیغمبری  
احسانِ ماست بر همه از سایه گسترشی  
زید شہید مصحفِ اسرار اهلیت  
پیداست از مناقب او شان حیدری  
والا کهر ابو الفرح واسطی که شست  
از آبِ ذوالفقار بسی نقش کافری  
جد کلان محمد صغیری که تبعی او  
بر بلگرام یافته فتح و مظفری  
احمد که صاحب قلم و سیفِ قاطع است

بهرام و تیر بر در او کردہ چاکری  
عبدالجلیل از پسِ احمد منم که هست  
وصفی ز من فصاحتِ سحبان و انوری (۷)  
علامہ واسطی بلگرامی کو دیگر علوم کے علاوہ تاریخ گونی میں  
ملکہ وافر حاصل تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر زید احمد پروفیسر اللہ آباد  
یونیورسٹی لکھتے ہیں:-

"تاریخ گونی میں عبدالجلیل کو خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ بہت  
ذبین شاعر تھی اور صنعتِ لفظی پر ان کو بڑی قدرت حاصل تھی۔" (۸)

تاریخ گوئی شاعری کی مشکل ترین صنف ہے اور اسمیں ندرت پیدا کرنے کے لیے زبان و بیان پر دستگاہ رکھنے کے علاوہ اس فن سے فطری لگاؤ از حد ضروری ہے ورنہ شاعر قطعات تاریخ میں کوئی ندرت یا حسن پیدا نہیں کر سکتا۔ اب میں علامہ بلگرامی کی تاریخین نقل کرتا ہوں اور جس شخص یا واقعہ سے متعلق تاریخ کہی گئی ہے، اس کا بیان بھی اختصار کے ساتھ کروں گا۔

علامہ عبدالجلیل بلگرامی کے شاہ حسین خاں سے جو دیوانی لکھنے پر مامور تھے، مراسم اختصاص تھے۔ اور نگ زیب عالمگیر نے انہیں لکھنؤ سے تبدیل کر کے دیوانی پشنه (بہار) پر مامور کیا۔ ان کا انتقال ۱۶۹۶ (۱۱۰۸ھ) میں ہوا تو علامہ جلیل بلگرامی نے تاریخ وفات

خان خورشید نسب شاہ حسین  
ذات او مظہر آیات جلی  
آن امیری کہ در انواع شکوه  
داشته مرتبہ بی بدالی  
گوهر فکر وزیران جهان  
پہلوی رای منیرش عملی  
در هزار و صد و هشت از هجرت  
کرد نهضت به ریاض ازلی  
سال تاریخ خرد گفت چنین  
یاد حشرش بحسین ابن علی (ع) (۹۱)

(۱۱۰۸ھ)  
بنیۃ آتشیں یکریا اخیر شاندیشی ہے بنیۃ آتشیں یکریا اخیر شاندیشی

شہنشاہ اور نگر زیر عالمگیر نے ۱۱۱۲ھ (۱۷۹۰ء) میں علامہ جلیل بلگرامی کو بلگرام کے قریب سانی پور میں ایک بڑی جاگیر عطا کی اور صوبہ گجرات کی بخشی گردی اور وقائع نویسی کی خدمات پر مامور کیا تو علامہ نے مندرجہ ذیل تاریخ عطیہ خدمات کہی۔

مرا از جناب خلافت عطا شد  
ماں میں ذ روس کرم خدمت عیش افزا  
خرد گفت تاریخ تفویض خدمت  
وقائع نگاری گجرات زیبا " (۱۰)  
۱۱۱۲ھ (۱۷۹۰ء)

۱۳ ذی قعده ۱۱۱۱ھ (۱۷۹۰ء) اپریل ۲۲) کو شہنشاہ عالمگیر نے قلعہ ستارہ واقع جنوبی ہند فتح کیا۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے شہنشاہ نے بڑی کاوش کی تھی اور بڑی مشکل سے یہ قلعہ فتح ہوا تھا، اس لئے شہنشاہ نے اس فتح پر بہت اظہار مسرت کیا تھا۔ علامہ جلیل بلگرامی نے جو اُس وقت شہنشاہ کے ساتھ دکن میں تھی، اس فتح کی متعدد تاریخیں نظم کی تھیں۔ چنانچہ چودھری نبی احمد سنبلوی لکھتے ہیں:-

۱۳ ذی قعده ۱۱۱۱ھ (۱۷۹۰ء) اپریل ۲۲) کو شہنشاہ عالمگیر نے قلعہ ستارہ واقع جنوبی ہند فتح کیا۔ اُسی شب میر عبدالجلیل بلگرامی نے فارسی، عربی، اور ہندی میں گیارہ تاریخیں لکھیں اور رسالہ ترتیب دے کر بادشاہ کے حضور میں پیش کیا اور خسروانہ تحسین کے مورد ہوئے۔ رسالہ کا نام "گلزار فتح شاہ ہند" اور "طوسی نامہ فیروزی شاہ عالمگیر" رکھا۔ ان دونوں ناموں سے بھی تایخ ۱۱۱۱ھ برآمد ہوتی ہے۔ ان تاریخوں کا اختراع صنعتِ تسمیہ کے عجائب میں شمار ہوتا ہے۔ ذیل کی فارسی کی تاریخ میں جو انگلیوں کی شکل سے نکالی ہے، جدت آفرینی

کی ہے اور کمال طباعی دکھائی ہے۔  
 چو شہ ابھام زیر خضر آورد  
 بورد اسم اعظم در شماره  
 قلاع کفر شد مفتوح فی الحال  
 ز تبغ او عدو شد پارہ پارہ  
 زانگستان شہ برآمد ابھام  
 برابر چار الف کردم نظارہ  
 بعینہ بود شکل سال هجری  
 پعن تاریخ تسخیر ستارہ  
 چنین تاریخ گفتان اختراعی سست  
 شد از عبدالجلیل این آشکارہ (۱۱)

علامہ نے اس فتح سے متعلق جو اور تاریخیں کہی تھیں، ان میں  
 سے فارسی کی چند تاریخیں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔  
 چو سیوا، سنبھا و رانا بگیتی  
 ز تبغ شہنشاہ گشتند پارہ  
 الفہای این راجہ ہا را بیک جا  
 نوشتم تاریخ فتح ستارہ (۱۲)

اس قطعہ میں شاعر نے سیوا، سنبھا اور رانا کے چاروں الف سے  
 تاریخ نکالی ہے۔ بادشاہ کی تلوار سے ان راجوں کے پراکنده (قتل) ہونے  
 سے جار الف بھی ملفوظی طور پر منتشر ہوئے، جنہیں شاعر نے یکجا لکھ  
 کر تاریخ ۱۱۱۱ھ حاصل کر لی ہے اس طرح تاریخ کہنا علامہ کی اختراع

از معجزہ پیغمبر شق القمر عیان شد  
 اعجاز خسروی بین "شق ستارہ" آمد (۱۳)

اس تاریخ میں شاعر نے صنعت لفظی سے کام لیا ہے اور جو

ندرت پیدا کی ہے وہ صاحبانِ ذوق کیے نئے باعث تلذذِ خاطر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے "شقِ القمر" اور بادشاہ کی نسبت سے "شقِ ستارہ" کا معجزہ بہربور لفظی صنعت گردی ہے۔ علامہ بلکرامی اس فن کے بادشاہ ہیں۔

جشن سہ بارہ گیر بفتح ستارہ گزہ  
نظارہ کن جوانب اطراف بوستان  
این بیت را به تعمید گیرہ اگر کسی  
تاریخ با نقط شود از لفظ او عیان

لنظر جشن کے اعداد ۳۵۳ ہیں۔ اسے تین سے ضرب دین تو ۱۰۵۹ عدد حاصل ہوں گے، ان اعداد میں اطراف بوستان یعنی ابتدائی حرفاً "ب" اور آخری حرفاً "ن" کیے ۵۲ عدد شامل کر دین تو سند مطلوب کے اعداد ۱۱۱ حاصل ہو جائیں گے۔ جشن کے حروف ج، ش، ن اور اطراف بوستان کے حروف، ب، ن، منقوطہ ہیں۔ اس تاریخ میں شاعر نے اپنی کمالِ ذہانت اور طباعی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے صنعتِ تفاصیل اور صنعتِ منقوطہ کے استعمال سے اپسی ندرت پیدا کی ہے جو تعریف و تحسین سے بالا تر ہے۔

ملک الشعرا، دربار شاہجهانی ابو طالب کلیم ہدایتی نے شہنشاہ اور نگ زب عالمگیر کی ولادت پر پانچ اشعار کا تاریخی قطعہ کہا تھا جس کا آخری شعر یہ ہے۔

طبع دریافت سال تاریخش زدر قم آفتاب عالم تاب

اس شعر میں "آفتاب عالمتاب" سے تاریخ ولادت (۱۰۲۸ھ) برآمد کی ہے۔ علامہ عبدالجلیل بلکرامی نے اس تاریخ ولادت اور بادشاہ کی اسلام دوستی اور اسلامی شعائر کی پابندی کے تناظر میں فتحِ ستارہ کے موقع پر مندرجہ ذیل تاریخ کہی۔

چو شاہ عالمگیر آفتاب عالم تاب  
 ملیہ دے هن که تیغ اوست بگیتی کلب فتح اسیاب  
 ستارہ قلعہ کفار را محاصرہ کرد  
 بعزم آن که نماید بنای کفر خراب  
 چنان بزلزلہ آمد زمین ز هیبت او  
 کہ کوہ گشت چو دریا و قلعہ شد گرداپ  
 چو فتح شد پیش تاریخ فکر می کردم  
 برآمد از تہ دریا فکر دُر خوش آب  
 چو از درون "ستاہ" "جنود شرک" برفت

۸۳=۵۸۲-۱۶۶

طلوع کرد درو "آفتاب عالم تاب"

۱۴. ۲۸ = ۸۳ + ۱. ۱۱۱۱

اس تاریخ میں اگرچہ تخریجہ اور تدخلہ کا عمل کار فرما ہے جو  
 تاریخ گوئی میں مستحسن متصور نہیں کیا جاتا لیکن شاعر نے اپنی  
 طباعی، ذکاوت اور فکر بلیغ سے جو ندرت اور حسن پیدا کیا ہے وہ انہی  
 کا حصہ ہے اور داد و توصیف سے مستغنی ہے۔ شاعر کا یہ کہنا کہ  
 آفتاب عالمتاب (عالمگیر بادشاہ) قلعہ ستارہ میں اس وقت طلوع پوا جب  
 افواج کفار ویان سے چلی گئیں، بلاغت فکر کی معراج ہے۔ مزید خوبی یہ  
 ہے کہ ابجد معنوی کے اعتبار سے "ستارہ" کے اعداد میں سے "جنود  
 شری" کے اعداد کا تخریجہ کیا ہے یعنی "جنود شری" کو ستارہ سے نکالا  
 ہے پھر مابقی اعداد کا تعمیہ "آفتاب عالم تاب" کے اعداد سے کیا ہے۔

۱۱۱۸ (۱۰۶ء) میں شہنشاہ عالمگیر کا بمقام احمد نگر  
 (دکن) انتقال ہوا تو علامہ واسطی بلگرامی نے بادشاہ کے مادہ تاریخ  
 ولادت "آفتاب عالم تاب" کی رعایت سے "فی آفتاب عالم تاب" تاریخ  
 کہی، یعنی آفتاب عالم تاب کو زوال ہو گیا۔ (۱۵)

۱۱۱۵ھ (۱۴۰۵ء) میں سنده کے مرز بان اور خاندان کلہوڑہ کے فرد فرید میان یار محمد (۱۶) المخاطب به خدا یار خان نے سنده کے قبیلہ نہمدیان کے سردار پہاڑ خان پر فتح حاصل کی تو میر عبدالجلیل بلگرامی نے، جو اس وقت بھکر (سنده) میں شہنشاہ اور نگ زب عالمگیر کی طرف سے وقایع نویس تھے، اس فتح کی تاریخ اس طرح نظم فرمائی:

بکار شاه چون خان خدا یارہ  
کمر بست از تھر همچو میلاد  
سپاہ خان دو اسپہ ، تاخت یکسر  
دل نہمدیان در ششدرا افتاد  
پہاڑ از خوف ، زد بر کوه ، خود را  
چو کاہی ، کو برد از حملہ باد  
میان عرصہ شد نیک شمهات  
ز سم اسب گردان ظفر زاد  
خرد تاریخ این فتح مبارک  
بدیهہ گفت "ہی فتح خدا داد" (۱۷)  
۱۱۱۷ھ

سید احمد بلگرامی بن سید بدھ بن سید عبدالفتاح بلگرامی، شاہزادہ محمد اعظم شاہ بن سلطان اور نگ زب عالمگیر کے قابل اعتماد ملازمین میں سے تھے اور شاہجهان پر، مالوہ اور بعض دوسرے مواضع کے منظم و منصرم تھے۔ ان کا انتقال ۲۵ جمادی الآخر ۱۱۱۵ھ (۲۳ اکتوبر ۱۴۰۵ء) کو ہوا۔ اور اسی سال ۱۳ شعبان ۱۱۱۷ھ (۲۳ نومبر ۱۴۰۵ء) کو سید مریٰ بن سید عبدالنبی بن سید طب بلگرامی نے بھی رحلت فرمائی۔ سید مریٰ مقدس ذات و صفات کے مالک تھے۔ آپ حافظ بھی تھے اور تقری و طہارت میں لاجواب تھے۔ علامہ عبدالجلیل بلگرامی نے ان ہر دو مرحومین کی تاریخ رحلت اس طرح نظم کی۔

بعضی خبر عالیت، میر سید احمد آن بحر سخا  
نمود که سری را مولوی سید مرئی دین پناہ  
امستالاً للامر کر هر دو زین گلخن سرای بی بقا  
عبدالجلیل بلکرامی جانب فردوس سر کردند راه  
گفت. (۲۱۱) اس نظم  
مردمک پوشید زین ماتم سیاه  
تا قیامت از دل پرسوز خلق  
بر مزار هر دو سوزد شمع آه  
خواستم از بهر شان تاریخ سال  
گفت هاتف "هر دو خلد آرام گاه" (۱۸)  
(۱۱۱۷)

محمد معزالدین جهاندار شاه نے (۱۹) اپنی شہزادگی کے زمانے  
میں ۱۱۲۰ھ (۱۷۰۸ء) میں امین الدین خاں حسین بن سید ابوالکارم  
شهود تخلص بن ابوالبqa امیر خاں کو فوجداری بھکر پر فائز کیا تو انہوں  
نے اسی سال سکھر میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی۔ علامہ جلیل  
بلکرامی نے جو اسوقت سندھ میں وقائع نوں تھے اور بھکر مستقر تھا،  
گیارہ اشعار کا ایک قطعہ تاریخ نظم کیا۔

خان ذیشان امین الدین (۲۲۱۴) خان  
ذکر فیضش بزبانها مذکور  
در رخش، نور نبی گشته عیار  
در کفش، جود علی کرده ظہور  
سبنه اش، مخزن اسرار ازل  
شع فانوس دلش، لمعه طور  
مسجدی کرده بنا، در سکھر  
پاک تر، از دل ارباب حضور

خانه دین خود، آباد نمود خاندان کلہوڑہ کی  
فرد قریب میان یار سعی او پیش خدا شد مشکور تی سندہ کیہ قبیله  
تھڈیان کی سردار سکھر از نسبت این مسجد شد عبدالجلیل بلگرامی  
نے، چو اس وقت بلده طیبہ رب غفور عالمگر کی طرف  
سے وقایع نرس جندا مسجد فرخنہ بنا فرمائی  
در و دیوار وی آئینہ النور  
از دم صبح برآمد به ! به !  
بر کج او، چو نظر کرد از دیر  
می سزد، گر پی جارویش، چرخ  
دست بندد و در جبه کند رقص سرور  
با هم آغوش مصلاش شده است  
سجدہ در جبه کند رقص سرور  
سال تاریخ چنین گفت خرد (۲۱۲۰)  
"مهبیط نور، چوبیت المعمور" (۲۰)  
امین الدین خان حسین کی وفات (۱۱۲۲) (۱۵۱۰)، امین نہیں  
ہونی.

(۱۱۲۲) میں رحیم دادخان زمیندار نواحی شکار پور و  
نوشہر نے قلعہ سیوی و دھادھر (ستھ) پر حملہ کر دیا اور اس پر قابض  
ہو گئی۔ بد علاقہ شاہان کلہوڑہ کا تھا چنانچہ میان یار محمد المخاطب یہ  
خدا یار خان نے اس کا دفاع کیا اور قلعہ واپس لیا۔ میر سید محمد  
بلگرامی فرزند ارجمند علامہ میر عبدالجلیل بلگرامی، اپنی تصنیف  
"تبصرۃ الناظرین" میں لکھتے ہیں:-  
"حشری انبوہ از زمینداران کوہ فراهم آورده قلعہ سیوی و دھادھر را  
متصرف شد. خدای ار خان (میان یار محمد کلہوڑہ) حارس آنجا چون ازین

معنی خبر یافت، داؤد خان پسر خود را با جمیعت شائسته روانه آن صوب  
نمود که سیوی را از افغان مذکور قهر<sup>۱</sup> و قرا انتزاع نماید. خان مذکور  
امثالاً لامر کمر خدمت بسته روان گردید. داؤد خان فتح یافت و میر  
عبدالجلیل بلگرامی که دران وقت وقایع نویس سیوستان بود، برین فتح نظم  
گفت. (۲۱)

اس نظم میں ۲۵ اشعار بیس لیکن یہاں صرف آنہ منتخب شعر  
هدیۃ قارئین کئے جاتے ہیں۔ آخری مصراع سے تاریخ برآمد ہوتی ہے۔  
رئیس تردد سکالان مقصده گرفت از دغا حسن سیوی دهادھر  
رجیم رجیم و لثیم سبک سر الوسات کوهی بخود جمع و گردد  
گرفت از دغا حسن سیوی دهادھر

خدا یار خان چون، برین مطلع شد  
بر آشقت مانند بیر غضنفر  
بفرمود داؤد فرزند خود را  
که این فتح گردد بدست میسر  
کر بست داؤد بر حکم والد  
روان شد بفوج دلیران دلاور  
بفضل الہی و اقبال شاهی  
دلیرانه داؤد آمد مظفر  
ز تاریخ فتح خدا داد نامی  
ز من کرد درخواست مرد سُخنور  
گذشت از سر جان رحیم وبگتم

۳

"ز داؤد شد فتح سیوی و دهادھر" (۲۲)

۱۱۲۲=۳-۱۲۵

بـ ۱۱۲۳ھ میں دو بزرگ اور صاحبانِ باطن نے اس خارِ زارِ عالم سے اپنا دامن چھڑا لیا اور ریاضِ خلد کی طرف روانہ ہو گئے۔ تفصیل یہ ہے:-

حافظ سید محمدی بن سید بدیع الدین بن تاج الدین (۱) بلگرامی قدس سرہ شاہ عالم بہادر شاہ بن شہنشاہ اور نگزیب عالمگیر کی خدمت میں بسر کرتے تھے۔ بادشاہ ان کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ سے گفتگو پر ریس تھی کہ آپ نے بادشاہ کے زانو پر پاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ ناظر نے ٹوکا اور کہا کہ "قواعد ادب ملحوظ رکھنا چاہیئے" سید صاحب عالی مشرب اور بلند حوصلہ تھے آپ میں قوت باطن بدرجہ کمال موجود تھی۔ آپ کی رحلت ۱۱۲۳ھ (۱۷۱۱ء) میں ہوئی۔

شیخ محمد حافظ بن قاضی فضیل بن قاضی محمد یوسف (۲) ثالث بلگرامی عہدہ قضاۃ پر فائز تھے اور نہایت عزت و احترام سے زندگی بسر کی۔ آپ خط نسخ و نستعلیق نہایت شیرین اور دیدہ زیب لکھتے تھے۔ آپکی تحریر کردہ متعدد کتابیں بلگرام کی کتب خانوں میں موجود تھیں۔ آپ تقویٰ و طہارت میں بھی بلند مرتبہ تھے۔ آپ کی وفات ۲۳ محرم ۱۱۲۳ھ (۱۷۱۱ء) کو قصبه موہان (نواح لکھنؤ) میں ہوئی۔ لاش بلگرام لاتی گئی اور محلہ حیدر آباد میں نزد قبور شہداء سپرد خاک کی گئی۔

علامہ جلیل بلگرامی نے ہر دو مرحومین کی تاریخ رحلت نظم کی۔

چون میر محمد و قاضی حافظ  
بردند بیک سال سوی جنت راہ  
گشتند به رضوان الہی واصل  
هاتف تاریخ گفت "رضوان اللہ" (۲۳)  
مس آغا چون ازین

۱۱۲۳ھ

۱۱۲۴ میں بہادر شاہ اول بن عالمگیر نے نظام الملک کو "خانِ دوران" کا خطاب عطا کیا تو علامہ بلگرامی نے "خانِ دوران بہادر" سے تاریخ نکالی۔

۱۱۲۵ (۱۵۱۰) میں نواب سیف اللہ خان خدمت بخشی چہارم (سنده) پر فائز ہوئے تو علامہ جلیل بلگرامی نے مندرجہ ذیل تاریخ کہی۔

بحر دل نواب سیف اللہ خان

آن کہ شد فیاض از روز ازل

عقل بھر خدمتش تاریخ گفت

"بخشی عالی جنابِی دل" (۲۴)

۱۱۲۷

نواب سیف اللہ خان کی وفات ۱۱۳۳ (۳۱ دسمبر ۱۵۳۰) میں ہوئی اور قبرستان مکلی (نہیں) میں دفن ہوئی۔

۱۱۲۸ (۱۵ دسمبر ۱۵۱۰) کو محمد فرج سیر بادشاہ هند بن عظیم الشان کی شادی راجہ اجیت سنگھ رانہور بن راجہ جسونت سنگھ کی دختر کی ساتھِ الحمام پائی۔ اس شادی کی واقعات علامہ بلگرامی نے ایک مشنوی میں نظم فرمائی ہیں۔ اس مشنوی میں علامہ نے مختلف علوم خصوصاً موسیقی کی اصطلاحات اور پردون کا مذکور نہایت تبعرانہ انداز میں کیا ہے۔ اس مشنوی کا نام "جوابر الفردوس" (۲۵) ہے۔ یہ مشنوی کافی طویل ہے۔ یہاں صرف مطلع اور آخری چار اشعار نقل کئے جاتے ہیں۔ آخری شعر کا مصرعہ ثانی تاریخ ہے۔

بھاری کرد گل، عالم چمن شد

شگفتن عام در هر المجن شد

نوید طوی شاه هفت کشور

جهان را نوبھاری ریخت در بر

شهنشاه سربر سرگردان  
 خدیبو عصر فرخ شاه غازی  
 بیا عبدالجلیل بلگرامی  
 سخن را بر دعا بهتر نامی  
 عروس سلطنت با رونق و جاه  
 بود دائم در آغوش شهنشاه  
 بود تاریخ طوی شادمانی  
 "بساط وصل شاهنشاه و رانی" (۲۶)

یہ مثنوی ملک کے سیاسی مخالف حالات کے سبب بادشاہ کو پیش نہ کی جا سکی اور ۱۹۱۳ء (۱۹۱۳ھ) میں بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ علامہ نے اس مثنوی کا تتمہ کہا جس کے چند اشعار یہ ہیں۔ آخری مصرع تاریخ ہے۔

چو من این مثنوی پایان رساندم  
سخن را رتبه کیوان رساندم  
سخن سنجان به تحسین لب گشودند  
تلاش لفظ و معنی را ستدند  
اگر این مثنوی در محفل شاه  
باید چون نسبم اندر چمن راه

بجلدوی چنین اشعار فاخر  
بسنجد شاه، ما را با جواهر  
درین امر آن قدر تاخیر گردید  
که شاهنشاه سری چنت خرامید

پنج تاریخ ابن مصرع پر آمد  
سات بزاری متصب "بہ بحرِ رحمت ایزد در آمد" (۲۷) میں اور  
نکن و وقار میں اپنے خانہ میں خان قطب اللہ بیان  
۱۱۲۱ھ

سید حسین المخلص بے خالص صفاہانی خلف الرشید میرزا باقر  
وزیر قورچی نے ہندوستان آئی کے بعد شہنشاہ عالمگیر کی ملازمت اختیار  
کی اور دیوانی صوبہ عظیم آباد پنہ (بھار) پر مامور ہوئی۔ بادشاہ  
نے خطاب "امتیاز خان" سے ممتاز و منتخر فرمایا۔ وہ ۱۱۲۲ھ (۱۰۱۵ء)  
میں کثیر دولت اور اقتدار کے ساتھ ایران جائی کے لئے روانہ ہونے اور  
بھکر (ستھ) پہونچکر علامہ میر عبدالجلیل بلکرامی سے ملاقات کی۔  
علامہ اس وقت بادشاہ دہلی کی طرف سے بھکر میں وقایع نویس تھے،  
انہوں نے خالص کو آگئے جائی سے منع کیا اور دہلی واپس جائی کی رائے  
دی لیکن خالص نے اس مشورہ پر عمل نہیں کیا اور سریکف جولان آگئے  
روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ سیستان تک پہونچئے تھے کہ کسی نا بنجار نے  
انہیں قتل کر دیا اور ان کی املاک پر قابض ہو گیا۔ علامہ بلکرامی نے  
اس سانحہ کی تاریخ "آه، آه، امتیاز خان" سے برآمد کی۔ (۲۸)

محمد فرج سیر بادشاہ کی وفات کے بعد امیرالامراء حسین علی  
خان کے مخالفین نے ۱۱۳۱ھ (۱۹۱۰ء) میں نیکو سیر بن محمد اکبر بن  
شہنشاہ اورنگ زیب کو آگرہ میں تخت نشین کر دیا اور قلعہ پر اپنی گرفت  
مضبوط کر لی۔ امیرالامراء جو اس وقت دہلی میں تھے، اس واقعہ کی  
خبر ملتے ہی ایک لشکر جرار کے ساتھ دہلی سے آگرہ پہونچئے اور قلعہ کا  
محاصرہ کر کے اُسے فتح کر لیا۔ میر عبدالجلیل بلکرامی نے اس شاندار  
کامیابی پر ایک قصیدہ غرا جو چورا سی اشعار پر محتوى ہے، نظم کر کے  
تہنیت کے طور پر پیش کیا۔ مطلع اور تاریخ کا شعر نقل کیا جاتا ہے۔

مزدہ ای دوستان کہ در عالم

نقد شد نسبہ بہار ارم (۷۲)

کرد عبدالجلیل در تاریخ

"قلعہ آگرہ گرفت" رقم (۲۹)

۱۱۳۱

میں دہلی کے تین بادشاہ یعنی فرخ سیر، رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ فوت ہونے تو علامہ بلگرامی نے تاریخ کہی۔

کردنہ سے بادشاہ بیک سال وفات

فرخ سیر و دگر رفیع الدرجات

بعدش چو شد از جہان رفیع الدولہ

تاریخ "فغان" نوشته شد زین حرکات (۳۰)

۱۱۳۱

سید حسن علی خان المخاطب بہ قطب الملک بہادر، سید عبدالله خان بار وفادار، ظفر جنگ (۳۱) محبود فرخ سیر بادشاہ ہند کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے بہت سے کام صدقات جاریہ کیے طور پر الجام دنیا، انہوں نے دہلی کے نواح پت پر زنگنج میں جہان کریلاتے معلی جیسا قحط آب تھا، ۱۱۴۵ء (۱۶۱۵ء) میں ایک نہر جاری کر کے اس خطہ کو حیات عطا کی۔ علامہ جلیل بلگرامی نے اس کی تاریخ کہی۔

بحر جود و فیض قطب الملک عبدالله خان

نہر خیری کرد جاری آن وزیر محتمم

بہر آن عبدالجلیل واسطی تاریخ گفت

"نہر قطب الملک مد بحر احسان و کرم" (۳۲)

۱۱۲۷

سید حسین علیخان المخاطب بہ امیر الامراء بہادر فیروز جنگ،

садات بارہ (مظفر نگر) کے گل سر سید تھے۔ وہ محمد فرخ سیر بادشاہ

کے عہد (۱۱۲۰ء تا ۱۱۲۹ء) میں سپہ سالار اعظم کی عہدہ جلیلہ اور سات ہزاری منصب پر فائز تھے۔ آب سخاوت و شجاعت، عالی ہمتی اور تکین و وقار میں اپنے بنتے بھائی سید حسن علی خان قطب الملک بہادر سے بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ (۱۱۲۰ء تا ۱۱۳۲ء) میں محمد شاہ بادشاہ نے انہیں دھوکے سے قتل کرادیا۔ میر عبدالجلیل بلکرامی کو امیر الامرا، سے ارتباط خاص اور تعلق خاطر کی وجہ سے کمال صدمہ ہوا۔ آپ نے اس سانحہ فاجعہ پر ایک نہایت پُرسوز اور درد ناک مرثیہ کہا جو چھبیس ۲۶ اشعار پر محتوى ہے۔ چند اشعار یہ ہیں۔ آخری شعر کی مصربعہ ثانی سے سنہ شہادت برآمد ہوتا ہے۔

آثارِ کریلاست عیان از جین هند  
زد جوش خونِ آل نبی از زمین هند  
شد ماتم حسین علی تازه در جهان  
садات گشته اند مصیبت نشین هند  
  
از دستِ این ملجم ثانی شهید شد  
گونی ز کوفه است گلِ مائین هند  
ای دوستانِ آل و محبانِ ابلیبیت  
غمگین شوید بهر حسین حزین هند  
سال شہادتش قلم واسطی نوشت  
”قتل حسین کرد بزید لعین هند“ (۳۲)

۱۱۳۲

(۱۱۲۲ء تا ۱۱۲۵ء) میں محمد شاہ بادشاہ دہلی نے نظام الملک میر قسر الدین علی خان (۳۳) (بانی سلطنت آصفیہ حیدر آباد دکن) بن میر شہاب الدین علی خان بن میر عابد علی خان سمرقندی کرو وزارت عظمی پر فائز کیا اور خطاب ”اصل جاہ“ سے مزید اختصاص بخشا۔ اس موقع پر علامہ میر عبدالجلیل بلکرامی نے ایک مُرصع قصیدہ کہہ کر پیش کیا۔ اس

قصیدے میں فارسی، عربی، ترکی اور هندی کے جملہ چوالیں ۲۳ اشعار  
ہیں اور تاریخ بھی کئی زبانوں میں نظم کی ہے۔ بہار صرف قصیدے کا  
مطلع اور دو فارسی تاریخیں نقل کی جاتی ہیں۔

دوسری تاریخ جو صوری و معنوی میں ہے، یہ ہے۔

"هزار ویکصد و سی و چهار نص نشاط"

۱۱۳۶

دو گونه جو پر تاریخ ازو شود پیدا (۳۶)

اعظم تھیں، اور وہ تسلیماً ملکہ نے لے لیا۔ ملکہ نے اس خاطر کو  
الہوں نے دھلو کر لے رکھا۔ \* \* \* \* \*

تعالیقات و مأخذ

(۱۱) سید صدرالدین علی الشہیر بہ علی معصوم شیرازی بن سید نظام الدین احمد (مصنف تاریخ قطب شاہی "حدیقة السلاطین") کا خاندان شیراز میں بیت علم و فضل گنا جاتا تھا۔ "مدرسہ منصوریہ" ان کے جد اعلیٰ میر غیاث الدین منصر (ولادت ۱۴۹۴ھ، وفات ۱۵۶۱ھ/۹۴۸ء) سے منسوب ہے اور بہت مشہور ہے۔ سید علی معصوم کی ولادت روز شنبہ ۱۵ جنادی الاول ۵۲ھ۔

- (۱) یکم اگست ۱۹۴۲ء کو مدینہ منورہ میں ہوتی اور ۱۷ مئی ۱۹۵۱ء میں شیراز میں رہ گئی۔ عالم بقا ہوتے۔
- (۲) مائِر الکرام ص ۲۴۷، آزاد بلگرامی مطبوعہ ۱۹۷۱ء لاہور طبع ثانی،
- (۳) "بلگرام" ہندوستان کی شہر لکھنؤ سے نوے کلومیٹر دور مغرب میں ضلع ہردوئی کا ایک مردم خیز قصبہ ہے اور علم و فضل کے اعتبار سے مشہور عالم ہے، اس قصبہ میں کثرت سے علماء، فضلا، صوفیہ اور محدثین پیدا ہوتے، ان میں صاحب "ناج العروس" اور "التحاف السادة المتقین فی شرح احیاء العلوم الدین الغزالی" علامہ سید مرتضی بلگرامی الزبیدی کا نام نامی سرفہرست ہے۔ ۱۹۸۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس قصبہ کی آبادی پچس ۲۵ بزار نقوش پر مشتمل ہے۔
- (۴) زید شہید بن امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ۶۶ھ (۰۶۸۵ء) اور شہادت ۱۲۲ھ (۰۷۴ء) میں ہوتی، آپ کی والدہ معظمه "غزالہ" عرف جبراً ولایت سندھ (پاکستان) کی رینی والی تھیں (المجدی) وہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی حوالہ عقد میں آئیں تو اس وقت امیر مختار ابن ابی عبید اللہ کوفہ پر حکمران تھی، یہ زمانہ عبدالملک بن مروان کی حکمرانت کا تھا۔
- (۵) "شجرہ طبیہ" (قلمی) ص ۴۱، آزاد بلگرامی اور مائِر الکرام ص ۱۲،
- (۶) مائِر الکرام ص ۲۵۹ آزاد بلگرامی۔
- (۷) سَحْبَانُ بْنُ زَفْرَ بْنِ أَيَّاسَ الْوَانِيَ قَبْيلَه وَاهْلَه سَيِّدٌ تَهَا ۵۴ھ (۰۶۷۴ء) میں وفات پائی۔
- (۸) انوری: شیخ اوحد الدین نام، انوری تخلص اور گرمان وطن تھا، ۵۸ھ (۱۱۸۴ء)
- (۹) مائِر الکرام ص ۲۵ علامہ آزاد بلگرامی میں بلخ میں وفات پائی۔
- (۱۰) مائِر الکرام ص ۲۵۱،
- (۱۱) "وقائع عالمگیر" ص ۵ مطبوعہ حیدر آباد دکن،
- (۱۲) "ملخص تسلیم" ص ۶۷، انوار حسین تسلیم سہوانی (مراد آباد) مطبوعہ ۱۸۹۶ء

- (۱۳) "صناید تاریخ گونی" مشموله دانش ص ۲۵۲ اسلام آباد.
- (۱۴) "صناید تاریخ گونی"، ۲۶۴، از ذاکر انصارالله مشموله "دانش" شماره ص ۷ اسلام آباد ۱۳۶۵ھ اور "ملحق تسلیم" ص ۳۴ مطبوعه ۱۸۹۶ء.
- (۱۵) وقائع عالمگیر ص ۱۵۴.
- (۱۶) یار محمد المخاطب خدایار خان عباس بن میان نصیر بن میان الیاس بن داؤد بن آدم شاه کاہجوہ۔ وفات ۱۱۳۱ھ (۱۷۱۹ء).
- (۱۷) تبصرة الناظرين (قاسم) ص ۴ بحواله تحفۃ الكرام ہے۔ ص، ص ۴۲ حاشیہ.
- (۱۸) مآثر الكرام ص ۹۵ مطبوعہ ۱۹۷۱، لاہور۔
- (۱۹) جپاندار شاہ لقب اور معزالدین نام ہے۔ بہادر شاہ اول محمد معظم کا لزکا تھا۔ رمضان المبارک ۷۲، ۱۶۶۳ھ (۸ اپریل ۱۸۸۰ء) کو پیدا ہوا ۱۱۲۴ھ (۱۷۱۲ء) کو تخت نشین ہوا اور جنوری ۱۲۱۳ء کو محمد فرج سیر بن عظیم الشان کیم ساتھ چنگ میں قتل کر دیا گیا۔
- (۲۰) تحفۃ الكرام ج ۲، ص ۳۴۹ حاشیہ از پیر حسام الدین راشدی مطبوعہ ۱۹۷۱ کراچی۔
- (۲۱) تبصرة الناظرين (قاسم) ص ۷۴ از سید محمد بلگرامی شاعر تخلص، پیدانش ۱۱۸۵ھ / ۱۶۸۸ء وفات ۱۱۸۵ھ / ۱۷۷۱ء۔
- (۲۲) تحفۃ الكرام ج ۲، حاشیہ ص ۴۲۔
- (۲۳) مآثر الكرام ص ۱۱۱ مطبوعہ ۱۹۷۱، لاہور۔
- (۲۴) تحفۃ الكرام ج ۳، ص ۳۷۳ حاشیہ۔
- (۲۵) "فارسی بلگرام" ص ۱۵، سید علی اصغر بلگرامی، مطبوعہ ۱۳۴۷ھ (۱۹۲۸ء) حیدر آباد دکن۔
- (۲۶) فارسی بلگرام ص ۱۶۔
- (۲۷) فارسی بلگرام ص ۱۷۔
- (۲۸) "سر آزاد" ص ۱۲۹، علامہ آزاد بلگرامی مطبوعہ لاہور ۱۹۱۳ء۔

(۲۹) سرو آزاد ص ۲۸۔

(۳۰) تحفۃ الکرام ص ۳۶۔ جلد سوم۔ ربع الدرجات کا نام ابوالبرکات تھا اور رفع الدویلہ کا نام شمس الدین اور شاہ جہان ثانی لقب تھا۔ یہ دونوں بھائی رفع الشان بن محمد معظم بہادر شاہ اول کے فرزند تھے۔

(۳۱) قطب الملک کا سلسلہ نسب سید ابوالفرح واسطی تک راجع ہوتا ہے۔ آپکی وفات بادشاہ محمد شاہ کی طرف سے زیر خورانی کی وجہ سے سلغ ذی الحجہ ۱۱۲۵ھ (۲۰ ستمبر ۱۷۶۳ء) کو واقع ہوئی۔ دبلي میں مقام شاہ مردان دفن ہوئے۔

(۳۲) سرو آزاد ص ۱۶۲، آزاد بلگرامی۔

(۳۳) سرو آزاد ص ۱۷۴۔

(۳۴) میر قمر الدین علی خان: آپ سعدالله خان چنیوٹی (پاکستان) وزیر اعظم شاہجهان بادشاہ کے نواسے تھے۔ آپ کے دادا میر عابد علی خان شاہجهان بادشاہ کے عہد میں سرقتند سے ہندوستان آئے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شاہزادہ اور نگ زب عالمگیر کی خدمت گزینی سے معزز کیا۔ ان کی وفات ۴ ربیع الاول ۹۸ھ (۱۶۹۸ء) کو ہوئی۔ میر قمر الدین علی خان کی ولادت ۱۴ ربیع الآخر ۸۲ھ (۱۶۷۱ء) کو ہوئی۔ "تبک بخت" تاریخ ہے۔ آپ ربیع شباب میں چهار بزاری منصب اور خطاب "چین قلبخان" سے سرفراز ہوئے۔ شاہ عالم بہادر شاہ اول نے انہیں ۱۱۲۴ھ (۱۷۱۲ء) میں "خان دوران" کا خطاب عطا کیا۔ علامہ میر عبدالجلیل بلگرامی نے "خان دوران بہادر" سے تاریخ نکالی۔ محمد فرج سر نے خطابات "نظام الملک بہادر" اور فتح جنگ سے نوازا اور بفت بزاری منصب سے اعزاز بخشا۔ محمد شاہ بادشاہ نے انہیں ۱۱۲۴ھ (۱۷۲۱ء) میں خطاب "آصف جاہ" اور وزارت عظمی سے بلند رتبہ عطا کیا۔ ان کا انتقال اتوار کے دن ۴ جمادی الآخر ۱۱۶۱ھ (۱۷۴۸ء) بوقت عصر شہر برهان پور کے قریب ہوا اور شاہ بُرهان الدین غریب قدس سرہ کی پائبی مزار دولت آباد میں آخری آرام گاہ ملی۔ آزاد بلگرامی نے "متوجہ بہشت" سے تاریخ رحلت برآمد کی۔ آپ بہت اچھے شاعر تھے اور ایک ضخیم دیوان آپ کی بادگار ہے۔



غلام حسن بلستانی سیفی دہوا شوہر از ملکشیں لفظیں بیه رہیں  
دولتی لا دواعیں چینیں خالیتیں اے (۱۷)۔ مبتداً المقدم بالضریل لذیں دہون چیزیں  
لذیں دہون چیزیں عین الاریه لذیں دہون چیزیں نہم (۱۸)۔ الاریه کمیریہ دہون چیزیں  
عراقیں، سرلانا روم اور عربیہ والیں چینیں خالیں لفظیں تولیخ چینیں  
تلیخیں تولیخیں کچھ دیکھیں تھے لفظیں بیه ترکیب اپنی ایک دیکھیں۔  
دیا ب اپنے اکٹلیہ کی خانہ پڑائیہ تیاریں تھیں اسکیلیہ رون ہر مدنگ کیہ یہ  
دھیں تکلیب لہوا لہوب لیڈا جو بیڑیاں دیکھیں تھیں دی ریشیں تھیں رون لند  
دھیں، دیکھیاں دیکھیں دیکھیں تھیں۔ دیکھیں تھیں دیکھیں تھیں دیکھیں  
**ملا محمد علی کشمیری کی کتاب**

### "تحفة الاحباب" کا قلمی نسخہ

راقم السطور کے ذاتی کتابخانی (۱۱) میں ملا محمد علی کشمیری  
کی کتاب "تحفة الاحباب" کا ایک مخطوطہ موجود ہے۔ شاید یہ نسخہ  
بر صغیر کی حد تک واحد نسخہ ہے جو محفوظ بھی ہے اور مکمل  
بھی (۲۱)۔

کتاب ۱۶/۱۳×۲۳ کی تقطیع کیے ۵۲۳ صفحات پر پھیلی ہوئی  
ہے۔ ہر صفحہ ۱۰ سطروں اور هر سطر اوسٹا ۱۵ الفاظ پر مشتمل ہے۔  
اس ضخیم کتاب کی کتابت کی تاریخ ترقیمه میں اس طرح دی گئی ہے:

فت هذه الكتاب المسمى بتحفة الاحباب بتاريخ  
ثلث و عشر (کذا) من شهر جمادی الثاني سنة الف و خمسين  
من هجرة پیغمبر عليه السلام (۲۱)

ترقیمه سمیت کتاب میں کسی جگہ کاتب کا نام نہیں آیا لیکن  
اس کا کاتب مصنف کا ہعنام مشہور کشمیری خطاط ملا محمد علی

کشمیری ہے جو خط نستعلیق کی بہت اچھی خوشتوس گذار ہیں جن کی لکھی ہونی کتاب خلاصہ المناقب (۲) اس کتابخانی کی متاع گران مایہ ہے جسے انہوں نے ۱۰۹۲ میں کتابت کیا ہے۔ ان دونوں ترقیموں کا انداز کتابت، خط اور تحریر بالکل یکساں ہیں۔

پوری کتاب نہایت خوشخط خط نستعلیق میں کتابت ہونی ہے حتیٰ کہ عربی عبارات بھی نستعلیق میں لکھی گئی ہیں۔ ابواب اور عنوانیں سرخ روشنائی سے کتابت کئے گئے ہیں۔ کتاب چار ابواب اور چھ فصلوں میں مکمل کی گئی ہے۔ جبرت کی بات یہ ہے کہ آخری دونوں ابواب تین تین فصلوں پر مشتمل ہیں جبکہ پہلے دو ابواب فصلوں میں تقسیم نہیں کئے گئے۔ کتاب کی مندرجات اس طرح ہیں:

|       |       |          |       |
|-------|-------|----------|-------|
| ابواب | صفحات | کل صفحات | کیفیت |
|-------|-------|----------|-------|

|       |   |      |                              |
|-------|---|------|------------------------------|
| مقدمہ | ۱ | تا ۹ | وجه تصنیف اور نام کتاب وغیرہ |
|-------|---|------|------------------------------|

|         |            |    |                        |
|---------|------------|----|------------------------|
| باب اول | ۱۳۳ تا ۱۴۰ | ۲۵ | عراقی کی پیدائش، سفارت |
|---------|------------|----|------------------------|

|         |            |     |   |
|---------|------------|-----|---|
| باب دوم | ۱۴۳ تا ۲۶۸ | ۱۳۳ | عراقی کی کشمیر آمد اور کشمیر میں سرگرمیاں وغیرہ |
|---------|------------|-----|---|

|         |            |    |   |
|---------|------------|----|---|
| باب سوم | ۲۶۹ تا ۳۲۵ | ۶۶ | عراقی کی ایران واپسی اور ایران میں قیام وغیرہ |
|---------|------------|----|---|

|           |            |     |   |
|-----------|------------|-----|---|
| باب چہارم | ۳۲۵ تا ۵۲۳ | ۱۹۹ | عراقی کی دوبارہ کشمیر آمد، وفات، سرگرمیاں اور بت شکنیاں |
|-----------|------------|-----|---|

کتاب ہے حد سلیس، روان اور زوردار ہے اور فارسی شیرین میں فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ فاضل مصنف نے تفصیل و وضاحت کی خاطر کافی اشعار کے علاوہ ایرانی بزرگوں کی ۳۹ کتابوں کے اقتباسات درج کیے ہیں۔ اس طرح اس کتاب میں نامور ایرانی مصنفوں اور شعرا کے

افکار و اقوال جمع ہیں جن میں شیخ شہاب الدین سہروردی، سعدی، اسیری لاهیجی، عطار نیشاپوری، میر سید محمد نوری خش، میر سید علی هدایتی، شیخ علاء الدولہ سمنانی، شیخ نجم الدین کبری، فخر الدین عراقی، مولانا روم اور عبدالرحمن جامی وغیرہ شامل ہیں، جس سے فاضل مصنف کے وسعت مطالعہ اور ذوق تحقیق کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

کتاب کر مصنف نے خود ہی "تحفة الاحباب" سے موسوم کیا ہے جس کی وجہ انہوں نے درج ذیل بتائی ہے۔

چون سبب تحریر این رسالہ و باعث تسطیر این مقالہ التماس احباب و الیاس اصحاب و انفاس ارباب بودہ بدان مناسبت این رسالہ موسوم گشت تتحفة الاحباب (۵)۔

کتاب کے مندرجات کے بارے میں مولف کا کہنا ہے کہ انہوں نے میر شمس الدین عراقی کے افکار و کرامات کے بارے میں مختلف لوگوں سے بہت سی باتیں سنی تھیں۔ لوگوں کی زبانی جو بھی سنئے اپنے والد ملا خلیل اللہ کو سنا کر اس کی ان سے تصدیق کراتیے پھر وہ خود دوسروں کو سناتے اس طرح مولف کو عراقی کے بارے میں مستند سمجھا جاتا تھا۔ لوگ عراقی کے بارے میں مختلف باتوں میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر انہوں نے ان باتوں کو کتابی صورت میں مدون کیا۔ (۶)

ملا محمد علی کشمیر کے حالات زندگی دستیاب نہیں لیکن انہوں نے زیر بحث کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے ان کا سال ولادت متعین ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ عراقی کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ ایک بار جبکہ میری عمر بارہ سال تھی میں والد کے ساتھ گیا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس واقعیے کے دو سال بعد عراقی عراق (ایران) تشریف لیے گئے۔ (۷)

تاریخ کشمیر اور "تحفۃ الاحباب" سے ثابت ہے کہ عراقی ۸۹۶ھ کو خراسان واپس گئے تھے فاضل مصنف کے بیان کے مطابق عراقی کی واپسی سے دو سال پیشتر ان کی عمر بارہ سال تھی۔ پس ۸۸۲=۱۲-۸۹۶ھ ان کا سال پیدائش ہے۔ ان کے والد خلبل اللہ کشمیر کے بہت بڑے عالم تھے۔ دینی اور علمی حلقوں میں انہیں زبردست رسوخ حاصل تھا اور وہ میر شمس الدین عراقی کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ محمد علی نے مروجہ علوم و فنون انہی سے سیکھے اور کم سنی میں راہ طریقت و سلوک میں قدم رکھا۔ ذکر خفی عراقی کے مرید صوفی جمال الدین سے سیکھا اور عراقی کے مرید ہو گئے۔ (۸)

ابنے والد کی طرح محمد علی بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ عربی اور فارسی کے زبردست انشاء پرداز تھے ان کا علمی و ادبی ذوق اور تصنیف و تالیف میں استعداد زیر بحث کتاب سے عبارت ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتہ ہے کہ انہوں نے طویل عمر پائی۔ ۹۹۰ھ میں وہ زندہ تھے۔ (۹)

لیکن افسوس فارسی زبان کے اس عظیم مصنف اور نادر روزگار انشا پرداز کی زندگی کی تفاصیل معلوم نہیں، حتیٰ کہ تاریخ وفات اور مقام تدفین بھی ہمارے علم سے باہر ہیں۔

مصنف مددوں بہت عمدہ فارسی نثرنگار تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت زیادہ تراکیب، استعارات، محاورات اور تلامیح استعمال کی ہیں۔ ان کی تحریر بے حد روان سلیس اور عام فہم ہے ایک غیر ایرانی دانشور کے قلم سے اس قدر شیرین فارسی میں کسی ضخم کتاب کا منصہ شہود پر آنا کشمیر کو ایران صغیر کہنے والوں کی بصیرت کو داد دینے پو مجبر کرتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے!

آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و اسپر  
نکاح داکٹر کل جسے اهل نظر کہتے ہیں ابران صغیر (۱۰)

زیر بحث کتاب ایک ایرانی الاصل شخصیت میر شمس الدین محمد عراقی کے حالات زندگی، تعلیمات اور کارناموں پر مشتمل تفصیلی سوانح عمری ہے۔ اس موضوع پر یہ واحد کتاب ہے جو عراقی کی وفات (۹۳۲ھ) سے تہریزی مدت بعد لکھی گئی لیکن افسوس کہ عراقی کی شخصیت ان کی وفات کے بعد متنازعہ بن گئی۔ اگر یہ کتاب شائع ہو جائے تو ساری غلط فہمیاں اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مثلاً عراقی کی بلستان جانے کے بارے میں مورخین میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بلستان میں مدت قیام کے بارے میں اختلاف ہے۔ مولوی حشمت اللہ نے پانچ چہ سال لکھا ہے (۱۱) ڈاکٹر صابر آفاقی نے پانچ سال (۱۲) پروفیسر محب الحسن اور سلیم خانگی نے ۲ ماہ (۱۳) حقیقت یہ ہے کہ عراقی ۹۱۱ ھجری کے اوائل میں بلستان پہنچے اور اسی سال کے موسی خزان میں بلستان سے واپس کشمیر چلے گئے تھے۔ اس طرح بلستان میں وہ چہ ماہ کے لگ بھگ رہے تھے۔ (۱۴) اس کی تائید "طبقات نوریہ" کے اندر ادارات سے بھی ہوتی ہے۔ (۱۵)

اسی طرح عراقی کے فقہی مذہب کے بارے میں اختلاف ہے۔ روشن علی ہندی، عبدالرشید انصاری، اور شیخ محمد اکرام انہیں شعبد قرار دیتے ہیں (۱۶) ڈاکٹر صابر آفاقی، سید محمود آزاد، سلیم خانگی اور ڈاکٹر محمد ریاض شیعہ اور نوریخشیہ دونوں کے مبلغ لکھتے ہیں (۱۷) جبکہ مرزا حیدر کاشغری، ابو الفضل، عبدالحمید خاور اور پروفیسر محب الحسن انہیں صرف نوریخشی مبلغ سمجھتے ہیں۔ (۱۸) "تحفة الاحباب" سے آخر الذکر گروہ کے نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں انہارہ مقامات پر عراقی نوریخشی مذہب پھیلانے کی تلقین کرتے ہیں۔ دو جگہ پوچھئیں والوں کو اپنا مذہب نوریخشی بتاتے ہیں۔ (۱۹) اور ایک جگہ

شیعہ اور سنی کیے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ (۲۰)

میر شمس الدین عراقی ۸۳۳ھ کو ایران کے مشہور علاقے گیلان کے قصبے رشت میں پیدا ہونے۔ والدین نے ان کا نام محمد رکھا مار باب دونوں کی جانب سے موسوی سید تھے۔ بچپن ہی میں انہیں فقر و سلوک سے لگاڑ پیدا ہو گیا چنانچہ سید محمد تور بخش کے مریدوں کی صحبت اختیار کی رہی جن میں سے شیخ محمد سمرقندی، شیخ محمود بحر آبادی، شیخ محمد سفلی، شمس الدین اسیری لاہیجی اور شاہ قاسم فضل بخش وغیرہ کی خدمت میں اپنی عمر کا اکثر حصہ یعنی ۲۳ سال گزارے۔ مورخ الذکر نے جو، نور بخش قہستانی کے بیٹے اور خلیفہ مجاز تھے انہیں شمس الدین کا لقب دیا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا کشمیر روانہ کر دیا۔ انہوں نے ۲۶ سال کشمیر میں گذارے۔ ایک بار بلستان کا تبلیغی دورہ کیا۔ کشمیر اور بلستان میں نور بخشی سلسلے کو رواج دیا۔ کشمیر کے حکمران زین العابدین کی آزاد سیکولر پالیسی کے نتیجے میں مرتد ہونے والے ہزاروں افراد کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کیا اور سینکڑوں بت خانے گرا کر انکی جگہ پر مسجدیں اور خانقاہیں بنوائیں۔ غرض ان کی مساعی جیلہ کے طفیل کشمیر اور مضافات کشمیر میں دین اسلام کو دوبارہ استحکام اور رونق نصیب ہونی۔ انہوں نے ۹۲۲ھ میں وفات پائی۔ زدی بل کیے مقام پر مدفون ہونے جہاں آپ کا مزار پُرانوار مرجع خلاتق ہے۔

عراقی بہت بڑے عالم دین اور شعلہ بیان مقرر تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ "تحفة الاحباب" میں ان کی کسی تصنیف کا ذکر نہیں البته ان کے بیٹے میر دانیال کی تصنیف "تعريف نامہ درویشان" کا نام آیا ہے (۲۱)۔ عراقی بہت بڑے انقلابی سوج رکھنے والے تھے۔ انہوں نے کشمیر میں انقلاب بریا کر دیا اور کشمیر کے دور دراز حصوں میں بھی آواز حق پہنچائی اور ارتداد کے فتنے کو ہمیشہ

کبیلی ختم کرا دیا۔

اس کتاب کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں سلسلہ طریقت نور بخشہ کے بارے میں بیش قدر مواد موجود ہیں، نور بخشی تحریک کے بارے میں اس قدر مواد ایران میں لکھی جانے والی کتابوں میں بھی موجود نہیں، مؤسس سلسلہ نور بخشیہ سید محمد نور بخش ان کی اولاد اور خلفاء و مریدین کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں، بلکہ کتاب کا باب اول عراقی کی تعلیم و تربیت کے ضمن بحث پر مشتمل ہے جس میں تحریک کے اثر و نفع، نور بخشیوں کی سرگرمیاں اور سید محمد نور بخش کی خطوط تفصیل سے درج ہیں اس طرح ایرانی الاصل صوفی سلسلہ نور بخشیہ پر لکھنے والوں کبیلی یہ حوالی کی کتاب اور معلوماتی دستاویز ہے۔

سلسلہ نور بخشیہ دوسرے سلاسل صوفیہ کی طرح ایک روحانی سلسلہ ہے، مثلاً قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ کاسا۔ اس کے مؤسس میر سید محمد نور بخش ایران کے مشہور علاقے قہستان کے رہنے والے تھے اس سلسلے کے اکثر بزرگوں کا تعلق ایران کے مختلف شہروں سے ہے، بھی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات ایرانی مفکرین اور صوفی خاندانوں کی آئینہ دار ہیں، ان بزرگوں میں سے اکثر صاحب تصنیف و تأثیف ہیں جن میں شیخ نجم الدین کبری، شیخ علاء الدین سمنانی، عبدالرحمن اسفرانی، میر سید علی همدانی اور میر سید محمد نور بخش تصانیف کثیر کے مالک ہیں۔

بہ کتاب نویں / دسویں هجری کے دوران ایران، افغانستان، وسطی ایشیا اور کشمیر کی معاشرتی مذہبی، اقتصادی اور تہذیبی تاریخ بھی ہے، اسلامی دنیا کے بارے میں مفہد معلومات دی گئی ہیں، کشمیر اور ایران کے علماء و فضلا، شاہان و امرا، مشائخ و فقراء، اور شعرا و مادبا، کے بارے میں بھی بیش قدر معلومات درج کی گئی ہیں، مسلمانوں کے

علاوہ ہندوؤں کی مذہبی اور سماجی حالات بھی درج ہیں۔ اس طرح اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

کشمیر میں اشاعت اسلام اگرچہ سید بلبل شاہ ترکستانی، امیر کبیر سید علی ہمدانی اور میر سید محمد ہمدانی کی ہاتھوں ہو چکی تھی، لیکن اشاعت اسلام میں مبلغین اسلام اور صوفیانی کرام کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں نے بھی بزہ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے کشمیر کے باشندوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ لیکن جب سلطان زین العابدین کشمیر کا حکمران بنا تو اس نے ہندوؤں و غیرہم کی ساتھ بے حد فراخدلی کا مظاہرہ کیا انہیں کتنی مراعات سے نوازا۔ کشمیر سے چلیے جائے والے ہندوؤں کو بلایا۔ سلطان سکندر بت شکن کی زمانی میں منہدم کیے جائے والے مندرجہوں کی از سرنو تعمیر و مرمت کی سلسلے میں گران قدر امداد دی۔ ہندو عالموں کو بزی بزی ملازمتیں دی گئیں سلطان کی حد سے زیادہ ہندو نوازی (۲۲) سے کشمیری ہندو اس قدر دلیر ہو گئے کہ وہ کھل کر شعائر اسلام کا مذاق ازاتیے اور اسلامی احکامات کی بجا آری میں روزے انکاتیے تھے۔ میر سید محمد ہمدانی کی ہاتھوں مسلمان ہونے والے ہزاروں تو مسلموں کو انہوں نے جبراً ہندو بنا لیا تھا۔ ہندو تہذیب و ثقافت کی احیاء و رواج کیلئے کوششیں ہونیے لگی تھیں اور کشمیر میں دین اسلام کا مستقبل مخدوش ہو گیا تھا۔ مؤلف کتاب نے قاضی محمد قدسی کی مثنوی نقل کی ہے جس کی کچھ اشعار نذر قارئین کیے جاتے ہیں۔

کفری کہ قدیم برد نو شد  
وز مهر منیر شرع ضوشد  
شد بار دگر برسم معتماد  
آشکده وکنشت بنیاد

۱۴- کشمیر میں گشتند طائف منافق (۱۱)

۱۵- ارادی پاکستان با کفر معاون و موافق

ہر جا فطنی و زبر کی بود

در شرک شریک مشرک کی بود

ور زانکه پدر شدی بمسجد

میکرد پسر بکافرے حد (۲۳)

میر شمس الدین عراقی کی کوشش اور وزیر اعظم ملک موسی رینہ  
کے تعاون نے کشمیر میں اسلام کی مستقبل کو محفوظ بنایا۔ ہندوؤں کی  
قوت کا خاتمہ کر دیا۔ (۲۳)

سطور بالا میں ملا محمد علی کشمیری کی کتاب "تحفة الاحباب"  
کی اہمیت افادیت اور اس کی تاریخی حیثیت واضح کرنے کی کوشش کی  
گئی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ اب تک زبور طبع سے آراستہ نہیں  
ہوتی۔ بدقصعتی سے اس کے قلمی نسخے بھی کمیاب ہیں کشمیر  
یونیورسٹی سری نگر کشمیر میں شعبہ فارسی کے استاد جناب غلام رسول  
جانی کے مراسلے بنام مقالہ نگار کی مطابق کشمیر میں صرف ایک نسخہ  
موجود ہے (۲۵) جس کا صرف آخری باب محفوظ ہے پہلے تینوں ابواب  
سرے سے موجود نہیں ہیں۔ برصغیر اور ایران کے کسی کتابخانے میں اس  
کی موجودگی کا ہمیں علم نہیں ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ فارسی زبان اور تاریخ کشمیر سے  
قلبی لگاؤ رکھنے والے ارباب علم و فضل اور صاحب ثروت حضرات اس  
نادر علمی اور تاریخی دستاویز کو شانع کرنے کا سامان کریں۔

## کتابیات و مأخذ

- کشمیر میں اسلام اکر جو سید بلال شاہ ترکستان، امیر  
 ۱- آئین اکبری، ابوالفضل، لیند  
 ۲- آب کوثر، شیخ محمد اکرام، طبع یا زدهم، لاہور، ۱۹۸۵ء  
 ۳- اقبال اور کشمیر، ڈاکٹر صابر آفاقی، لاہور، ۱۹۷۷ء  
 ۴- ایران صغیر و ایران کبیر، محمد عبداللہ قریشی، اہور ۱۹۸۱ء  
 ۵- تاریخ فرشتہ (اردو)، قاسم فرشتہ، لاہور، ۱۹۸۰ء  
 ۶- تاریخ کشمیر، سید محمود آزاد، پاگ آزاد کشمیر، ۱۹۷۰ء  
 ۷- تاریخ کشمیر مسلم عہد میں، صابر آفاقی، لاہور، ۱۹۸۳ء  
 ۸- تاریخ جموں، مولوی حشمت اللہ، لاہور ۱۹۶۲ء  
 ۹- تحفۃ الاحباب قلمی، محمد علی کشمیری، مملوکہ مقالہ نگار  
 ۱۰- تنور نادر سراج، روشن علی ہندی، تہران، ۱۹۸۶ء  
 (ایہ کتاب میر سید محمد نوری خش کی تالیف "تحفۃ الاحبوت" کی اردو زبان  
 میں شرح ہے پہلی جلد کتاب الطہارت پر اور دوسرا جلد کتاب الصلوہ پر  
 مشتمل ہے۔ سید عباس کریمی بلستانی نے ایران سے شائع کی۔ لیکن ان  
 کی اچانک موت سے باقی حصہ نامکمل رہ گیا۔  
 ۱۱- جلوہ کشمیر، صابر آفاقی، لاہور ۱۹۸۰ء  
 ۱۲- خلاصہ المناقب، جعفر بدخشی تلمی مملوکہ، مقالہ نگار  
 ۱۳- شباب کشمیر، محمد الدین فوق، میر پور آزاد کشمیر ۱۹۸۸ء  
 ۱۴- طبقات نوریہ، محمد بن محمد صوفی، لاہور، ۱۹۶۹ء  
 ۱۵- قراقم ہند و کش، منظوم علی، اسلام آباد، ۱۹۸۲ء  
 ۱۶- کشمیر سلاطین کی عہد میں، محب الحسن، اعظم گزہ بھارت، ۱۹۶۵ء

- ۱۷- کشیر میں اشاعت اسلام، سلیم خان گئی، لاہور، ۱۹۸۸ء  
۱۸- وادی بلستان کے مذہبی حالات، عبدالرشید انصاری، کراچی، ۱۹۵۶ء

\* \* \* \*

## حوالہ و تعلیقات

۱- موسم بہ برات لاتبریری برق چمن، خپلو بلستان، شمالی علاقہ جات پاکستان.

۲- بر صغیر پاک و ہند کی مخطوطات کی جامع فہرست آقای احمد متزوی کی فہرست مشترک ہے، جس کی سات جلدیوں میں ایک ایک کتاب کیے متعدد قلمی نسخوں کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن زیر بحث کتاب کا ذکر نہیں

۳- تحفة الاحباب ص ۵۲۳ ملوكہ مقالہ نگار کسی نے الف کے اوپر «واتھی، اور من کے اوپر ۱۲۵۰ درج کیا ہے اس طرح کتابت کی تاریخ ۱۳ جمادی الثاني ۱۲۵۰ھ بنا دی ہے بدست اندازی موقع محل، سیاسی، تحریر، سطر اور قلم سے پاسانی معلوم ہو جاتی ہے۔ اصل تاریخ ۱۳ جمادی الثاني ۱۰۵۰ھ ہے جو متن سے ثابت ہے۔

۴- یہ کتاب نور الدین جعفر بدخشی نے اپنے مراد میر سید علی همدانی کی سوانح حیات اور تعلیمات پر سپرد قلم کی ہے۔ یہ انہوں نے شاہ همدان کی وفات ۱۸۶ھ کے ایک سال بعد ۲۸۸ھ میں مکمل کی۔ دیکھئی «خلاصہ الناقب» قلمی، ص ۳ ملوكہ مقالہ نگار۔

۵- تحفة الاحباب ص ۲ محولہ بالا

۶- ایضاً ص ۲

۷- ایضاً ص ۲۶۳

۸- ایضاً ص ۲۶۵

۹- ایضاً ص ۲۶۵

- ۱۰- اقبال اور کشمیر ص ۲۰
- ۱۱- تاریخ جمن ص ۵۹۱
- ۱۲- جلوہ کشمیر ص ۱۰۰
- ۱۳- بالترتیب کشمیر سلاطین کی عہد میں ص ۱۳۳ اور کشمیر میں اشاعت اسلام ص ۱۵۰
- ۱۴- تاریخ جمن ص ۱۹۸۶
- ۱۵- تحفۃ الاحباب ص ۲۲۷
- ۱۶- طبقات نورید ص ۹۳
- ۱۷- بالترتیب تویر سراج ص ۱۰ وادی بلستان کی مذیبی حالات ص ۵ اور آب کوئر ص ۲۰۲
- ۱۸- بالترتیب تاریخ کشمیر مسلم عہد ص ۱۳۲، تاریخ کشمیر ص ۳۲۰
- ۱۹- کشمیر میں اشاعت اسلام ص ۱۵۰، ایران صغیر و کبیر ص ۲۳۰
- ۲۰- تاریخ فرشتہ ص ۹۳۳، آئین اکبری ج ۲ ص ۳۸۹، قراقرم ہند و کش ص ۲۰۳، ۲۱۵
- ۲۱- تاریخ کشمیر سلاطین کی عہد میں ص ۳۳۹
- ۲۲- تحفۃ الاحباب ص ۱۶۳، ۱۶۴
- ۲۳- ایضاً ص ۳۲۹
- ۲۴- ایضاً ص ۳۶۳
- ۲۵- سلطان زین العابدین کی غیر مسلم نوازی کیلئے دیکھئے شاہ کشمیر باب پشم.
- ۲۶- تحفۃ الاحباب ص ۳۱۰
- ۲۷- کاظمیہ حبیب لہ نہیں۔
- ۲۸- تحفۃ الاحباب باب چہارم فصل سوم از ۳۳۶ تا ۵۱۸ میں مساجد کی تعمیر کا ذکر موجود ہے۔
- ۲۹- مورخہ ۱۱-۵-۱۹۸۹ء شمارہ ندارد۔

\* \* \* \*

از عبدالرزاق

شیلی کالج اعظم گزہ

## مظہر اور دیوانِ مظہر

۱۹۶۲ء میں علی گزہ مسلم یونیورسٹی میں فارسی کے اساتذہ پروفیسر نذیر احمد اور ڈاکٹر محمد شمعون اسرائیلی صاحبان نے مجھے دیوانِ مظہر گزہ پر کام کرنے کیلئے کہا لہذا اس سلسلے میں میں نے مظہر اور کلامِ مظہر سے متعلق مختلف کتابوں اور مخطوطات و مقالات جیسے لئن فارسی ادب (ضمیمه ۲۲)، لئن فارسی ادب (ضمیمه ۲۲)، مخطوطہ باذلین (مخطوطہ بتخانہ مرتبہ صوفی مازندرانی وغیرہ)، مخطوطہ دیوانِ مظہر ملوكہ پروفیسر سید مسعود حسن رضوی، اداۃ الفضلاء مؤلفہ قاضی بدر محمد دہلوی مؤرخہ ۸۱۲-۸۲۲ھجری، احوالُ الشعرا، (بتخانہ)، اخبارُ الاخبار اور تذکرہ مصنفینِ دہلی (تالیفات شیخ عبدالحق دہلوی)، الحجمن آرای ناصری، عرفات العاشقین (نقی اوحدی)، بیاض فارسی (برش میوزیم)، فرهنگِ جهانگیری، فرهنگِ رسیدی، فتوحاتِ نیروز شاہی (از سلطان نیروز شاہ)، انشاءِ ماهرو (باقلم ملک عین الملک)، خیرالمجالس (تصحیح و ترتیب از پروفیسر خلیق احمد نظامی)، لغت نامہ دہندا، مجمعُ الفصحاء (تصنیف رضا قلی خان ہدایت)، مجمع النفائس، مخزنُ الغرائب، منتخبُ التواریخ، نزہتُ الخواطر، نذرِ رحمن، ریاض

الشعراء، شرح مخزن الاسرار، سیرت فیروز شاهی (مخظوظه)، صبح گلشن، تاریخ فیروز شاهی مؤلفه ضیا الدین برنسی، تاریخ فیروز شاهی مؤلفه شمس سراج عفیف، تاریخ محمدی بقلم محمد بهامد خانی، تاریخ فرشته، تاریخ مبارک شاهی، تاریخ عصر حافظ، بدیپضا، مطہر کڑہ (مقالہ از پروفیسر وجید مرزا لکھنؤ)، قصائد مطہر (از مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی)، مطہر آف کڑہ (محمد شمعون اسرائیلی صاحب کا انگریزی میں مضمون)، کچھ مطہر کے بارے میں (مقالہ از پروفیسر سید حسن پشنڈ)، اور Some Religious and Cultural Trends of Tughluq Period

### An Indian Medieval Madrasah (دونوں خلائق نظامی صاحب)

کے قلم سے، ظہور الاسرار نامی اور مطہر کڑہ (مولانا امتیاز علی عرشی)، "کچھ مطہر کے سلسلہ میں" (شبیر احمد خان غوری اللہ آبادی، History of India by Elliot & Dowson کیا اور مختلف مخطوطات کا مقابلہ و موازنہ کیا۔ پیش نظر مقالہ اسی کا نجوزہ ہے: ۲۵)۔

**مطہر فیروز شاہ تغلق کے دور کی ایک اہم ادبی شخصیت ہے:**  
مگر بد قسمتی سے معاصر تاریخوں اور تذکروں میں اس کا کماحتہ ذکر نہیں ہے۔ البتہ برنسی میوزیم والی تذکرہ کی مرتب نے جو ہمارے شاعر کی ہمعصر ہے اسکے دو طویل قصیدوں کو اپنے انتخاب میں شامل کیا ہے۔ ایک اور معاصر شارح "مخزن اسرار" و جامع "بعر الفضائل" محمد بن قوام نے ہمارے شاعر کو "افضل العصر" کا خطاب دیا ہے۔ ان باتوں سے اپنے دور میں انکی شہرت و مقبولیت کا ثبوت ملتا ہے۔

**نام و تخلص**

کسی بھی تذکرہ نویس نے مطہر کے نام کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی دیوان سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ پشنڈ کے پروفیسر سید حسن صاحب

نے دربارِ شاہ شجاع (۳۳-۸۶ھ) کے ایک شاعر سید عزالدین مظہر بن عبداللہ بن علی الحسنی ایرانی اور مظہر کڑہ کو ایک ہی شخص ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ محترم پروفیسر نے یہ نتیجہ اس الیم سے اخذ کیا ہے جو تاج الدین احمد وزیر نے اپنے دور کے شعرا کی خود نوشت نظموں سے تیار کرائی تھی۔ بیاضِ مذکور میں عزالدین مظہر کی ہاتھ کے لکھیے ہونے ۱۵ ربیع الثانی ۸۲ھ جری کے کچھ قصائد ہیں۔ حسن صاحب کی دلیل بد ہے کہ ایک ہی تخلص کے در شاعر ایک ہی دور میں نہیں ہو سکتے۔ نیز انہوں نے ایک مرصع اور کچھ مشترک فقرے پیش کئے ہیں جو ان کی رائے میں توارد نہیں کہا جا سکتا۔ میرے خیال میں دونوں دلیلیں ضعیف ہیں۔ ایک ہی وقت میں دو کیا بہت سے شاعر ایک ہی تخلص کے ہو سکتے ہیں۔ نظامی عروضی کا شعر "در جهان سہ نظامیم ای شہ کہ جهانی ز ما با غافانند" (۱۱)

ہی اسکی کافی دلیل ہے۔ اسکے علاوہ ہمارے پاس موصوف کی دلیل کے خلاف ایک تاریخی شہادت بھی ہے۔ سید صاحب کی دلیلوں سے صاف ظاہر ہے کہ مظہر نہ صرف ۸۴ھ میں ایران میں تھا بلکہ اس تاریخ سے پہلے اور بعد بھی۔ مگر ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ دربارِ فیروز شاہ تغلق کا مظہر ۵۵ھ سے پہلے سے لیکر غالباً ۸۹ھ تک ہندوستان میں تھا۔ لہذا اسی اسکے ایسے ایرانی ہمنام سے بالکل ملا دینا عملًا ناممکن ہے جو ان تاریخوں کے دوران ایران میں ہو گا۔ یہ تجویز کرنا بالکل نامناسب ہے کہ جو شخص ۷۷۰ھ میں اور اسکے بعد بھی، اسی طرح ۸۹ھ میں اور اسکے پہلے بھی یقیناً ہندوستان میں تھا ۸۲ھ سے پہلے اور اسکے بعد بھی ایران میں تھا۔ اسلئے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم دونوں کو الگ الگ سمجھئیں اور ایرانی مظہر کا نام اور نسب ہندوستانی مظہر کو نہ دیں۔

تخلص وغیرہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ دو اہم تذکرہ نویسروں یعنی تقی اوحدی اور رضا قلی خان ہدایت نے ہمارے زیرِ بحث شاعر کو دو الگ الگ شخصیتیں یعنی "ایرانی مهاجر مظہرِ گجراتی" اور "مظہرِ ہندی" سمجھا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دونوں ایک ہیں کیونکہ دونوں سے منسوب اشعار ہمارے شاعر کے دیوان میں موجود ہیں لہذا مستعلہ حل ہو گیا۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ تقی اور ہدایت دونوں نے غلطی سے اسے دو الگ الگ شخصیتیں سمجھا ہے اور اس کا تخلص مظہر کے بجائے مظہر لکھا ہے۔ دونوں حضرات شاعر کا مجموعہ کلام دستیاب نہ ہونے کیوجہ سے اپنی غلطی دور نہ کر سکی۔ "عرفات" کے مصنف نے بذاتِ خود دیوانِ مظہر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے مگر میں دو وجہوں سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا:- اولاً یہ کہ دونوں شاعروں سے متعلق اشعار اسی دیوان میں دیکھئے جاسکتے تھے، ثانیاً یہ کہ لفظ "مظہر" (-) کا وزن "مُظہر" (۱--) سے مختلف ہونے کیوجہ سے آسانی سے غلطی کی اصلاح ہو سکتی تھی اگر اس نے مظہر کے بجائے اصل تخلص مظہر اور شعر پر غور کیا ہوتا۔

### مظہر اور شویح مخزن:

مشہور فاضل مولانا امتیاز علی عرشی کا مضمون "ظهور الاسرار نامی اور مظہرِ کڑہ" "معارف" اعظم گزہ کیے جولانی۔ اگست ۱۹۳۱ء کے شماروں میں چھپا تھا اسی موصوف نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ "شرح مخزنُ الاسرار" جو ۹۵۶ء میں لکھی گئی تھی اور غلطی سے ظہور الحسن کے نام سے چھپ گئی ہے حقیقت میں مظہرِ کڑہ نے لکھی تھی۔ اُن کی یہ دلیل کہ "شرح" طباعت کیوقت غلط نام سے منسوب ہو گئی تو صعب ہے مگر انکا یہ خیال کہ شارح مظہر کے علاوہ کوئی اور نہ تھا شہادت کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا۔ "شرح" عموماً محمد بن قوام بن رستم بدر خزانة البخاری الکرنی سے منسوب کی گئی ہے۔ شارح اور

مطہر کو ایک ثابت کرنے کیلئے مولانا عرشی نے مندرجہ ذیل باتیں کہیں:- (۱) شاعر اور شارح دونوں ایک ہی دور کیے ہیں (۲) دونوں ایک ہی جگہ کیے باشندے تھے (۳) شرح کے مخطوطات میں سے کم از کم ایک یا دو میں لکھنے والے کا نام مطہر بن قوام ہے (۴) شرح میں انہی شعرا کا حوالہ دیا گیا ہے جنکا ذکر دیوانِ مطہر میں ہے۔ (۵) شارح "نصاب العقلاء" کا مصنف ہے جبکہ "نصابُ الاخوان" نامی اُسی درجہ کی کتاب مطہر سے بھی منسوب ہے۔ ظاہر ہے ان میں سے کوئی دلیل بھی قطعی نہیں ہے۔ تیسرا بات میں کچھ وزن ہے مگر عرشی صاحب نے اسے باقاعدہ ثابت نہیں کیا ہے۔ مصنف کا نام یہ شک در مخطوطوں میں مطہر بن قوام ملتا ہے مگر کم از کم درجن مخطوطات میں محمد بن قوام موجود ہے اور مؤخر الذکر قسم میں شرح کے بعض بهترین نسخے شامل ہیں۔ مزید برآں، اسی مصنف نے "بحرالفضائل" نام کی ایک اہم فارسی لفت بھی لکھی ہے جسکے قام دستیاب نسخوں میں صاحبِ تصنیف کا نام محمد بن قوام بن رستم بدر خزینۃ البخلی الکرمنی ظاہر ہے جس سے مصنف کے نام کے بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہ جاتا۔ بالفاظِ دیگر شارحِ مخزن اور لفت نویس ایک ہی شخص ہیں اور وہ محمد بن قوام بن رستم ہیں۔ نیز مندرجہ ذیل نکات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ شارح اور شاعر مطہر ایک شخص نہیں تھے اور ہو بھی نہیں سکتے:

(۱) شارح نے اپنی "شرح مخزن" میں ان الفاظ سے مطہر کو یاد کیا ہے: "أفضل العصر مولانا مطہر فرماید"۔ یہ جملہ دو الگ شخصیات کا تعین کر دیتا ہے۔

(۲) شرح ۹۵ عدد میں لکھی گئی اور فرنگ بیالیس سال بعد لگ بھگ ۸۲۶ھ میں (۲) تصنیف ہونی۔ اس سے ثابت ہے کہ پہلی کتاب مصنف کے ابتدائی آثار میں سے ہے۔ مطہر کے بارے میں ہماری معلومات اسکے بالکل برعکس ہیں۔ ہمارا شاعر دورِ فیروز شاہی کے

آغاز کے آس پاس اپنی شہرت کیے عروج پر تھا اور فیروز شاہ ۵۲ھ میں تخت نشین ہوا۔ علاوہ ازین عین الملک کی مدح میں اسکے قصاید، اور ۵۲ھ میں شیخ نصیر الدین محمود کی وفات پر اسکا مشہور مرثیہ فیروز شاہ کے ابتدائی دور حکومت میں مظہر کے شاعرانہ مقام کی واضح تصدیق کرتے ہیں۔ مظہر جیسا کہ بعد میں آئے گا، ۱۶ھ کے آس پاس پیدا ہوا۔ وہ ۸۳۰ھ میں لکھی ہوئی کتاب کا مصنف نہیں ہو سکتا۔ لهذا شارح مخزن الاسرار اور ہمارا شاعر الگ الگ ہیں۔

(۳) اب اصل دیوان سے کچھ ایسے اشعار درج کئے جا رہے ہیں جن سے ثابت ہے کہ شاعر کا تخلص مُظہر تھا نہ کہ مَظہر:-

مُظہر در ثنا خوانی چو در انشانست در پایت  
کنونت از سرِ اخلاص دست اندر دعا کرده (۴)  
مسکین مظفر (مظہر) ست چو در مدح آستانت  
او را ز لطف مرهم جانِ خراب ده (۵)  
مُظہر آنکہ دریاں سکانشِ خای رہ گردد  
بلند اختر سری باید تو آن دولت کجا داری (۶)  
مُظہر بندہ کمتر کہ میراث پدر دارد  
درین درگہ دعا گوئی درین حضرت ثنا خوانی (۷)

**مولد اور تاریخ پیدائش:**

شاعر کی جائے پیدائش کا پتہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ایرانی بتاتے ہیں اور کچھ مؤرخ ہندوستانی لکھتے ہیں۔ (۸) اسکے دیوان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ سے ہندوستان آیا۔ عین الملک کی مدح میں وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے اعزہ سے منقطع ہو کر بہت دور سے آپکے دیدار کیلئے آیا تھا۔ مثال کے طور پر چند اشعار حسب ذیل ہیں:-

بختِ هیسمونت بلندست کہ آورد مرا  
در جنابِ تو جدا کرد، ز چندان دور  
من ازآن قوتِ اخلاص که از چندین دور  
بستم احرام درت با همه خیل و احفاد (۹)  
ولی میاد که افتاد چو من کسی تنها  
در این چنین نفسی از دیار و از احباب (۱۰)

اسی طرح مدرسہ فیروز شاہی کے مشہور استاد مولانا جلال الدین رومی سے دہلی میں مستفید ہونے کے لئے اُسیے دور سے آئے میں صحراء اور پہاڑ سے گذرنا پڑا۔ اس طرح کی دوری سے مراد دہلی سے دور ہندوستان ہی میں کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایرانی رہا ہو جو ہندوستان میں آکر مقیم ہو گیا ہو۔ ہندوستان میں اسکی رہائش کے بارے میں بھی دیوان سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسکے لئے پھر ہمیں خارجی شواہد پر سہارا لبنا پڑتا ہے جو اس سلسلے میں بھی مختلف ہیں۔ کچھ اُسی کڑہ کا باشندہ قرار دیتے ہیں اور کچھ حضرات اُسے گجراتی لکھتے ہیں۔ چونکہ گجرات میں بھی ایک جگہ کا نام "کری" ہے لہذا کم از کم پروفیسر شیرانی (۱۱) کی رائے میں یقینی طور پر نہیں تو امکانی طور پر تو مطہر کی جانبی رہائش "کری" ہو ہی سکتی ہے۔ مگر اندونی اور بیرونی شواہد کی بنا پر ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مطہر کڑہ میں مشرقی علاقے میں رہتا تھا۔ اسکے مددوہین میں ملک الشرق خطاب رکھنے والی متعدد اشخاص پائیے جاتے ہیں جیسے ملک الشرق ملک عین الملک، ملک الشرق ملک حسام الدین، ملک الشرق ملک علاوہ الدین اور ملک الشرق ملک نظام الملک وغیرہ۔ ان باتوں سے اس کا زیادہ تعلق مشرق ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

### خاندانی حالات:

اسکے آباؤ اجداد کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ البتہ دیوان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاندان بہت بڑا تھا چنانچہ خود کہتا ہے۔

ترًا خویش و فرزند و خیل و تبار

فزون از هزارند گر بشمری

اسکا خاندان خوشحال تھا اور خاندان کے بعض افراد اونچے عہدوں پر فائز تھے۔

مثلاً:

من هم نشین شاہم و هم هم نژاد خان

من همدم امیرم و هم همسر وزیر

اسکے والد تغلقوں کے شاہی دربار سے متعلق معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اس شعر سے پتہ چلتا ہے۔

مطهر بنده کمتر کہ میراث پدردارد

درین درگہ دعا گونی درین حضرت ثناخوانی

اس شعر سے بھی اس کا ہندوستانی ہونا ثابت ہوتا ہے، اسے دریار شاہی سے تعلق:

اسکے ابتدائی قصائد میں سے وہ قصیدہ ہے جو ملک عین الملک کی تعریف میں ہے اور اس طرح شروع ہوتا ہے:-

چون برآورد شہنشاہ فلک رایت نور

شد طراز علمش طلعت شعری عبور

یہ نظم اس وقت لکھی گئی جب عین الملک مشرقی علاقے میں گورنر تھا جیسا کہ یہ شعر شاهد ہے:-

لیک چون مدت حرمانت هنوزم باقی  
بود والا ملک الشرق سوی غازی پور

اس سے پتہ چلتا ہے کہ عین الملک محمد بن تغلق شاہ کے دور میں اس علاقے کا گورنر مقرر ہوا۔ نیز یہ کہ مطہر کی شاعری کی شہرت محمد بن تغلق کے دور میں ہی ہو گئی تھی مگر اسکے دربار سے واپسی کا ثبوت نہیں ملتا۔

تختِ دہلی پر فیروز شاہ کے متسکن ہونے کے بعد مطہر نے اپنا تعارف کراتی ہونے اسکے مدح میں قصائد لکھنے شروع کئے اور شاعر کی حیثیت سے دربار سے واپسی کی آرزو ظاہر کی۔ کچھ ابتدائی اشعار اس طرح ہیں:-

عہدی چنین مبارک و ملکی چنین لطیف  
شاہی چنین کریم و ملوکان چنین مشاب  
بر خیز این قصیدہ هم امروز کن تمام  
فردا برو بحضور سلطان کامیاب  
فیروز شہ کہ روزِ وغا ہر غلام او  
صد چون سکندرست و دو صد چون فراسیاب

کئی قصائد میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آخر عین الملک کی سفارش پر شاہی دربار سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

فیروز شاہ اور اسکے خواص کے علاوہ شاعر نے علماء و فضلا اور مشائخ صوفیہ کی شان میں بھی قصائد لکھی ہیں۔

### مطہر کے آخری ایام:

مطہر کے آخری دنوں کے بارے میں داخلی شواہد کے علاوہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، ملک حسام الدین کی مدح میں ہمیں ۲۰۰ هجری کا ذکر ملتا ہے۔

ترا به هفصد و هفتاد هجر مدت عمر  
 چو عمر نوح نبی باد نهصد و پنجاه  
 آگی چلکر سلطان ناصرالدین محمد شاه کی مدح میں ایک قصیدے  
 میں ۸۹ھ میں مطہر نے اپنی عمر ۳۲ سال بثانی ہی جہاں ان الفاظ  
 میں اپنا حال بیان کرتا ہے:-  
 من ہم چو دیدم اینکہ چو هفتاد و سه گذشت  
 عمر و فلک بر اینست کہ پشتم دوتا کند  
 ابنا و اقرا و تبار و تبع ہنوز  
 میخواہدم پرنج و تعب مبتلا کند  
 در خواستم ز شاه چو دیہی کہ شہ مرا  
 داد این عطا بمرحمت اولاد را کند  
 و این خستہ با فراغ نشیند بگوشہ ای  
 حمد خدای گوید و شہ را دعا کند

### شخصیت اور کارنامے:

اہل تاریخ و تذکرہ شاعر کی شخصیت اور کارناموں کے بارے میں  
 مندرجہ ذیل اطلاعات فراہم کرتے ہیں:

اخبار الاخبار: "مولانا مطہر کڑہ کا ان ہمعصر علماء میں شمار  
 ہے جنہوں نے شیخ نصیر الدین محمود سے بیعت کی۔ وہ علم و فضل اور  
 فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھا۔ شیخ کی اسپر خصوصی توجہ  
 تھی۔ شیخ کی مدح میں اس کا قصیدہ بھی ہے۔"

تذکرہ مصنفین دہلی: "مولانا مطہر سلطان فیروز کا شاعر بلکہ  
 اس سے بھی بڑہ کر تھا۔ اسکے اشعار فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں  
 ہیں۔"

منتخب التواریخ بدایونی: "(فیروز شاہ کی) ہمعصر شعر اور

دریاروں میں سے ادوسرा مولانا مظہر کڑہ ہے جسکی اولاد اس وقت شهر لکھنوتی میں آباد ہے۔ وہ باپ دادا کے زمانے سے شرفہ میں ہیں چونکہ اسکی ملاتی شاعری پر غالب ہے لہذا اسکے اشعار کی زیادہ قدر و قیمت نہیں۔ اسکے باوجود اگر کاوش سے کام لیا جائے تو اسکے کلام میں اچھی اور نادر چیزیں مل جائیں گی۔

احوال الشعرا (بتخانہ) «مظہر انتہائی خوش بیان اور شیرین طرز ہے۔ تاریخوں اور تذکروں میں مجھے اس کا نام نہیں ملا۔ مولانا محمد صوفی مازندرانی "مرتب" بتخانہ کو اس کا کلام خستہ حالت میں دھلی کی پرانی تحریر میں لکھا ملا۔ بغور مطالعہ کے بعد اسکی نقاد طبیعت کو پسند آیا۔ اسکے اشعار آسان اور بے تکلف ہیں۔ اس کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ علوم و فنون میں ماهر تھا اور اسکے باپ دادا اعلیٰ سرکاری عہدوں پر تھے۔»

عرفات العاشقین: "مولانا مظہر اپنے زمانے کے فضلا اور پختہ کلام شعرا میں سے ہے... اسکی طبیعت موزود ہے اور اشعار سلیس اور ہموار ہیں، میں نے اسکے تقریباً آئندہ ہزار شعر دیکھے۔"

مجمع النفاس: "مولانا مظہر گجراتی۔ اپنے زمانے کا فاضل اور پختہ کلام شاعر ہے ۰۰۰۰ بہر حال اسکی طبیعت میں روانی تھی۔"

مخزن الغرائب: " قادر الکلام شاعر ہے۔"

صبع گلشن: "اسکے علم و فضل کا جواہر آزمودہ اور نظم و نثر کی نقد کھری اور خالص ہے۔ وہ شیخ نصیر الدین محمد چراغ دھلی قدس سرہ کا مرید اور سلطان فیروز شاہ کا مقرب بارگاہ تھا۔ ناظم تبریزی نے اسکو شیرین زیان اور غمکین بیان شاعر لکھا ہے۔"

نزہۃ الخواطر: "قاضی مظہر الدین کڑہ - شیخ مظہر الدین حنفی کڑوی فاضل، صوفی مشہور علماء و فضلا اور جید شاعر، میں سے تھا۔

اسکے اشعار بہترین اور روان ہیں، فیروز شاہ کا ندیم اور مقرب تھا۔"

**مجمع الفصحا:** "مظہر ہندی قاضی آگڑہ اور باخبر شخص ہے۔"

**تاریخ محمدی:** "ختم الشعرا مولانا مظہر جو بلاغت و سلاست میں بے نظر تھا اس پیر با سعادت (شیخ نصیر الدین محمد) سے مریدی کا رشتہ رکھتا تھا اور اسکی (شیخ با صفا کی) مدح میں ابک بلیغ اور روشن قصیدہ لکھا اور بیعت کیے وقت اس پیر با سعادت کے سامنے پڑھا اور گوناگون عنایتوں سے مخصوص ہوا۔ قصیدہ مذکور انتہائی لمبا ہے مختصر کر کیے اس تاریخ میں لا یا گبا ہے تاکہ قارئین کو نفع ہو۔" «ختم الشعرا مولانا مظہر نے اس مردِ خدا شیخ باصفا کیے مرثیہ کے بارے میں ایک طویل اور روشن قصیدہ لکھا ہے۔ مختصر کر کیے اس تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔"

"ختم الشعرا مولانا مظہر نے اس بندہ پرور بادشاہ (فیروز شاہ) کی مدح میں ایک بلیغ و طویل قصیدہ کھا ہے اور ابتدائی جلوس سے دارالحکومت دہلی پہنچنے تک شاہی جہنڈوں کی پوری کیفیت و شرح اسمیں درج کی ہے۔ اسمیں سے چند ایات مختصر کر کیے...."

"ختم الشعرا مولانا مظہر سب سے زیادہ قرب اور اختصاص رکھتا تھا اور تشریفات و انعامات سے مخصوص و ممتاز ہوتا تھا چنانچہ مولانا مذکور کا اکثر دیوان اس بادشاہ کی تعریفوں سے پُر ہے اور اس پسندیدہ نشانیوں والی بادشاہ کی کیفیت جسکی پوری تفصیل ہے مولانا مذکور کے چند اشعار میں، جو اس زبردست حکومت کے لیے دعا کیے طور پر ہیں، مختصرًا بیان کی گئی ہے۔"

مولانا مظہر کی اعلیٰ شخصیت اور علمیت سے متعلق محمد بن قوام بلخی الکرنی جیسے دانشمند کی چشم دید شہادت موجود ہے جس نے اپنی مشہور تصانیف "شرح مخزن الاسرار" اور "بحر الفضائل" (فارسی

کی فرهنگ) ۱۹۵ء اور ۸۲۶ھ کے دوران تیار کیں۔ اس نے مولانا مطہر کے مندرجہ ذیل شعر کا حوالہ اپنی فرهنگ میں اس طرح دیا ہے «افضل العصر مولانا مطہر فرماید:

بَدْ كَلْقَا لِحَّىٰ بَكُو دَكَانْ مَانَدْ  
دَرْسَخَاوَتْ بَكُو دَكَانْ مَانَدْ  
بَدْهَدْ زَوَدْ وَ زَوَدْ بَسْتَانَدْ

”فرهنگ جهانگیری“ اور ”الجمن آرائی ناصری“ میں بعض الفاظ کی تشریح کیلئے مطہر کے اشعار کو دلیل بنایا گیا ہے جو فارسی زبان پر شاعر کی استادی کا ثبوت ہے۔

جدید مقالہ نگار (جنکے نام اس مقالہ کے شروع میں درج ہیں) بھی شاعر کے قابل تحسین اوصاف کے قائل ہیں اور انہوں نے موصوف کے کمالات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

مطہر نے عربی اشعار بھی لکھی ہیں جو دیوان میں دیکھئے جاسکتے ہیں مگر غیر عربی دان کاتبون کی غلطی سے پوری طبع خواندنی نہیں ہیں۔ یہ اسکی عربی زبان پر قدرت کا ثبوت ہیں۔ عربی، فارسی کے اسکے کلام سے بھی مختلف علوم و فنون میں اسکی مہارت ظاہر ہے۔ اسی طرح جابجا عربی و فارسی کے مشہور شعرا و ادباء اور حکیموں و فلسفیوں اور مستند و معرکہ الآراء کتب کا ذکر اسکی قابلیت و لیاقت کی دلیلیں ہیں۔

**دیوانِ مطہر کی تاریخی و ثقافتی اہمیت**

جیسا کہ خارجی و داخلی شواہد سے ثابت ہوا ہے مطہر کزہ (الله آباد) کا رہنیے والا تھا۔ تغلقوں خصوصاً فیروز شاہ تغلق (۵۲۱-۶۹۰ھ) سے اس کا خاص تعلق تھا۔ اسکے دیوان کا ابھی تک مکمل نسخہ نہیں مل سکا۔ مگر ناقص مخطوطات کے علاوہ معاصر اور بعد کی تصنیف سے اسکے تقریباً چھہ ہزار اشعار جمع کئے گئے ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اسکے

اشعار بیس هزار تک لکھئے ہیں۔ شاعر کیے ہو صدر اور «شرح مخزن اسرار» (۱۲) و «بحر الفضائل» (۱۳) کی مصنف محمد بن قوام نے اُسے «فضل العصر» کا خطاب دیا ہے۔ «تاریخ محمدی» (۱۴) میں محمد بہامد خانی نے ہمارے شاعر کو «ختم الشعرا مولانا مطہر» کے لقب سے جا بجا یاد کیا ہے۔ قرانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسکی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ۱۶۰۶ھ اور ۹۶۷ھ ہیں۔ آیندہ صفحات میں «دیوانِ مطہر» کی علمی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور حسبِ موقع اشعار پیش کئے گئے ہیں۔ مطہر کو ایک طرف تو فیروز شاہ تغلق کا مقرب اور درباری شاعر ہونے کا شرف حاصل تھا اور دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء (رح) اکیم جلیل القدر خلیفہ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی خصوصی توجہ اور نسبتِ بیعت حاصل تھی۔ دیوان میں زیادہ تر قصائد اور بند شامل ہیں۔ جن میں فیروز شاہ تغلق، ناصر الدین محمد شاہ تغلق ان کی امراء و خواص جیسے ملک الشرق ملک عین الملک ماہرو، ملک الشرق ملک حسام الدین، ملک شمس الدین سلیمان بن مروان شاہ، ملکزادہ حاجی سیف الدین، ملکزادہ اختیار الدین، ملک الشرق ملک علاء الدین، ملک الشرق ملک نظام الملک، ملک سعد بن سلیمان، ملک علی، شمس الحق ایرانشاه، خواجہ حاجی، خواجہ ضیاء الدین، خواجہ محمود، میر یوسف اور ادباء و شعرا و علماء و مشائخ جیسے استاد جمال الدین استاجنی (۱۵)، مولانا جلال الدین رومی (پرنسپل فیروز شاہی کالج)، خواجہ نصیر الدین محمود، اُنکے بھانجی شیخ زین الدین اور صدر الشیوخ خواجہ شمس الدین وغیرہ کی مدح کی گئی ہے۔

بد قسمتی سے دیوان کا ایک حصہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ مگر جتنا موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطہر محض شاعر ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے گرد و پیش کیے حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر تھا لہذا اسکے کلام سے اس دور کی سیاسی و سماجی حالات کا مطالعہ اور ثقافتی و تاریخی

نقٹہ نظر سے اسکے دیوان کا جائزہ مستحسن اور مفید معلومات کا ذریعہ ہے۔

دیوان میں ایسے متعدد تاریخی واقعات ملتے ہیں جنکی تائید معاصر یا بعد کی تواریخ سے بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً:-

۱. ابتدا میں عین الملک دہلی دریار میں ممتاز عہدہ پر فائز تھا مگر بعد میں وزیراعظم خانجہان اور اسکے درمیان کشیدگی کی بنا پر اسے معطل کر دیا گیا۔ تعطل کی مختصر مدت میں عین الملک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ بہرحال عین الملک کو بحالی کیے بعد خانجہان کی ماتحتی سے ہنا کر ملتان کا گورنر بنا دیا گیا (۱۶)۔ اپنے مددوں کی بحالی پر شاعر کی خوشی فطری چیز تھی لہذا اس کا اظہار اشعار میں اس طرح کیا ہے۔

حمد حق را کہ رسید آنچہ مرادِ دلِ ماست

و آنچہ از حضرتِ حقِ جانِ محبانِ می خواست

خاک در چشمِ بدان کرده بکامِ دلِ دوست

آنتابِ علمشِ عرصہِ عالمِ آراست

باز در مسندِ شاہیِ بسعادتِ بنشت

باز آوازِ طربِ غلغله در عالمِ خاست

الحق آن مقدمِ میمون چہ مبارکِ عیدست

وین سحرگاہِ منور کہ ہمایون چو ہماست

روزِ شادی و خوشی وقتِ ساعت و طریست

نویتِ نوش و نشاطست و گہ نشوونگاست

ملکِ الشرقِ فلکِ قدرِ ملکِ عینِ الملک

کافتابِ کرم و سابھِ الطافِ خداست (۱۷)

۲. سلطان فیروز شاہ تغلق تاریخ میں عظیم معمار کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس نے بہت سی عمارتیں بنوائیں، نہریں کھدوائیں، بہت سے

شہر بسانی، دیوان کیے بہت سے اشعار سے تعبیرات اور شہروں کی آبادی کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ذیل کے اشعار ملاحظہ ہوں:-

فیروز شہ کہ خاطر فرخنہ رائی او  
بیاند خانی ساخت و شریعت دثار کرد  
چندان ریاض و مدرسہ و خانقاہ ساخت  
چندان سرائے و مسجد و حوض و حصار کرد  
کر آب سند تا در دھلی ہمہ دیار  
از باغ و کشت جنت و دارالقرار کرد  
شهری دگر چو خلد برین برکنار جون  
آباد ہم بنام شہ نامدار کرد (۱۸)

اشعار مذکورہ میں شریعت کو اپنا قانون بنانے اور جابجا مدرسے، خانقاہیں، مسجدیں، سرانی، مسافر خانی، حوض، قلعے بنانے کا ذکر ہے۔ نیز یہ کہ دریائے سندھ سے دھلی تک باغات اور کھیتوں کا بیان ہے۔ آخری بیت میں دریائی جمنا کے کنارے شہر فیروز آباد کی بسانی کا ذکر ہے۔ اور مندرجہ ذیل شہر اسلام آباد کی آبادی کی طرف اشارہ کرتے ہیں:-

جَبْنَا باغِ ارم بقعهِ اسلام آباد  
کہ بر اسلام بنا کردن او میمون باد  
خاصہ بر ذاتِ خداوند ملک عینِ الملک  
کہ بیماراست جہان را از دو نفس دانش و داد (۱۹)

دوسرے شعر میں اسلام آباد سے عینِ الملک کی نسبت ثابت ہے۔

فیروز آباد  
جَبْنَا شہرِ گزینِ حضرتِ فیروز آباد  
کہ در و جوی خلودست بناها بغداد  
هر طرف طرفِ عمارتِ ارم ذاتِ عِمَاد  
هر سوی نزہتِ صحراء و غاشای سواد

لشکر آسوده، رعیت خوش و بازاری شاد  
اینک آن شهر گر انصاف سخن خواهی داد  
کو بگو در همه آفاق کسی دارد یاد  
اینچنین جنتی آراسته بر آب روان (۲۰)  
اینچنین شهر نکو در همه آفاق کجاست  
و اینچنین قصر ز شاهان جهانگیر کراست  
کاب او آب حیات است و هوا جان افزایست  
آن نم چشم خضرawan دم عیسی بدعاست (۲۱)

فیروزآباد کی تأسیس کے بارے میں تاریخ فیروزشاهی میں شمس سراج عفیف کی معاصر شہادت اس طرح ہے: «دھلی کے قرب و جوار میں... دریاں جمنا کے کنارے موضع کاربن کی زمین منتخب کی گئی اور شهر فیروزآباد کی بنیاد لکھنوتی کبلنے دوبارہ روانہ ہونے سے پہلے پڑی» (۲۲)

### قصر شہنشاہی

قصری درو چو ماہ برآورده و چون نجوم  
برگرد خانہای ملوک کبار کرد (۲۳)  
یارب این قصر چه قصریست کہ دل بر بودست  
و این چه جایست کزو راحتِ جان افزودست  
قصر گر اینست عمارتِ جهان بیهودست  
وانکه کردست جز این یاد هوا پیمودست  
چرخ بر منظر او نقطه نیل اندوست  
تابگردش نرسد چشم رخی از دوران (۲۴)

ان اشعار میں شاہی محل کو عالم میں بے نظیر اور چاند کی طرح بتایا جس کے ارد گرد امرا عزراہ کے گھر ستاروں کی طرح ہیں۔ آیندہ

شعر و میں محل کے گنبد کی خوبصورتی، نقش و نگار، آسمان کبطرح  
اسکی بلندی، درودیوار اور جنت کبطرح باغ و بہار کا نقشہ کہبینچا ہے:-

### قبه قصر

قبه قصر همایون شد شیر شکار  
کہ بطینت چو بہشتست بزینت چو بہار  
آسمانی زنجوم ست پراز نقش و نگار  
بوستانی زریاحین است پراز مشک تمار  
قصر همدان وارم صحن وی وصفہ بار  
طاقِ کسریش در و سدِ سکندر دیوار  
لاجوردش زسپهرست و سپیده ز اشجار  
آبِ زر ریخته بر چشمہ خورشید روان (۲۵)

### مسجد جامع

یحیی بن احمد کی تاریخ مباکشاہی میں فیروز شاہی جامع  
مسجد اور مدرسہ کا ذکر اس طرح آتا ہے:- «أُسی سال (اعتنی ۵۳)  
ھجری) کوشک کیے پاس جامع مسجد اور حوضِ خاص پر مدرسہ تعمیر کیا»  
• مطہر نے اس بلند، بیینظیر، بہترین سنگ مرمر سے بنی ہونی اور طاقوں  
سے بھری ہونی جامع کا بون نقشہ کہبینچا ہے:-

مسجد جامع او بسته ز جوزاست نطاق  
طاق در طاق یکی عالم و در عالم طاق  
بر سماکین سر و بر سمل الارضش ساق  
خود چنان جای ندیدست کسی در آفاق  
نه در اطرافِ خراسان نه در اقصای عراق  
نه در اقلیم خطاط و نه حدودِ خفچاق

همه از سنگِ رخام سنت روشنها و رواق  
همه از مرمرِ صافی سنت ستون بر اطلاق  
طاقهایش همه عالی و طبقهای براق  
منبرش نادر و محراب عجیب الالوان (۲۶)

**رصد کاہ**  
شمس سراج عفیف نے رصد کاہ کا ذکر یوں کیا ہے:- «ان نادرات میں سے ایک طاس گھڑیالہ تھا۔ جب سلطان فیروز شاہ نہنہ کی مہم سے واپس دہلی شہر میں آیا..... طاس گھڑیالہ کو قائم کرنے کیلئے غور و خوض کی نشست رکھی۔ اُسی میں حضرت شاہ فیروز اور دربار کے نجومیوں کو کئی دن ہو گئی۔ اور اس طاس گھڑیالہ کو شہر فیروزآباد کے شاہی دربار پر لگا دیا تھا۔ (۲۷) مظہر نے مندرجہ ذیل شعروں میں بتایا ہے کہ تاریک راتوں اور ابر کی دنوں میں نماز و روزہ کے اوقات جانتے کیے لئے پبلک کی سہولت کے پیشِ نظر ایک بہت بڑی گھڑی شاہی عمارت کی بلندی پر نصب کی گئی۔ اشعار ملاحظہ ہوں:-

طاسی برای معرفت وقت و ساعتش  
ترتیب بر بلندی ایوان بکار کرد  
روشن بروز ابر و به شبہای تار کرد (۲۸)

### منارہ زرین

آسمان سای ستونیست ز یک پارہ سنگ  
گاؤز دُم رفتہ ز بنیاد پہن بالا تنگ  
پا بقعر ثری سر بسر هفت اورنگ  
زیر و بالاش هم از زرطلى آتش رنگ  
می غاید چو یکی کوہ زر از صد فرسنگ  
همچو خورشید که در صبح برون تازد خنگ

نپرد مرغ در اوجش نه عقاب و نه کلنگ  
نرسد تیر به نیمش نه خطائی نه خدنگ (۲۹)

عفیف کے بیان سے اسکی اس طرح تائید ہوتی ہے:- «جب سلطان فیروز شاہ.... نہئے کی مہم سے دہلی شہر میں آیا... مصلحتِ خداوندی سے دہلی کے اطراف میں دو سنگین منارے تھے ایک تو پہاڑ کے دامن میں (شقِ سالورہ و خضرآباد کے) گاؤں توپڑہ کی حد میں تھا اور دوسرا منارہ قصبه میرنہ کے قرب و جوار میں.... ایک کو فیروزآباد کے محل کے اندر جمعہ مسجد کے قریب نصب کر دیا اور منارہ زرین نام رکھا اور دوسرے کو بڑی محنت اور حکمتون سے شکار کے محل میں لگا دیا۔» (۳۰)

### مدرسہ شاہی

حوضِ خاص کے جنوبی کنارے پر (جہاں تغلق جنگ جیت کر بر سرِ اقتدار آیا) فیروز شاہ نے ۱۴۵۲ء میں ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کیا جو راجدهانی (دہلی) کی انتہائی محیبِ العقول اور رعب دار عمارتوں میں سے تھا۔ بقول برنسی «اسکے کروفر، تعمیری تناسب اور خوشگوار فضا نے اسے اس قدر نادرہ روزگار بنا دیا تھا کہ اگر سنمار کے خورنق اور کسری کے محل پر برتری کا دعویٰ کرتا تو حق بجانب تھا۔ اسکی تعلیمی شهرت اسقدر عام ہونی کہ اطرافِ ملک سے لوگوں کا اڈہام ہو گیا۔ مظہر اپنے دوست کے جذبات کی اس طرح ترجمانی کرتا ہے:-

گفت الحق چو چنین است چه دولت به از آن  
که روم با تو بهم زانکه من از سرو جهار  
صفتِ حضرتِ دہلی و تماشا گهِ شهر  
رونقِ قصرِ همایون و عماراتِ حصار  
سالہاشد ز کسان میشنرم اندر گوش  
آرزوهاست که از چشم ببینم یکبار (۳۱)

محل کے گنبد اور مدرسے کے بارے میں یوں نقشہ کشی کرتا  
ہے: راستی چونکہ بدیدم ہمہ آن ساحتِ صحن  
وان سر گنبد و آن چشمہ روشن بکثار  
قبہ تصر چوماہی و کواکب برگرد  
صوفیان و خدم و سائز خلق دوار  
گفت اینست مگر روضہ رضوان کہ درو  
روح و ریحان پہشت است و دم دار قرار  
گفت اینست هنوز اول بیت المعمور  
باش تا جنتِ فردوس بیسی و انہار  
اندر آی ز در مدرسہ شاہِ جهان  
آسمانی نگری تازہ جہانی ز انوار  
بیسی آنجا کہ درین عمر ندیدست کسی  
آنچنان جای نہ در گوش شنیدہ اخبار  
نه چنان جای به همدان نہ خورنق نہ سدیر  
نه چنان نقش به روم و نہ بچین نہ بلغار (۳۲)

«فیروزشاہی حکومت اسکی خبر گیری اور قیام کیلئے دل کھول کر  
خرج کرتی تھی۔ پرانی دھلی کے بہت سے باشندوں نے اپنے پرانے گھر  
چھڑ کر مدرسے کے پاس نئے گھر بنا لئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں حوضِ  
خاص کے کناروں پر مدرسہ کا قصبہ وجود میں آگیا جو بعد میں چودھویں  
صدی میں علمی سرگرمی اور چہل پہل کا مرکز بن گیا۔

فیروز شاہی مدرسہ ایک دو منزلہ عمارت تھی جسکے محرابی  
dalan اور کھڑکیاں حوض کی جانب ابھری ہوئی تھیں۔ اس کا سامنے کا  
حصہ ہندی ستونوں اور اسلامی محرابوں کا حسین امتزاج پیش کرتا تھا۔  
ہر داخل ہونے والا دروازہ میں قدم رکھتے ہی اپنے آپکو پریهار باغ میں

پاتا تھا جہاں ہر طرف روشنیں اور راستے کھلے ہوئے خوشنا پھلوں سے مزین ہوں اور پھلوں کے لئے ہوئے درختوں پر خوش آواز پرندے چھپھا رہے ہوں، اس مدرسے میں تھوڑی دیر نہیں، آنکھوں کیلئے طراوت اور دماغ کیلئے ضیافت کا سامان تھا۔» (۲۲)

مطہر نے دارالسلطنت (دہلی) اور مدرسہ وغیرہ کی اس طرح منظر کشی کی ہے:-

شہر آراستہ دیدیم چو فردوسِ برین محل کے اندر  
کوئی درتہ او موجزنان دریا سار درست کو  
مرغ و ماع و بیٹ و سرخاب دران صحنِ کبود  
فوج در فوج روان گشته چو صفحہ ای سوار  
باد بر آب زرہ ساختہ و بلبلہ خود  
ماہیان تیغ زن و باخہ شدہ اسپردار  
راست چون لشکرِ ترکان میان لبِ رود  
ساحل آب گرفته سپہ بُو تیمار  
اول از در که درون افت دران فرخ جای  
عرصہ ای دید چو صحرائی بھشتی هموار  
صحنِ او روح فزا ساحتِ او جان پرور  
خاکِ او مشک فشان نکھت او عنبر بار  
سبزہ و سنبل و ریحان و گل و لالہ درو  
رستہ و آراستہ چندانک کند چشم تو کار  
نار و نارنج و ترنج و بہ و سبب و انگور  
در رسانیدہ درو مبہہ امسال بپار  
بللان نغمہ سراینده ز هرسوی گونی  
چنگ دارند بچنگ اندو نی در منقار  
اس باغ میں دل گیارہ فٹ اونچا ایک چبوترہ تھا جسکی لمبائی

اور چوڑائی چالیس ہاتھ تھی اور چھت گنبد دار تھی۔ مطہر نے اپنے تاثرات کو اس طرح منظوم کیا ہے:-

و اندران باغ یکی فرش ببالائی دو مرد طول و پہناش ز ہرسوی چھل رش بشمار قبہ ای برسرش افراشتہ تا طارم ماہ کہ چو خورشید درو خبرہ ہمی شد دیدار ہام و برجش بزر آراستہ چون روی عروس درو دیوار جلا دادہ بطلق آئینہ وار قصرِ مانیش رف و باغی ارم ساحتِ صحن طاقی کسریش در و سدِ سکندر دیوار سطح او را ز رخ روشن جوزا شنگرف سقف او را ز پر سبزِ ملاتک زنگار چونہ و سنگِ جدارش ہمه قلعی و رخام تختہ و چوبیدرش صندل چین عود قمار

اس وسیع اور مرتب و منظم باغ کے بیچوں بیچ مدرسہ کی کشادہ عمارت واقع تھی جسکی دیواروں پر ابرق اور طلق کی چکنی اور چمکدار پالش تھی اور ملمع کاری کیروج سے انسانی جسم کا عکس پڑتا تھا گنبدوں اور اونچی ہموار جگہوں پر فیاضی کیساتھ سنہرا روغن کیا گیا تھا۔ جب اس بلند اور عظیم عمارت کا عکس حوضِ خاص کے پانی کی پرسکون اور شفاف سطح پر پڑتا تھا تو تماشائیوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ درس کے بہت سارے ہالوں کے علاوہ چار دیواری کے اندر ہی معلمین و متعلمين کے لئے قبامگاہیں تھیں، آئندہ و مژذنبین کیلئے کمرے تھے، مہمان خانے تھے، کشادہ مسجد تھی، آئندہ و مژذنبین کیلئے حجرے تھے، دینی اعمال عبادات و مراقبہ میں منہمک رہنے والوں کیلئے حجرے تھے۔ مدرسے کے ہر کونے میں شیراز، یمن و دمشق کے آرام دہ قالین بچھے

ہوتے تھے، مظہر لکھتا ہے:-  
 وز بساطِ یعن و مفرشِ شیراز و دمشق  
 ہمه آراستہ بیرون و درونش چو نگار  
 جب مظہر کے دوست نے حبرت سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا  
 تو اس نے ایک ایک چیز سے اُسے اس طرح واپس کیا:-  
 چون نظر کرد در این گنبدِ گردون فرسای  
 رنگ برگشت ز رویش چو پری دیده صفار  
 گفت این جای چه جایست بدین زینت و زیب  
 باز این باغ چه باغیست ز انواعِ ثمار  
 گفتم این مدرسه و باغ شہنشاہِ جهان است  
 اندر ہون آئی کہ یک حسن بیبینی به هزار  
 چون درآمد ز درش دید دران جنت خلد  
 قاصدان صفحہ زده هر سوی ملاٹک کردار

جبسا کہ ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے سے توقع تھی فیروز شاہی  
 مدرسہ کے مدرسین میں بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ جو اپنے اپنے  
 مخصوص مضامین میں امتیازی شان رکھتے تھے:-  
 عالمان عربی لفظ و عراقی دانش  
 ہمه درجہ شامی و بمصری دستار  
 ہر یکی نادرہ دھر در انواعِ هنر  
 ہر یکی واسطہ عقل در اطرافِ دیار  
 در فقاہت بیخارا و سمرقند نشان  
 در بلاغت بحجاز و بیمن مجد و مُشار  
 ادارہ کا پرنسپل مولانا جلال الدین رومی اپنے زمانے کا مانا ہوا  
 عالم تھا۔ معاصر مصنفین اس مدرسہ کا مفصل نصابِ تعلیم نہیں دیتے۔  
 بہرحال برلنی نے تفسیر، حدیث اور فقہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

اساتذہ مدرسہ بقول مطہر، شامی جبہ اور مصری دستار پہنچتے تھے۔ قرون وسطی میں متعلمان و معلمین کا باہمی قرب و اختلاط تعلیم و تدریس کا جزو لازم سمجھا جاتا تھا اور فیروز شاہی مدرسہ نے ان صحت مند روایات کو مؤثر انداز میں برقرار رکھا۔

درس کیے کمرے طلبہ وغیر طلبہ، مقیمین و واردين سب کیلئے یکسان طور پر کھلائے ہونے تھے۔ مطہر نے اپنے دوست کے ہمراہ مولانا جلال الدین کے درس میں شرکت کی چنانچہ کہتا ہے:-

پس نشستیم و ز گفتارش انواع علوم  
اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

ازمنہ وسطی کے اسلامی طرز تعلیم میں اساتذہ کی نگرانی میں طلبہ کی باہمی بحث و تکرار پر بڑا زور دیا جاتا تھا تاکہ انکی ذہنی صلاحیتوں میں جلا اور نکھار آجائی۔ فیروز شاہی مدرسہ نے اس اہم طرزِ تعلیم کو ذرا بھی فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ جب مطہر نے مدرسے میں گشت کیا تو طلبہ علمی مباحثہ میں مشغول تھے:-

مسچنان یکدگر از طالبعلمان هر سوی  
بر فلک برده صدا از غلغل و بحث و تکرار

حکومت فیاضی کیساتھ اساتذہ و طلبہ کے اخراجات برداشت کرتی تھی، ہوستل میں رہنے والوں کیلئے شاہی پیمانے پر انتظامات ہوتے تھے۔ اشعارِ ذیل میں دسترخوان پر انواع و اقسام کے ماکولات و مشروبات کا ذکر ہے:-

آسمان رنگ بیار است زنان مایدہ ای  
کاسه و صحن درو همچو کواکب بکنار  
همه دراج و کبوتر بچہ و کبک و کلنگ  
اسطلاح شروع ہوتا  
ماہی و مرغ مُسْمَن بره کوه وقار

نارداں و شکر و لوز و نوافج در وی  
زعفران صندل و مشک و همه چیز از ابزار  
تشریف ملا کر انار کا شربت دستخوان پر پلایا جاتا تھا، کہانے کیے  
بعد سونئے چاندی کی پلیٹوں میں پان لاتے جاتے تھے، اب ذرا مظہر کیے  
الفاظ میں پان کی تعریف سنئیے:-

برگ داران شدہ دردادن تبنول دوان  
برگ دانہای زر وسیم گرفته بکnar  
بیرها چون گل صد برگ چوگل (تازہ و ترا)  
دوختہ آن گل صد برگ بیک سوزن خار  
زعفران رنگ ولقد مزه و عنبر بوی  
چرب پھلو و تراندام و ملغط رخسار  
شاہی ضیافت کیے بعد دعا کا اہتمام تھا:-  
دست برداشت ثنا خوان و دعا کرد آغاز  
بنوایی کہ دمش بود مگر موسیقار  
دولت شاه زمان همچو زمان دانم کن  
ساہ شاه جہان برس ما قائم دار  
نور چشمان جهانجوی جوان بخشش را  
در برش پیرکن و در نظرش برخوردار  
مختصر یہ کہ مظہر کا مدرسہ شاہی کا بیان اس دور کیے سماجی  
اور ثقافتی مطالعہ کیلئے مفید معلومات فراہم کرتا ہے قاری آسانی سے  
umarat، ظاہری و علمی ماحول، طریقہ تعلیم مثلاً سیمینار سیم، کہانے  
کی انواع و اقسام، ضیافت کی ترتیب اور اساتذہ کے لباس وغیرہ کے  
بارے میں تفصیلات سمجھ سکتا ہے۔

### خانقاہ حضرت نظام الدین اولیا (رح)

خانقاہ کا ماحول اس انداز میں بان کیا ہے:-  
 بدگر صفحہ رسیدبم چو ابوان بھشت  
 عارفان جمع بدیدبم چو اصحاب الغار  
 ہمه ابدال سکندر دل و مهدی سیرت  
 ہمه اوتاباد مسیحا نفس و خضر شمار  
 ہمه را جامہ سیاہ و ہمه را نامہ سفید  
 ہمه را روی زنور و ہمه را سینہ زنار  
 پیر آن ملت سجادہ نشین آزادی  
 کہ ہمی تافت جبیتش چو شموس و اقامار

سجادہ نشین جس سے مطہر نے اپنے دوست کو متعارف کیا  
 مشہور بزرگ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے اور  
 دہلی کے شیخ الاسلام شیخ صدر الدین تھے۔ ہمارا شاعر انکی اس طرح  
 تعریف کرتا ہے:-

شیخ الاسلام جہان قطب زمان صدرالدین  
 انکہ در خلعت او ہست جہان را اقرار  
 مشرق نورِ ازل مشرفِ احکام ضمیر  
 مُحْرَم كعبه جان محرم سُر الاسرار  
 محیٰ دین حلف شیخ بہاء الملٹ  
 زکریا کہ بدوفخر کند خوش و تیار

تاریخ محمدی کے مطابق مطہر نے ایک طویل و فصیح قصیدہ  
 لکھا جسمیں فیروز شاہ کی تخت نشیبی سے لیکر دہلی پہنچنے تک کے  
 واقعات مفصل بیان کئے۔ غالباً وہ قصیدہ جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔  
 اس طرح شروع ہوتا ہے، اور اسمیں سو شعر ہیں:-

شاہ زمان کہ روی زمین چون نگار کرد

و ز تیغ بیقرار جهان را قرار کرد  
 منگولوں سے فیروز شاہ کی لڑائی اور مؤخرالذکر کی وزیر کی  
 بغاوت کا اس طرح ذکر کیا ہے:-  
 آن شاہ چون ملکتِ دارالبقاء شتافت لقبِ ذرا مظہر کی  
 تربیت سپرد در کف این شاہ بختیار  
 اول مصافِ رزم کہ بعد از جلوس شد  
 بودش بخت.... مغلان حرام خوار  
 چندیں بریخت خونِ مغل کزن نم زمین  
 برمی روڈ ہنوز سوی آسمان بخار  
 آمد خبر براہ کہ در شهر فتنہ ای  
 کرد آن وزیر پیر بد اندیش نابکار  
 و آن پیر طوف کرد، ز دستار در گلو  
 اندر میان ستادہ سبھ روی شرمسار  
 صاحب سته اور غلط فہمی کا ازالہ

دیوانِ مظہر کے ذریعے بعض مشکوک تاریخی بیانات کی اصلاح  
 ہوتی ہے مثلاً عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ کتبِ احادیث خصوصاً  
 صحابہ کو شیخ عبدالحق محدث دھلوی رح (۱۰۵۲ھ/۱۶۴۲ء) عیسوی)  
 کے زمانے تک یا بقول بعض شیخ ولی اللہ دھلوی (رح) (۱۱۶۱ھ/۱۷۴۲ء)  
 مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فیروز شاہی کالج میں "پنج سنن" یعنی حدیث  
 کی پانچ معباری کتب کا درس دیا جاتا تھا چنانچہ پرنسپل مولانا جلال  
 الدین رومی کی فضل و کمال کی سلسلے میں ہمیں مظہر کا یہ شعر ملتا  
 ہے:-

راوی هفت قرآن سندِ چارده علم

شارح پنج سن مفتی مذہب ہر چار

- (جیٹنے) ۷ جنوری ۱۹۶۷ء

### شجرہ مشانخ چشتیہ

ایک طویل قصیدہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے  
لیکر شیخ رکن الدین رح تک مشانخ چشتیہ کا ذکر ہے۔ اس تاریخی  
اہمیت کے حامل قصیدہ کی ابتدا یہو ہوتی ہے:-  
مجرد شواز دین و دنیا قلندر  
کہ راہِ حقیقی است زین ہر دو برتر

### جشن عید

قصیدہ نمبر ۲۲ جس کا مطلع "مقدم عیدِ ما مبارک باد" بردر  
پادشا مبارک باد" ہے ثقافتی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اس سے دور  
فیروز شاہی کی مختلف رسماں پر روشنی پڑتی ہے۔ طوالت کے خوف سے  
دو شعر پیش خدمت ہیں:-

ساختن درمیان ہر باغی نخل طوبی نما مبارکباد

مفرشی از حریر گستردن سبز چون گندنا مبارک باد

\* \* \* \*

### حوالہ

۱- مقالہ دوم، حکایت نمبر ۱۰ از "چہار مقالہ" نظامی عروضی شرفتدی۔

۲- مصنف ۸۳۴ھ میں اس کتاب کی تصنیف میں مصروف تھا (ملاختہ ہو  
پروفیسر شیرانی کا مارچ اور اپریل ۱۹۲۹ء کیے "مخزن" میں چہبا ہوا  
مضمون: "ایک قدیم فرهنگ پر الفضائل"۔

۳- اس پر سیر حاصل بحث کے لئے ملاختہ ہو پروفیسر نذیر احمد کا جنوری  
۱۹۶۵ء کیے "معارف" میں چہبا ہوا مضمون "ظهور الاسرار"

۴- دیوان مطہر (مخظوظہ)، تصویع و ترتیب بقلم عبدالرزاق ملوکہ آزاد

لاتبریری، مسلم یونیورسٹی علی گزہ صفحات بالترتیب ۲۹۲، ۱۶۵، ۲۲۶، ۲۲۶ دیکھئے صفحہ ۹ (حاشیہ) -

۸- عرقات العاشقین، بتخانہ اور مجمع النفاس وغیرہ کے مصنفوں کی رائے میں مظہر ایرانی تھا۔ مگر اخبار الاخبار، منتخب التواریخ بدایوں اور بد بیضا وغیرہ میں اسے هندوستانی لکھا گیا ہے۔

۹ تا ۱۰- مخطوطہ دیوان مظہر، ترتیب و تصمیع عبدالرازاق، ملوکہ آزاد لاتبریری، علی گزہ۔ صفحات ۱۳۲-۱۶ میں دیکھیں۔

۱۱- ان کا مضمون مارچ ۱۹۲۹ء کے مخزن (الہرہ) میں دیکھیں۔

۱۲- "شرح مخزن اسرار" محمد بن قوام بن رستم بدرا خزانہ البلخی الکرنی کی ۱۹۲۹ء کی تصنیف ہے۔

۱۳- "بحر الفضائل" بھی محمد بن قوام کی تصنیف ہے جو ۱۸۲۷ء میں لکھی گئی۔ دیکھئے پروفیسر شیرانی کا مارچ اور اپریل ۱۹۲۹ کے "مخزن" (الہرہ) میں چھپا ہوا مضمون: "ایک قدیم فرنگ: بحر الفضائل"۔

۱۴- تاریخ محمدی مؤلفہ محمد بہامد خانی کا مخطوطہ برٹش میوزیم میں ہے مگر اس کا روشن گراف تین جلدیں میں شعبہ تاریخ، مسلم یونیورسٹی علی گزہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں فیروز شاہ تغلق اور شیخ نصیر الدین محمد چراغ دہلی کی شان میں مظہر کے قصائد اور مؤخر الذکر کی وفات پر مرتبہ کے چیدہ چیدہ اشعار ہیں۔

۱۵- پروفیسر نذیر احمد، شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی علی گزہ نے اپنے ایک مضمون میں استاجی کا ذکر کیا ہے اور اس کا کلام بھی نقل کیا ہے۔

۱۶- دیکھئے تاریخ فیروز شاہی مزلہ ضیا مالدین، تاریخ فیروز شاہی مزلہ شمس سراج عفیف اور ڈاکٹر محمد شمعون اسرائیلی کا مضمون "مظہر گزہ" "جو اند و ایرانیکا" میں صفحہ ۵۰ پر چھپا تھا۔

۱۷- مخطوطہ دیوانِ مظہر بقلم عبدالرازاق ملوکہ آزاد لاتبریری، مسلم یونیورسٹی، صفحہ ۲۵

۲۰- صفحہ

۶۲- صفحہ

۲۲۹- صفحہ

۳۲۰- صفحہ

۱۲۳- تاریخ مبارکشاہی یحییٰ بن احمد صفحہ

۲۳- دیوان مطہر" ترتیب از عبدالرزاق صفحہ ۲۲

۳۲۹- صفحہ

۳۳۰- صفحہ

۲۶- مخطوطہ دیوان مطہر (تصحیح و ترتیب عبدالرزاق) صفحہ ۳۲۱

۲۷- تاریخ فیروز شاہی مولفہ شمس سراج عفیف صفحات ۱۳۳-۲۵۲

۲۸- دیوان صفحہ ۲

۲۹- دیوان صفحہ ۳۲۱

۳۰- تاریخ فیروز شاہی مولفہ شمس سراج عفیف صفحہ ۱۳۳-۲۰۵

۳۱- ۳۲- ۳۳- پروفیسر خلیق احمد نظامی شعبہ تاریخ، مسلم یونیورسٹی

"An Indian Medieval Madrasah" علیگڑھ نے اپنے مضون:

میں تاریخ فیروز شاہی ضبا الدین برنس، تاریخ فیروز شاہی عفیف "sah"

وغیرہ کیے علاوہ مطہر کی ۱۵۱ شعر والی طویل قصیدے سے جا بجا استفادہ

کیا ہے۔ دیوان مطہر (ترتیب و تصحیح عبدالرزاق) میں یہ قصیدہ صفحہ ۹۹

سے شروع ہوتا ہے۔

تاریخ اور دست برداشت کا شکار برگزیتیں لیکن دست برداشت کا ملکیت ایک شخص کا ہے۔

\* \* \* \*

تاریخ کا ملکیت ایک شخص کا ہے۔

تیضی نے اپنے گھر والوں کی سانچہ کیا کیا صورتیں نہ انہائیں۔

## بازدید رئیس موسسه کیهان از مرکز چاپ اخبار پاکستان

جناب آقای اصغری رئیس موسسه کیهان و نماینده مجلس شورای اسلامی در فرمت مطالعاتی و فرهنگی که در تیمه اول شهرور ماه ۱۳۶۹ به پاکستان داشتند به همراه همکاران در رایزنی فنرتهنگی از روزنامه های کثیر الانتشار مسلم و جنگ به ترتیب در اسلام آباد و راولپنڈی بازدید کردند و از نزد یک بخش های مختلف مدیریت، سردبیری، همینست تحریریه، لیتوگرافی، چاپچاڑ و قسمت توزیع را مورد مشاپدہ قراردادند.

ایشان یعنی با برخی از دست اندکاران این روزنامه های گفتگو پرداختند و در اهمیت رسالت مطبوعات و اراده اخبار و تحلیل های سیاسی، فرهنگی سالم و صحیح تأکید ورزیدند.

مسئولان و کارکنان این روزنامه های نیز مقدم ایشان را بسیار گرامی داشتند و در مورد بازدید از قسمت های مختلف مطالبی در روزنامه های خود منتشر افتدند. آقای اصغری یعنی به مسئولان فرهنگی و علاقه مندان پاکستان نهادنی داشتی دیگر قول دادند که انتشارات موسسه روزنامه کیهان به موقع به دست متفاصلیان خارج از کشور برسد.

مجله دانش ضمن تایید اینگونه بازدیدها، توسعه هرچه بیشتر حسین روابط فرهنگی مسئولان مطبوعات ایران و پاکستان را آزاد و می کند.

خانم ڈاکٹر قمر غفار علیگ  
جامعہ ملیہ اسلامبہ نقی دہلی

فیضی اور لطیفہ فیاضی

تیصہ و تعارف

مغلوں کا ملک الشعرا، دریار اکبری کی جان، نورتنوں کی شان،  
شیخ ابوالنیض فیضی نہ صرف گوناگون صفات کی حامل شخصیت کا  
مالک اور بہت سی تصانیف کا خالق ہے بلکہ اس کی زندگی عروج و زوال  
کی بذات خود ایک تاریخ بھی ہے۔ پروفیسر سید نبی ہادی نے اپنی کتاب  
"مغلوں کے ملک الشعرا" میں فیضی کے بارے میں لکھا ہے:

”تقدیر کا فرشتہ بعض اوقات نہایت گھنام لوگوں کو دیکھے کر مسکراتا ہے اور ان کو اپنے قوی بازوں پر بٹھا کر بقانیے دوام کی بلندیوں کی سمت ازنيے لگتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے اور افسوس کرتی ہے کہ وہ تباہی اور دست برد کا شکار ہو گئی۔ لیکن وہی دست برد ان کی عروج کی راہ کا نقطہ آغاز بن جاتی ہے：“

تاریخ شاہد ہے کہ شیخ مبارک کا بیٹا فیضی اپنے خاندان کے ساتھ ان ہی معاملات اور کیفیات کے ساتھ گزرا۔ فیضی نے اپنے مگر والد کے ساتھ کیا کیا صعوبتیں نہ انہائیں۔

کیا کیا ہم چشمون نے چغلی لگا کر، ان کے خلاف بھکا کر جان سے بیزار  
نہ کیا کہ فیضی اپنے عزیز و محترم باپ کے سامنے تلوار نیام سے نکال  
کر آمادہ ہو گیا کہ یا تو آپ ہم لوگوں کو لیکر گھر سے راہ فرار اختیار  
کیجیے ورنہ میں ابھی اپنا کام تمام کیجیے لیتا ہوں۔ بعد ازاں شیخ مبارک کا  
اپنے خاندان کے ساتھ گھر سے بے گھر ہونا، پرشان پھرنا، چھپتے چھپاتے  
دوسروں کے بھار پناہ لینا، جن میں اپنے بھی شامل ہیں پرانے بھی،  
مهریان بھی ہیں اور نا مهریان بھی۔ لیکن واقعاً قسمت کا فرشته اس  
سخت کوشی اور لوگوں کے بر تاؤ پر خنده زن تھا کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے  
جب اسی خاندان کے دو فرزندوں کا آستانہ لوگوں کے لئے قبلہ حاجات بن  
جائیے گا۔ اور وہ وقت جلد ہی آیا۔ خوش قسمتی سے شیخ مبارک کے  
خاندان کی رسانی ایک ہمدرد مرزا عزیز کے ذریعہ اکبر کے دریار تک ہونی  
جس کا ذکر "آنین اکبری" میں کیا گیا ہے۔ اور جس کے حوالہ سے شبی  
نعمانی نے اپنی تصنیف "شعرالعجم" میں ان الفاظ میں اظہار خیال کیا  
ہے:

"ابوالفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے ایک امیر نے اکبر کے  
دریار میں نہایت گستاخانہ سفارش کی۔ اس سے مرزا عزیز ہی مراد ہے۔  
مرزا عزیز نے باربا اکبر کو سر دریار سخت و سست کہا اور اکبر یہ کہہ  
کر چپ ہو گاتا تھا کہ کیا کروں میرے اور مرزا عزیز کے درمیان دودھ کا  
دریا حائل ہے۔"

دراصل اکبر کے دل میں خود اس خاندان کے لئے نرم گوشہ موجود  
تھا مگر متعصب مولویوں کے خیال سے خاموش رہتا تھا۔ جیسا کہ مولانا  
شبی نے لکھا ہے۔ "گستاخ امیر کے جواب میں اکبر نے کہا کہ "تم کو  
خبر بھی ہے قام علماء نے فتوے تیار کئے ہیں اور مجھ کو چین لینے نہیں  
دیتے کہ جہاں سے ہو شیخ مبارک کا خاندان ڈھونڈ کر پیدا کیا جائے اور  
اس کو سزا دی جائے۔ مجھ کو شیخ کی قیام گاہ "چور محل" معلوم ہے لیکن

دانستہ ثالثا ہوں۔ کل کونی جاکر شیخ کو دریار میں لاتے۔ "الغرض حالات کی یہ ستم ظریفیاں کچھ تو قسمت کی مربیوں منت ہیں اور کچھ فیضی اور اس کی خاندان کی افتاد طبع کی بدولت جس کا احساس خود فیضی کو ہے:

من براہی میروم کا نجا قدم نا محرم است  
از مقامی حرف میگویم کہ دم نا محرم است

بہر حال ہر شب کی ایک سحر ہوتی ہے۔ "پایان شب سپیداست۔" دکھ اور پریشانیوں کا سینہ چاک کر کے شیخ مبارک کی خاندان کی بھی جگہنگاتی صبح طلوع ہونی اور اکبر کو گویا اپنے جاگتے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ ابوالفضل اور فیضی اکبر کی قوتِ سماعت و بصارت اور اس کی حکمت عملی کے باتیں بن گئیں۔ خود فیضی کے بقول:

"کوہکن راتیشہ دادیم و کار آموختیم"

ابنی باربیوں جلوس (۱۹۶۲) کے موقع پر مغل اعظم شہنشاہ اکبر نے بڑے احترام اور چاؤ سے بلابا۔ فیضی جس آن بان سے دریار میں پہنچا اور اکبر نے جو قدردانی اور پذیرائی کی اسے دیکھ کر حاسدوں کے سینوں پر سانپ لوٹ گئی اور اس جلن کی آنج اور مقاومت نے فیضی کے مراتب کو جو جلا بخشی، ابوالفضل نے اپنی "آئین اکبری" اور فیضی نے اپنے دیوان "تباشیرالصبح" کے پہلی نسخہ (۱۹۹۵) کے دیباچہ میں اس کا ذکر کیا اور نور الدین عین الملک نے اپنے مرتبہ خطوط "لطیفہ فیاضی" کے مقدمہ میں شامل کیا ہے۔

خواستم خود را به پایہ تخت شاہنشہی رسانم و لوط میں ظلمت زدای ستارہ بخت شوم، ناگاہ منشور التفات حضرت شاہنشاہ عالم، فومان روای اعظم، مظہر قدرت الہی... رسید، فیاضی کو غریب سماں کی نظر سوکریہ کی جعلت رحلت رحلتیں

اس طرح کے القاب و آداب کا خانمہ ذبل کے اشعار پر ہوتا ہے:

شع شش طاق و شاه نہ خرگاہ  
بادشاہ زمانہ اکبر شاہ  
کہ رخش روز بخت روشن باد  
وز بھارش زمانہ گلشن باد

اس کے بعد فیضی دریار اکبری میں پہنچنے کی اطلاع ان الفاظ  
میں دیتا ہے۔

در زاویہ فقر و فنا گنجیدہ بدوبای دیدہ بشتا  
فت و به تقبل پایہ اورنگ والا سریلند یافتہ نظری کہ  
آفتاب بخاک چمن اندازد و سپیل کہ به سنگ یعنی کندہ من  
کرد. و عنایات پادشاہی چون نعمای الہی بی حساب دیدم.  
درخشنده رقی کہ از لوحہ سرنوشت من روزگار برخواند و  
منت ازل و ابد بورمن نہاد نقش استادی شاهزادہ های کامگار  
بخش بود کہ بشادگری بخت فرخنده بخدمت تعلیم این  
مستخدان انتظام بسلسلہ گوی والہی ممتاز شدم. القصہ  
بیدرقہ تربیتش سلوک در مدارج صورت و معنی غوتم و  
نشیب و بلندی بہ وادی ظاہر و باطن پیغومد. رفتہ رفتہ در  
بندگی تاش شدم. و بسعادت ابد خواجه تاش گشتم ہم در  
حساب امراء در آمدم و ہم خطاب ملک الشعرا گرفتم  
اگرچہ شمشیر بہ میان بستہ بودم۔"

فیضی کی اکثر و بیشتر تصانیف جو اپنے مواد کے اعتبار سے  
رنگارنگی کی حامل ہیں، غیر معروف نہیں۔ خود "ملک الشعرا" کا  
خطاب ریتی دنیا تک اس کی بقائی دوام کا سبب بن گیا۔ لیکن اس کی  
دوسری خصوصیات کو اہل علم نے اس طرح نہیں سراپا جیسا کہ حق تھا.  
جس کا احساس شاعر کو بھی ہے:

امروز نہ شاعر، حکیم  
داننده حادث و قدیم

اصلًا مین کا عربی النسل فیضی هندوستان کیے چمن زاروں کا  
نوں ہال، اس کی نرم و گرم فضاوں کا پروردہ، نہ صرف حادث و قدیم کا  
امین ہے بلکہ ایک اچھا نثر نگار بھی ہے جس کا بین ثبوت اس کے وہ  
خطوط ہیں جو اس نے وقتاً فوقتاً مختلف مقامات مثلاً دکن، احمدنگر،  
احمد آباد اور آگرہ وغیرہ سے شہنشاہ اکبر، اپنے وقت کے بعض سلاطین،  
امراء و شرفاء اور اعزا و اقارب کو لکھئے اور جن کو اس کے ایرانی  
النسل شاگرد اور بھانجھیے نور الدین محمد عبداللہ بن حکیم عین الملک نے  
”لطیفہ فیاضی“ کیے عنوان سے مرتب کئے اس کی تاریخ ۲۶-۱۶۲۵ / ۱۰۳۵ھ نکالی۔ عبارت ملاحظہ ہو:

اما بعد، باد پیمای بادیہ سخن سنجی و آبلہ  
پای سنگ لاخ پینجی، نور الدین محمد عبداللہ حکیم عین  
الملک کہ به نسبت آبای کرام از خاک پاک شیراز است و بحسب  
طبنت در شکرستان هند سحر طراز... از آنجا این کمترین  
نسبت خواهر زادگی و تلمذی بحضرت مذکور داشت خواست  
که... ”لطیفہ فیاضی“ ۱۳۵۱ھ کے تاریخ انعام و انتظام  
این مطلب اهم است.

کیسی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ میری ناقص معلومات  
کے مطابق نہ تو ”لطیفہ فیاضی“ پر ابھی تک کوئی سیر حاصل بحث سامنے  
آئی ہے اور نہ ہی شیخ فیضی کی شخصیت کو اس کے خطوط میں  
ذہونڈنے کی کوشش ابھی تک سنجیدگی کیے ساتھ ہو پائی ہے۔ اس کی ذات  
سے دلچسپی رکھنے والے تقریباً سارے ہی دانشوروں کیے نام مشہور  
معلوم ہیں لیکن انہوں نے شیخ کے مجموعہ مکتوبات یعنی ”لطیفہ  
فیاضی“ کو شوق و انبھا کی نظر سے کم دیکھا ہے، حقیقت تو یہ ہے

کہ سرسری نظر سے دیکھنے والے بھی زیادہ نہیں ہیں۔

دنیا کے تقریباً تمام فنکار اپنے کو قابل رحم کہتے اور سمجھتے آئے ہیں مگر بعض کا قصہ واقعی نہایت عجیب ہے۔ لوگ ان کے آثار سے ایک قسم کا رعب کھاتے ہیں۔ نام سنا اور دل پر خوف چھایا۔ ان کی کتابیں الماری کے سب سے اونچے خانہ میں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن ان کے پڑھنے کو زبردست ہمت چاہیے۔ ان کے آثار زینت و آرائش کے ساتھ ساتھ مرعوب کرنے کی خاطر جمع کئے جاتے ہیں۔ مطالعہ مقصود نہیں ہوتا۔ فیضی بھی اس زمرے کا فنکار ہے۔ یعنی وہ "سواطع الالہام" کا مؤلف ہے۔ قران کی تفسیر اور وہ بھی ہے نقط عبارت میں۔ آخر کتنے اہل دل اور اہل ذوق نے "سواطع الالہام" کو غور و خوض سے پڑھا ہوگا۔ موضوع کی حدود سے بات ذرا دور چلی گئی عرض کرنے کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ ایسا ہی منصب بلند "لطیفہ فیاضی" کو اگر واضح طور سے نہیں ملا تو ملتے ملتے رہ گیا۔

فطرت انسان کے ساتھ کبھی کبھی اچانک کسی موڑ پر آگر واقعی فیاضی کے ساتھ کام لیتی ہے۔ یہ کلیہ فیضی پر صادق آتا ہے۔ اس کو ایسی شخصیت بخشی گئی جس کو صحیح معنوں میں پہلودار کہنا چاہیے۔ غور کرنے کی بات ہے ہم کونسے فیضی کو جانتے ہیں اور کونسا فیضی ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ رہ گیا؟ یوں تو حکیم آزاد انصاری نے ضروری باتوں کے لئے کہا تھا:

اسوس ہے شمار سخن ہائے گفتگی  
خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے

ویسا ہی حشر بہت سی ہستیوں کا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے اصلی چھٹے سامنے نہیں آ پاتے۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ کا طلسماٹی عمل صدیوں کے امتداد کے بعد چھٹے سے نقاب انہادے۔

فیضی کے بعض معاصرین جو اس کو زندگی بھر نزدیک سے دیکھتے رہے، اس کی حیات مستعار کے نقطہ اختتام پر پہنچ کر عجیب انداز کے فیصلے پیش کرتے ہیں۔ ان کے قبیل و قال سنتے کے قابل ہیں۔ عداوت اور نفاق میں تو شک ہی کیا، لیکن ساتھ ہی ان حقارت آمیز تبصروں سے فیضی کی ذات کے مختلف پہلو نہ صرف واضح طور سے سامنے آئے ہیں بلکہ ذہن میں بہت سی سوالوں کو جنم دیتے ہیں۔ مثلاً فیضی نحس دشمن نبوی، قاعده الحاد شکست، خالدًا فی النار، وی فلسفی شیعی و طبیعی و دھری، وغیرہ وغیرہ۔

فیضی کے حریف زندگی بھر اس کی ذات کے گرد زبردست ہنگامے مجاتے رہے مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے اطراف میں کسی مرحلے پر بھی ایسی علامتوں کا سراغ نہیں ملتا، جن کو اعصاب کی کوفت، دل کی گھبراٹ، یا کم از کم چہرے کی شکن ہی سے تعییر کیا جاسکے۔ وہ پوری خونسردی کے ساتھ خاموشی سے اپنی مدافعت کرتا ہے اور شاذ و نادر ہی اپنے دشمنوں کے خلاف ہر فریاد ملامت زبان پر آنے دیتا ہے۔ جس کی متعدد مثالیں اس کے خطوط سے دی جاسکتی ہیں۔ جس طرح اہل ایمان اپنے نیک و بد کا حساب یوم حشر پر انہا رکھتے ہیں فیضی اپنے اختلافات کا فیصلہ تاریخ کی عدالت کے سپرد کر جاتا ہے۔ اس کو احساس اور اعتقاد ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد تاریخ اپنا فیصلہ اس کے حق میں صادر کرے گی۔

مبالغہ نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ اکبر کے زمانہ میں ایک ہزار قصے ایسے کہنے ہوئے جو اس سے قبل کبھی نہ ہوئے تھے۔ اور ملک کے طول و عرض میں دانشوروں کو تو خیر جانے دیجئیے معمولی تعلیم یافته افراد تک جذبات کے پوشنا اور خرد فرسا طوفان میں کوڈنے کو تیار ہو گئے۔ عہد اکبری کے بیشمار پیچیدہ قضیوں میں دین الہی، صلح کل، شہنشاہ کی ذات والا صفات سے متعلق بعض علماء کا محض، کمال

تعالیٰ شانہ، اللہ اکبر، تاریخ الفی یعنی اسلام کی ایک ہزار سالہ تاریخ اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے پست و بالا کی حساب فہمی، غیر اسلامی ادبیات کی نوعیت، خصوصاً ہندوؤں کے عقائد کی صحت یا عدم صحت کا جائزہ اور اس کے دیگر شاخصائے جیسے مستند تحریم گاؤں یا پھر ان مذہبی کتابوں کے ترجمہ کا مشکل اور غیر معمولی منصوبہ، جس کی بدولت رامائن، مہا بھارت اور ویدوں کو فارسی میں منتقل کر لیا گیا، یہ سب دلچسپ قصیٰ ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان تمام قصوں میں شیخ مبارک کی دونوں بیٹیے سب سے اگئے نظر آتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ فلسفیات کی پیجان کیوں بڑیا ہوئی اور ہندوستانی مسلمانوں کی فکری زندگی میں اتنے سارے مستلزم کھاڑ سے کھٹے ہو گئے تو اس کا جواب معاصر مورخ عبدالقدیر بدایونی صاحب "منتخب التواریخ" کے ایک جملہ میں موجود ہے۔ یہ جملہ دراصل اس جماعت کے رجحانات اور کوششوں پر ایک واضح تبصرہ ہے جس کا قافلہ سالار فیضی تھا۔ پورے معاملات کو سمجھنے کے لیے بدایونی کا یہ جملہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے: "..... مدار دین بر عقل گذاشتند نہ بر نقل" ۰

دراصل زوال بغداد کے بعد ۱۲۵۶ء / ۶۵۸ھ مسلمانوں نے باریا کوشش کی کہ اپنی تہذیب کے تھکے بونے اور راہ گم کردہ قافلہ کو ہو سکے تو پھر سے اگئے بزہائیں۔ عہد اکبری کے ہنگامے اس داستان کا انتہائی باب ہیں۔ یہ ایک آخری کوشش تھی۔ یہی زمانہ تھا جب بورپ نشأة ثانیہ کی تیاریوں میں لگ چکا تھا۔ سب جانتے ہیں مغرب میں جیسے ہی نشأة ثانیہ کی تحریک اگئے بڑھی مسلمان عقل و حکمت کی امانت سے محروم ہو گئے۔ بتول اقبال "لے گئے تثیل کے فرزند میراث خلیل"۔ عہد اکبری کے دانشوروں میں فیضی جو سب سے متاز ہے ایک سنجدہ جستجو میں منہعد نظر آتا ہے یعنی انسانی اداروں کا انتظام، بشمولیت دین، "اعتقادات عقلی" پر استوار ہونا چاہیے۔ معاشرے کی مریوط اور منظم

"پیشرفت فقط ان عوامل کے ذریعہ ممکن ہے جو "دلائل عقلہ اور شوابد نقلیہ" سے مطابقت رکھتے ہوں۔ مذکورہ دونوں ہی اصطلاحیں بداعونی کے بیانات سے مستعار ہیں یہ مقدمات ان مسائل کی سنگینی کا احساس دلانے کے لئے کافی ہیں جو فیضی کو اپنی زندگی میں درپیش تھے۔ اس میں شک نہیں کہ فیضی کو بادشاہ کا مکمل اعتقاد حاصل تھا۔ حکومت کی طاقتور دستگاہ اس کے بھائی شیخ ابوالفضل کے ہاتھ میں تھی۔ مگر ملک کی رائے عامہ کو ساتھ رکھنا اور مخالفت کا جو طوفان کھڑا ہو گیا تھا اس کو روکنا نہایت نازک اور دشوار کام تھا۔ فیضی کے مکاتیب اس پس منظر میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

"لطیفہ فیاضی" کا مطالعہ کرتے وقت جو مکتوب الیہ اکثر و بیشتر سامنے آتے ہیں ان کو کم و بیش تین طبقات یا زمروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو بداعونی اپنے مخصوص انداز میں "طائفہ سادات و مشائخ و علماء و فضلاً وقت" کہتا ہے دوسرے گروہ میں وہ بزرگ آتے ہیں جو "اہل دولت واریاب حکومت" کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا جماعت ان نواستجوان شعر و ادب کی ہے جن کی گونج تاریخ میں ابھی تک سنائی دیتی ہے اور جن کی وجہ سے اکبر کا ہندوستان فارسی شاعری کا "موسم بہار" کھلاتا ہے۔ دونکتے اور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ سهل انگاری اور سادگی کے باوجود مکتبیات کی زبان جگہ جگہ مرصع اور پر تکلف محسوس ہوتی ہے۔ اور ایسے موقوں پر نشر میں وہ خوبی گم ہوجاتی ہے جس کو سادگی اور برجستگی کہتے ہیں۔ یقیناً فیضی جیسا ذہین آدمی روزمرہ کی زبان کی تاثیر اور جاذبیت سے واقف تھا۔ مگر جس طبقہ سے اس کا تعلق تھا ان لوگوں میں سادہ اور سهل نشر کے استعمال کا رواج نہ تھا۔ وہ اپنے دور کی اور اپنے طبقہ کی روایات کا گاہ گاہ پابند نظر آتا ہے۔ اگرچہ کاملاً نہیں دوسری قابل تعریف بات یہ ہے کہ بیشتر خطوط نہ صرف نہایت مختصر ہیں بلکہ بعض کے چھوٹے چھوٹے

خوبصورت اور بامعنی جملے گلستان سعدی کی یاد دلاتے ہیں۔ متعدد ایسے ہیں جن کی عبارت دو یا تین ہی سطروں پر مشتمل ہے۔ ممکن ہے ایسے خطوط مکتب الیہ کا جواب ہوں یا کسی اطلاع کی غرض سے لکھے گئے ہوں جہاں تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ بعض خطوط القاب و آداب کی قید سے بھی بالکل آزاد ہیں۔ اور قبضی کی بہ آزاد روی غالب کی آئیں آس پاس محسوس کراتی ہے۔

فیضی کو اپنے زمانہ کے بہت سے علماء اور مشائخ سے خط و کتابت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک تو وہ اپنی تفسیر ہے نقط "سواطع الالہام" کی تالیف کے سلسلہ میں تقریباً ملک بعر کی نامور اہل علم سے مشورے کرتا رہا، ان کو اقتباسات کے غونے بھیجتا رہا اور ان کی مدد سے اپنا کام آگئے بڑھاتا رہا۔ دوسرے اکبر کے عہد میں جو تازہ نو بہ تو ہنگامے برپا تھے اور جن کی قام تو ذمہ داری شیخ مبارک کے بیشوف کے سر آپزی تھی یعنی ان پر بادشاہ کو گمراہ کرنے کا الزام تھا۔ اس بدنامی کی مدافعت میں یا اپنے حامی اور ہم نوا پیدا کرنے کی غرض سے اس کو دوستون کا حلقوہ وسیع کرنا پڑا۔ دوسرے دکن اور گجرات کی مهم کے حالات اکبر کو تفصیل کیے ساتھ لکھے۔ نیز جب اکبر گجرات کی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے گیا ہوا تھا تو اس کو خطوط کے توسط سے دارالخلافہ کے حالات سے باخبر رکھا۔ اگر بہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس صورتحال نے اس کو مکتب نگار بننے پر مجبور کیا۔ اور آج بھی مکتوبات تاریخی دستاویز کی حیثیت کے حامل کہے جاسکتی ہیں۔ اور ان خطوط کے آئندہ میں شیخ تاج الدین اجودھنی، جو تاج العارفین کہلاتے تھے اور جن کو ابن العربی کے فلسفہ پر زبردست عبور حاصل تھا، شیخ یعقوب کشمیری جن کو عین القضاط ہمدانی کے افکار کا ماهر شمار کیا جاتا تھا اور لاپور کے شیخ جمال نظام الملک، عبدالحق، ابوالفتح گبلانی وغیرہ کے کردار ابھر کر سامنے آئے ہیں۔

فیضی جس کو بادشاہ کے اعتماد و عنایات کا شرف حاصل تھا اور شیخ ابوالفضل کے بھائی کی حیثیت سے قام ہی ارباب دولت اور امراء سلطنت کی نظروں کا مرکز تھا۔ ہی شمار معاملات جو دربار شاہی کی دادوستد اور رعیت و سپاہ کی عقدہ کشائی سے تعلق رکھتے تھے، اس کا اشارہ ابرو ان کی بست و کشاد اور ان کے حل و فصل کے لئے کافی ہوتا تھا۔ تعجب کی بات نہیں اگر بڑی تعداد میں امراء کبار اس سے مراسلت کا سلسلہ رکھتے تھے۔

فیضی "ملک الشعرااء" تھا۔ اس اعتبار سے دربار میں آئیے جانے والے مستقل تعلق رکھنے والے قام شاعروں کی تنخواہ دلانا، ان کے وظائف اور انعام کا تعین کرنا اسی کا کام تھا۔ نیز شاعر کی حیثیت کافیصلہ اسی کی صوابیدد اور سفارش پر منحصر تھا۔ اکبر کے دربار کو ایرانی شاعر اپنی آخری اور سب سے بڑی منزل مقصود سمجھتے تھے۔ دراصل ان کو اپنے کمال کی سند لینے کے لئے ویان کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اور محمد قلی سلیم کے کہنے کے مطابق :

نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال

تا نیامد سوی هندوستان حنا رنگین نشد

یہ جماعت فیضی کو اپنا مری اور "پیرو دستگیر" سمجھتی تھی۔

"لطیفہ فیاضی" میں بہت سے خطوط شاعروں کے نام ہیں۔

حیرت کی بات ہے کہ "لطیفہ فیاضی" کے مجموعہ میں وہ خط نظر نہیں آتا جس کو بدایونی قام و کمال اپنی تاریخ میں محفوظ کر گیا ہے۔ یہ خط فیضی کے ظرف اور کردار کا آئینہ کہے جانے کا مستحق ہے۔ بدایونی فیضی کا کھلا دشمن ہے۔ وہ نفرت و بیزاری کا برملا اظہار کرتا ہے۔ اس کا تبصرہ فیضی کی بابت یہ ہے کہ : "مخترع جدر ہzel و عجب و حقد و مجموعہ نفاق و خبائث و ریا و رعنونت بود ۰۰۰" یہ تبصرہ بہت طولانی ہے۔ اور اس میں اگئے چل کر وہ قام صفات اعتباری و لا اعتباری شمار

کرادی گئی ہیں جن کو آجکل کی زبان میں غیر پارلیمانی کہا جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف فیضی کا طور طریق ملاحظہ فرمائیے: وہ ایک دفعہ شاہی سفیر کی حیثیت سے بیجاپور اور گولکنڈہ کا دورہ کر رہا تھا۔ وہاں خبر پہنچی حضرت شہنشاہی، ملا عبدالقدار بدایونی سے ناراض ہو گئے اور ملا کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ فوراً اکبر کو خط لکھتا ہے۔ عالم پناہا، بدایونی کے دو آدمی "گریان و بریان" میں پاس بہان دکن آئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے وہ آجکل بیمار بھی ہے۔ خدا جانسے کس نے اس کے خلاف شرارت کی کہ حضور ناراض ہو گئے۔ شکستہ توازا، ملا عبدالقدار بڑی اہلیت کا آدمی ہے۔ میں سے پدر بزرگوار شیخ مبارک کی خدمت میں کسبِ فضلیت کرچکا ہے بس یہ سمجھئیے کہ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑا ہوں اور خود اپنے لئے نوکری کی التجا کر رہا ہوں۔ اس خط کا وہی اثر ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ بالآخر بدایونی کو فیضی کے کمالات یاد کر کے یہ کہنا پڑا۔ ۰۰ بی قرینہ، روزگار بود۔

"لطیفہ فیاضی" کے دو قلمی نسخے مسلم یونیورسٹی علیگڑہ کی مولانا آزاد لانبریری میں محفوظ ہیں۔ مزید دو نسخے انڈیا آنس لانبریری اور برٹش میوزم میں موجود ہیں۔ علیگڑہ لانبریری کے محفوظ دو نسخوں میں ایک خط نستعلیق شکستہ (بونیورسٹی ضمیمه ۵۹) اور دوسرا خط شکستہ (سلمان ککشن) میں ہے جس میں صرف لطیفے شامل ہیں۔ جبکہ خط نستعلیق شکستہ میں لکھا نسخہ خود مرتب کی اطلاع کے مطابق تین حصوں میں تقسیم ہے۔ (۱) لطیفہ (۲) منطقہ (۳) خاتمہ ۰ لطیفوں کو نور الدین نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے:

- (۱) لطیفہ اول: بعنوان "عرايض والا درگاہ" جس میں چھ عرضداشتیں ہیں۔ پانچ وہ خطوط جو فیضی نے اکبر کو دکن و گجرات کی مہم کے دوران اور ایک وہ جو دارالخلافہ سے اکبر کو گجرات میں لکھا۔
- (۲) لطیفہ دوم: بعنوان "معاصر فیضی شرفاء و علماء و عرفاء"

یعنی دومن لطیفہ میں وہ خطوط شامل ہیں جو فیضی نے اپنے وقت کے اریاب اقتدار اور حل و فصل کو لکھے۔

(۲) لطیفہ سوم: بعنوان "حکما و معاصر" یعنی سومین لطیفہ حکماء و معاصرین کو لکھئے گئے مکاتیب پر پھیلا ہوا ہے۔

(۳) لطیفہ چہارم: چہارمین لطیفہ سلاطین وقت و امراء نظام کے ساتھ نامہ نگاری کی نشاندہی کرتا ہے۔

(۴) لطیفہ پنجم: بعنوان بہ ابناک واخوان واقارب یعنی پنجمین لطیفہ والد بزرگوار، عزیز و اقارب کے نام لکھئے گئے خطوط کا احاطہ کئے ہوتے ہے۔ آخری خطوط زیادہ تر فیضی کے اپنے بھائی ابوالفضل اور ابوالخیر کے نام ہیں۔

اسی طرح منظوقہ تین حصوں میں منقسم ہیں۔

(۱) منظوقہ اول : مناجات فایض البرکات علامی و مهام۔

(۲) منظوقہ دوم : رقعت لطایف نکات خیر الاتامی۔

(۳) منظوقہ سوم : مکاتیب متفرق کہ اعزہ واقارب بہ شیخ فیضی نوشته اند۔

اس کے بعد خاتمہ ہے جس کے ضمن میں مرتب لکھتا ہے کہ "وارادت فقرات و نامجات راقم و بہ لطیفہ فیاضی کہ تاریخ انعام و انتظام این مطلب اہم است موسوم ساخت و دست همت بدامن شاهد مقصود زد و باللہ التوفیق و بہ المستعانہ:

دولت اگر همد می ساختی

عمر بدبین نیز پر داخلی  
در دلم آمد کہ کتبہ کردہ ام  
کاین ورق چند سیہ کردہ ام

بونیورسٹی ضمیمه ۵۹ خط نستعلیق شکسته کا خاتمه جو ۱۱۳ ورق یعنی ۲۲۶ صفحات پر مشتمل ہے درج ذیل عبارت پر ہوتا ہے: "بآشد خوشوت می ساخته باشند. دیگر الجام و آغاز مهام صوری و معنوی بخیر و خوبی باد. اشتیاق ادراک صحبت را چه تواند نوشت کہ مشہود ضمیر محبت نظیر نباشد. جان من حقا کہ مبیثہ مرکوز خاطر مشتاق آندو دائم الرقت طوطیہ حصول ملاقات است. انشالله به نیکو ترین وجهی میسر گرد.

شمار شوق ندانسته ام کہ تاچند است

جزاینقدر کہ دلم سخت آرزو مندا است

تحریر حرف شرق ندام کہ چون کنم

آن بد کہ نامه را همه رنگین به خون کنم

اس خط کا زیاد جسارت نموده بالخیر باد

نسخہ کا اختتام: "تحت هذالانسخ انشای فیضی فیاضی عفی الله الیه ولو بتاریخ هفدهم شهر ربیع الثانی ۱۴۰۰ مطابق ۱۱ هجری."

نسخہ کا آغاز بسم الله الرحمن الرحيم کے بابرکت کلمات کے بعد فیضی کے قصیدے کے اس شعر سے ہوتا ہے:

بازلی الظهور يا ابدی الخفا

نورك فوق النظر حُسنک فوق الشنا

نسخہ کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے۔ اکثر جگہ دیکھ کی مہربانیوں سے نہ صرف الفاظ و کلمات پڑھنے مشکل ہیں بلکہ بعض مقامات پر سے سے غائب ہیں۔

دوسرा قلمی نسخہ جو کاملاً خط شکسته میں ہے۔ اس میں صرف لطیفے شامل ہیں۔ اور ایک آدھ جگہ خطوط میں تھوڑی سی روبدل یا یوں کہیے کہی بیشی ہے۔ اسی طرح آخری خط میں نسخوں کے اندر کوئی

مناسبت نہیں۔ البتہ آغاز، دیباچہ اور لطیفون کی تقسیم ویسی ہے جو نستعلیق والی نسخہ کی ہے۔ اس کی صفحات ۲۰۸ یعنی ۱۰۳ ورق ہیں۔ طرز تحریر میں انداز ویسی پرانا نقل کرنے والا ہے کہ تمام خطوط بغیر کسی پپراگراف، فل استاپ اور کاما کے ایک تسلسل میں لکھئے ہوئے ہیں۔ جس کے سبب ایک قاری کے لئے دقیق مطالعہ کے بغیر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کونسا خط کس کے نام ہے اور کہاں سے شروع ہو کر کہاں اختتام کو پہنچا۔ البتہ خط نستعلیق والی کاتب نے یہ رعایت ملحوظ خاطر رکھی ہے کہ سرخ روشنائی سے مکتوب الیہ کی نشاندہی کردی ہے۔ شکستہ والی نسخہ میں اس کا پتہ لگانا محنت طلب ہے۔ نسخہ کے آخری صفحہ کی عبارت:

"امید کہ بدوام عافیت باشند اشتیاق اعزاء کرام"

نہایت نیا یاد امید کہ عنقریب مراجعت شود یہ موجب تقدیر

ہمانها واقع میشود۔ امید کہ عنقریب دیدارها رو نماید۔

احوال فقیر بغیر و عافیت مقرر اسٹ۔ یہ ہمه خورد و

کلان دعا و سلام بوسانم والسلام۔ خدام اضافت و افادت

پناہی مودت و محبت اکاہی میان شیخ عیسیٰ دعا و نیاز

قبول فرمائند۔ برظہر چهار جز سواطع الالہام رقم غودہ

بودند۔ آن چہا از تفسیر سواطع الالہام بخدمت اخوت

پناہی ... افضل محمد ایقاہم اللہ تعالیٰ رسانند۔ چون راه

پر خطر بود و حوات در کین، از اجزاء را بعضی عامی از

اصل مسودہ کہ خواندن آن صعب یود نقل برداشتند۔ ثانی

الحال اگر فرصت نصیب باشد از بیاض نقل نمایند

والسلام الاکرام۔"

اختتام۔ تمام شد انشای ابو قبض فیضی فیاضی روز جمعہ بیستم شهر

جمادی الثاني ۱۴۲۰ ہجری بخط عامی ۰۰۰

اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ دونوں قلمی نسخوں کے درمیان پچاس سال کا فرق ہے۔

برٹش میوزم میں بھی "لطیفہ فیاضی" کا ایک قلمی نسخہ خط نستعلیق میں موجود ہے جو ۱۸۵۰ میں نقل کیا گیا۔ کیبلائگ میں دی گئی اطلاع کے مطابق یہ وہ خطوط ہیں کہ جو ۹۹۹ ہجری میں سفر دکن کے دوران فیضی نے اکبر بادشاہ کو لکھی۔ واقعہ چند کہ شیخ فیضی از سفر دکن بخدمت شہنشاہی نوشتہ۔ نسخہ کی ترتیب علیگڑہ نسخہ کے مطابق ہی ہے۔ ان خطوط کا ایک Lieut. H.M. ELLIOT کے لئے Extract. Prichard اور اس کا ایک Elliot's History of India As Told By Its Own Historians۔" ۱۲۶ صفحات پر مندرج ہے۔

لطیفہ فیاضی کا ایک اور نسخہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ کیبلائگ کی اطلاع کے مطابق یہ نسخہ بھی خط نستعلیق میں اور لطیفہ منظرقہ و خاتمہ پر مشتمل ہے۔ عالمگیر کی حکومت کے چوتھے سال یعنی ۱۶۶۲/۱۶۶۳ء میں کتابت کیا گیا لیکن کاتب کے نام کا پتہ نہیں چلتا۔

اپنی معلومات اور استعداد کے مطابق ان چار نسخوں کا اجمالی سا تعارف کرانے کے بعد علیگڑہ کے مکمل نسخہ کو زیر بحث لاتیں گے۔ مذکورہ نسخہ کے مطابق لطیفہ اول میں اکبر کے نام چہ عرضداشتیں ہیں۔ عرضداشت اول میں فیضی لکھتا ہے:

ذرہ نیست از هیچ فیضی اولاً روی ارادت بجانب  
آن قبلہ مراد که ظاهر و باطنش نظرہ گاہ خداوندی است،  
آورد سجدہ اخلاص مینماید بوضوی روحانی کہ دل را

بچشمہ ساز صدق و صفا بردن است از غبار رہا و وہ باست

نہ بابن طہارت سالوسان صومعہ ظلمت کہ چند قطرہ آب را  
دست د روی ریزندو دل را بہزار کدورت ... نفسانی  
بیامیزند این را پاکی نام نہند.

اپنے دور کیے ملا مولیوں کی خلاف جو خود فیضی اور اس کی  
خاندان کی پیچھیہ باقہ دھوکر پڑت تھی، ایک لطیف طنز اور اپنے تباہ ان  
کے زہد کی پردازی میں بلکی سے خراش ڈالنے کے بعد فیضی خط کے اگلے  
موڑ پر دعائیہ کلمات کا آغاز کر کے اپنی خاکساری، اطاعت گذاری اور کم  
مایگی کا اظہار کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

"ثانیا" دعای دوام عمر دولت و از دوام عمر دلی  
زندہ و باطنی بیدار قصد میکند کہ زندگی حقیقی ہمانست  
کہ پاکان الہی باآن زندہ اند و وفا را بکرہ سرا پرہ عشق  
راہ نیست. واز دولت ہم دولت دوام اگاہی مراد میدارد  
والحمد لله کہ ہر دو عمر و زندگانی و ہر دو دولت و کامرانی  
باآن حضرت حاصل است. اگرچہ امثال این دعا ہا مثل این  
نامرواد از ادب دور میعناید.

زبان کی جو خوبی، قدرت اور حسن، فیضی کی اس عبارت سے  
ظاہر ہے اس سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ چھوٹے چھوٹے سبک جملوں  
میں کس خوبصورتی اور چابکدستی کے ساتھ فیضی بڑے بڑے مضامین ادا  
کر گیا ہے۔ بلاشبہ فیضی کے خطوط میں ادبی چاشنی بھی ہے، زبان کی  
نزاكتیں اور لطافتیں بھی۔ ساتھ ہی محبت کی حلاوت بھی ہے اور جذبوں  
کی حرارت بھی۔ احساس کی نرمائی، ہے ساختگی اور ہے تکلفی کی آنج  
کی لگاؤت کے ساتھ ساتھ وہ تاریخی اطلاعات کا میمعن بھی ہیں۔ نیز اپنے  
دور کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کی امین بھی۔

سفر دکن اور گجرات کے دوران شیخ فیضی اپنی سفارتی خدمات کی انجام دہ کے ساتھ ہی ان ملکوں کی ایک ایک چیز کا دقیق اور تنقیدی نظر سے مطالعہ کرکے، اکبر کو اپنی عرضداشتیوں میں ان سے باخبر کرتا ہے۔ مثلاً ویاں کی رعایا کا حال کیا ہے، اس ملک کی پیداواریں کیا کیا ہیں۔ زمین کبیسی ہے، فصلوں کی کیا حالت ہے، قلعے کس رنگ میں ہیں، صنعت و حرفت کے کارخانے کہاں کہاں ہیں، راستوں کا انتظام کس طور پر ہے، عہدہ داران اپنی خدمات کس طرح انجام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ایک عرضداشت کے اندرجو فیضی نے اکبر کو اس وقت لکھی جب وہ ۹۹۱ ہجری میں گجرات کے باغبوں کا قلع قمع کرنے کے لئے گیا ہوا تھا۔ شهر اگرہ میں خود اپنے پہنچنے کی اطلاع کے بعد ویاں کے حالات آب و ہوا، قلعہ کی حالت نیز شاہ کے انتظار میں نہ صرف اہل شهر بلکہ خود شهر کی بیقراری کا بیان کرتے ہوئے عہدہ داران کا ذکر بھی ساتھ ہی ساتھ لے آتا ہے۔ ملاختہ ہو:

"اگرہ کہ صد هزار مصر و بغداد فدائی او باد،  
رسید شهری دید بغایت معمور و رمرفہ از لطافت۔ قلعہ  
عالی کہ حرمین حصین دولت اقبال است۔ چہ شرح دهد که  
حیرت افزای جہان نوردان تواند بود۔ از دریایی جون کہ  
بلب ادب پائی قله بوسیدہ میگذرد و چہ نویسد کہ آبروی  
ھفت اقلیم است:-"

باد وی از آب کو آرنده تر  
آب وی از باد کو آرنده تر  
از در و دیوار شهر شوق می بارد و درها چشم انتظار کشاده و  
دیوارها بتعظیم مقدم عالی ایستاده امید کہ مجدد از قدم حضرت  
کامیاب گردد۔" اگلی سطر میں لکھتا ہے "اطوار شاہ قلی خان و سلوی

او بغایت پستندیده است۔

ایک دوسری جگہ کسے بارے میں اطلاع دیتا ہے:

تلچی کہ یقوجداری مقرر شد، نزدیک به تنگی  
کوہ درمیان لدھیانہ و سرہند چسپیدہ است۔ دزدانی کہ از  
کوہ فرود میں آیندہ بہ اوہم حق نذری میں دھنند و می  
گذرند۔ ”

اس اطلاع کے بعد اس کیے کردار اور کارکردگی کے بارے میں  
تعریفی پیرائی کے اندر اشارہ کرتا ہے:

”بدات خود امانت و دیانت دار، باغها را بغایت  
دلکشی و خوب ساختہ، میوه، باغها، او بسیار ملائم  
ولذیذ اند، یکروز با یمنہ بسیار پیادہ گشت و گفت پیادہ  
میگردم تا بدانند کہ ہنوز پیرو خرف نشده ام و درخدمت  
تصبیر نمی کنم، اهل سرہند ازو آسودہ د خوشوت اند،  
دعای پندگان حضرت می کنند۔ ”

ایک اور اطلاع: ”یعقوب بدخش (حسینی) کروی تھانیسری  
خدمت فوجداری و عملداری تھانیسر و پرگنات آنچہ (هر) دو خوب  
میکند۔ ”

فیض جب بادل ناخواستہ دکن کی سفارت پر مامور تھا اور راجہ  
علی خاں نے اس کی سفارتی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے فیض کو اپنے  
پہنچنے کی اطلاع دی۔ فیض نے استقبال میں محفل آراستہ و پیراستہ  
کی اس کی اطلاع اکبر کو اپنی عرضداشت میں کس طور پر دیتا ہے۔  
ملاحظہ ہو:-

” ویرتخت شمشیر پادشاہی و خلعت خاصہ و

فرمان عالی گزاشتہ بود و بعضی مردم آراستہ گرد بر گرد

تحت دست بسته ایستاده بودند و اسپان انعام هم بایین لائق  
در نظر بودند. راجه علی خان با مردم خورد (خود) و کلان  
حکام دکن یا آداب و قواعد که لایق بندگی و دولتخواهی  
باشد، آمده، از دور پیاده شد. در سر اپرده که در مرتبه او گل  
بود بادب قام درآمد و با جمعیت خود پیشتر روان شد.  
چون بر ایزد دوم رسید تحت عالی از دور غوده تسلیم کرد،  
بر هنپا روان شد.

سفارشی طرز کی ایک اور اطلاع:

”د مهتر خان بندہ با اخلاص حضرت است. وجود  
او در این شهر لازم از احوال فقرا و مساکین شهر با خبر  
است.“

درج بالا بیانات نه صرف تاریخی اهمیت کیے حامل ہیں بلکہ ان  
میں فیضی کا ہے داغ، پر جلال اور نرم گوشوں سے معمور اعلیٰ ظرف بھی  
اجاگر ہو کر نظر آتا ہے۔

دوم عرضداشت میں حاکم احمد نگر کے بارے میں لکھتا ہے:-

”حاکم احمد نگر چهار ماہ کامل است کہ برسی  
جاگیر عادل خان رفته از احمد نگر مسافت هفتاد و پنج  
کرده، نشسته و برکنار آب ... که آبی است بزرگ و سرحد  
است. میان جاگیر هردو قلعه گلین ساخته و عادل خان حاکم  
بیجاپور هنوز در قلعه بیجاپور نشسته و لشکر خود را با  
شانزده هزار فرستاده هو روز جمعی از طرفین برآمده جنگ  
میکند و از جانبیں کشته می شوند.“

فیضی نہ صرف جنگ و جدال اور کارگزاران کی کارکردگی سے  
اکبر کو باخبر کرتا ہے بلکہ ویاں کی آب و ہوا پیداوار اور شهر کی حالت

بھی بیان کر جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

"بیرون شهر صلات خان بنایش باع ساخته فرج  
بخشنام و سرو بسیار دارد و عمارتی در میان حوض... و  
هوای این چندان گرم نیست در عین سلطان که تیر ماه الہی  
است شبها احتیاج به لحاظ نمیشود از خریزه خود اصلاً  
نیست، چیزی درشت بی مزه نمیشود که مردم اینجا  
میگفتند خریزه است. بنده خود باور نکرد از همه میوه ها  
الغیر اینجا بد نیست و انگور قمری دریک اقسام هم  
میشود. اما فراوان نہ، انسان از اطراف بسیار می  
آورند. نبرت پہل و کیله بسیار است. انبه اینجا بد نیست.  
گل سرخ بغاٹت کم و با وجود کمی، کم بوی هم... و دیگر  
گل های هندوستان بسیار است. درخت صندل در باعها  
نشان مید هند. درخت فلفل بسیار میشود... و پارچه  
با فان بی بدل اند۔ واژه همچیز دکن پارچه است که بتوان  
گفت و کاغذ و پارچه خوب در دو جامی سازند و می  
باشد."

مندرجہ بلا عبارت میں دو چیزیں شدت کیے ساتھ قاری کی توجہ  
اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ لفظ "پہل" اور "کیله" کا استعمال جو اس بات  
کی علامت ہے کہ فارسی ادب اس وقت تک هندی زبان سے متاثر ہو چکا  
تھا۔ اور اسی طرح هندی معاشرت سے بھی۔ ملاحظہ ہو:  
نشستہ بود تو مجلس، پان و خوشبو حاضر ساختہ شد۔"

مطلوب صاف ظاهر ہے کہ نہ صرف هندوستانی الفاظ و کلمات  
بلکہ یہاں کی تہذیب بھی ان کی نظرت میں رج بس گئی تھی۔ پان کی  
تواضع، جس کی جگہ اب معمولاً چائے نے لے لی ہے، بڑے بڑے کبار وقت

کے بیہان راجح نہیں۔ اسٹاد، پوچھ دیجئے کہ اس کا لفظ نہیں ہے۔

عرضداشتون کے بیچ بیچ فیضی کی شاعرانہ فطرت بھی کارگر  
نظر آتی ہے۔ بعض جگہ صرف دو ایک شعر اور بسا اوقات پوری کی پوری  
غزل نقل کردی ہے۔ یہ شرط بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھی کہ کلام صرف  
اپنا ہو۔ عرضداشت دوم کے بیچ ملاحظہ ہو فیضی کی یہ غزل جس کا اپنا  
پس منظر ہے اور جس کا مقطع و مطلع اس طریقہ ہے:

باز یاران طریقت سفری در پیش است

زہ سوردان بلا را خطری در پیش است

فیضی از قافله کعبہ روان بیرون نیست

این قدر ہست کہ از ناقدری در پیش است

ابک اور جگہ شعری ذوق ملاحظہ ہو:

ساقی و جام و می تو شہ دیراست اینجا

اللہ الحمد کہ احوال بخبر است اینجا

نکته عشق مپرسید کہ ہوشم باقیست

سخن از یار مگوبید کہ غیر است اینجا

تیسرا عرضداشت میں فتح کشمیر کی اطلاع دیتے ہوئے لکھتا

”مردم راتین کرد کہ ارابہ های شکر کردہ درجای بازار شادمانی  
نواختہ بخش کتند و با آواز بلند میگویند کہ شیرینی فتح کشمیر است کہ  
غلامان صاحب عالم فرمودند در این دیار رسم است والحق رسمی است  
شاپسته۔“

شہنشاہ اکبر کے نام ایک عرضداشت کا آغاز فیضی ایک فطری و  
قلبی بیقراری، ہے تکلفی اور ہے ساختگی کی ساتھ کرتا ہے جو القاب و  
آداب کی روایت سے بوجھل نہیں:

ذرہ بیقرار و قطرہ بی اختیار فیضی، آدای

سجود پیشانی و تسلیم روحانی۔

اسی طرح فیضی کے اکثر و بیشتر خطوط غالب کی طرح القاب و آداب کی قبید سے بالکل بے نیاز ہیں۔ چند غونے بطور مثال:-

حضرت مولوی از اشتیاق شما سوختم۔ چون یاد

شما میکنم، دود از نهاد من می آید۔ یارب امکان ملاقات

ہست یا نہ؟

ایک دوسری جگہ:-

محبت نامہ گله آمیز، شکایت ریز کہ رقم پذیر

شدہ، رسید۔ شبیدز مرود را تازیانہ اخلاص زد۔ شوق

مخمر انشای تازہ بخشید۔ نسبت خواب آلوہ را بیدار

ساخت۔

مولانا شیخ عبدالحق کے نام دوسرے خط میں لکھتا ہے۔ کیے عامل

فریاد کہ دوریم ز مطلوب دل خویش

کہ یہ چہب کر چند انکہ دراز است زبان طلب ما

هرگز نسبیم با آنجانب غنی وزد کہ تراشہ از جگر یاد همارا ہی غنی

کند" (کبھی بھی کسی ابھی باد نسبم کے جھونکے وباں نہیں چلتے کہ

جس میں میرے جگر کے تراشے، ذروں کی مانند شامل نہ ہوں ۱۰)

ایک اور جگہ خط کا آغاز شعر سے القاب و آداب ندارہ:

رسنی دل من در فراق ممکن نیست

اگرچہ نامہ و قادر ہزار می آید

زبان و بیان کی کیسی دل اویزی اور محبت کی کیسی تزپ اور

کسک ہے کہ دل متاثر پسے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔

لطیفہ چہارم کا پہلا مکتوب نواب نظام الدین احمد بخشی کے  
نام ہے۔ فیضی کی فطری بے تکلفی نمایاں ہے: "لذتِ حکیم عین المک کا  
غزل تعلیٰ رابطہ معنوی چہ گوید کہ از شرح بیرون است. " اسی خط میں آگئے چل کر لکھتا ہے:-

"از یاران دمساز و غم خوار گان همراز که دل از  
صحبت او آب می خورد، مولانا عرفی شیرازی است:  
نسبم صبح کہ دیوانہ وار میگذری  
ندامت زکدامن دیار میگذری

شیخ مباری کے خاندان پر اکثر و بیشتر دین سے بے برہ ہونے  
کا الزام آتا ہے۔ لیکن منطقہ سوم میں شیخ مباری کا خط فیضی کے نام  
اس الزام کی تردید کرتا نظر آتا ہے:

"بعداز ادائی دعائی بقای ایمان کامل کہ اجل نعم الہی و سرمایہ  
سعادت" منطوقات کا دوسرا خط ابوالفضل کا اپنی بھائی فیضی کے نام  
ہے:

"این نامہ ایست از ابوالفضل کہ ناشکیباپی وا  
فرامیں فراهم آورہ، ہم غمزدہ ہم غم گسار است بسوی آن برادر  
بزرگ صوری و معنوی کہ مزاجش مرہم ناسور جراحت  
روزگار مرہمش شفا بخش معلومان امید گستہ ہر دیار  
است." تسبیح نہ کرنا قابل بخوبی مانے یا مانے

تبسرا خط حکیم عین المک کا شیخ فیضی کے نام ہے: "بک فطری و  
تواب افادت و افاضت بناء رفت و مکرمت  
اداب درستگاه ملاذی ملک الشعرا در پناہ خدا باشند" مانے یا مانے

چوتھا خط مولانا ظہوری کا شیخ فیضی کے نام ہے۔ پانچواں خط حکیم ہمام کا فیضی کے نام ہے۔ اس کے بعد ورق ۱۱۲ سے خاتمه شروع ہوتا ہے۔

بہر حال ان خطوط سے نہ صرف تاریخی، ادبی، معاشرتی معلومات حاصل ہوتی ہیں بلکہ ان حضرات کی شخصیات بھی ابھر کر سامنے آجاتی ہیں جن کا اپنے دور میں ایک خاص مقام تھا۔ اور ساتھ ہی اکبر کی ذات پر بعض تھمتوں کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اکبر کے سر بہت سے الزامات کے ساتھ ساتھ یہ فرد جرم بھی عائد کی جاتی ہے کہ وہ خود کو سجدہ کرتا تھا۔ فیضی کے خط سے صاف اس بہتان کی تردید ہوتی ہے۔

ملاحظہ ہو:-

امام حکم اشرف بدین سجدہ نیست هر گاہ خاصان سے لے 5  
در گاہ از فرط اخلاص سر بسجود برند منع من فرمایند که  
سجدہ لا یق در گاہ خداوندیست۔

فیضی کے خطوط اس اعتبار سے بھی ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ خطوط اس نقطہ نظر سے ضبط تحریر میں نہیں لاتے گئے تھے کہ یہ چھپ کر عوام کے پاتھوں میں پہنچیں گے یا اپنے دور کے شاهد عینی بنیں گے اس لئے ان کو سجاستوار کر پیش کریں اور حقیقت سے دور کی باتیں کی جائیں۔ اس لئے ان خطوط کی سچائی اور معصومیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔

فیضی کے خطوط کا مقابلی مطالعہ اپنے بھائی ابوالفضل کے رقعات کے ساتھ اہم دلچسپ تجزیہ ہوگا، بشرط حیات و فرصت۔

فیضی کے خطوط کا مقابلہ کاہل لا  
بمحضہ رہن لے رہن لے رہن کاہل لا  
رہن مفت رہن لے رہن لے رہن کاہل لا

## مقالاتیکہ برای دانش دریافت شد

- ۱- فارسی غزل کا ارتقا نجیب جمال اردو ملتان
- ۲- امیر خسرو دہلوی اور پروفیسر ممتاز حسین کراچی نظام الدین اولیاء کے تعلقات کی نوعیت
- ۳- علامہ سید نجیب اللہ شاہ امام راشدی لارکانہ
- ۴- مساوات انسانی در انقلاب اسلامی ایران دکتر مهر عبدالحق فارسی
- ۵- فارسی زبان و ادب پر عرب حملے کے اثرات
- ۶- فارسی زبان کی تدریس اور تحقیق کیے مسائل
- ۷- پیدائش و گسترش سلسلہ چشتیہ سلیمان صدیقی فارسی تهران در دکن متترجم محسن مدیر شانہ چی
- ۸- سهم عرفا در آداب دکتر کلیم سہرامی فارسی راجشاہی اجتماعی مردم بنگال
- ۹- بر صغیر میں قرآن حکیم دکتر وفا راشدی کا پہلا مکمل فارسی ترجمہ
- ۱۰- سرانبکی پر فارسی کے اثرات خاور نقوی

مقالاتی برای دانش دریافت شد

- ۱۱- ڈھاکے کے فارسی گو شاعر کنیز بتوں لیکچرر یونیورسٹی اردو ڈھاکہ  
سید محمد باقر طباطبائی، حیات و شاعری

۱۲- طنز و مزاح در دکتر خواجه عبدالحمید یزدانی فارسی لاہور  
شعر خاقانی ابیہ ویحہ

۱۳- فارسی نثر میں سید صدر علی شاہ اردو اوکاڑا  
اخلاق ناصری کا مقام

۱۴- وحشت کی فارسی شاعری، دکتر وفا راشدی اردو کراچی



## کتابهای که برای معرفی دریافت شد

- ۱- ثلثه غسالہ حکیم حبیب الرحمن ناشر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد
- ۲- تحفیلات غوثیہ دکتر محمد اختر چیما
- ۳- عصری فارسی شاعری اور شعراء ذاکر سید احسن الظفر
- ۴- جدید فارسی شاعری ذاکر سید محمد تقی علی عابدی
- ۵- پروین اعتصامی حالات اور شاعری
- ۶- فارسی شاعری میں طنز و مزاج ذاکر خواجه حمید بزدانی
- ۷- زبان فارسی در آذربایجان دانشمندان و زبان شناسان پروفسور محمد منور
- ۸- غزل فارسی علامہ اقبال
- پیدائش و کشتش سلسلہ جستہ سلیمان صدیقی فارسی تهران  
در دکن
- سهم عرفنا در آداب دکتر کلرم سپرهاں فارسی راجشاہی اجتماعی مرودم بیگانہ
- پرسنلیتی میں قرآن حکیم دکترو فنا راشدی کا پہلا سکھل فارسی ترجمہ
- سراتکس پر فارسی کیمی اثرات خاور عوری

## خانخانہ نامہ

تاریخی تدبیر و ادب و فلسفہ

فوجی کتب خانہ

جعفریہ علی پور

## مهران نقش

سندھ کا بڑا تاریخی اقتدار کا انتہا  
سندھ کا اولین اسلامی کتابخانہ  
تاریخی تدبیر و ادب و فلسفہ

ڈاکٹر وقار عاشدی

مکتبہ اشاعت اردو کراچی

فارسی شاعری میں

## طنز و مزاح

بیرونی میر جوہر

## نگارشات

میال سیپریز ۳۱ پیش رو و لایہ

## خطبات بہاولپور

کاظمیہ

ادارہ تحریفات اسلامی

الجامعة الإسلامية العالمية (اسلامیہ) — پاکستان

## موضوعات قرآن

## انسانی زندگی

تحریکیہ عبد الرحمن

ادارہ تحریفات اسلامی

الجامعة الإسلامية العالمية (اسلامیہ) — پاکستان

## زبان فارسی

در  
آذر ریاضیان

در پروپریتی پاکستان

ادارہ تحریفات اسلامی

الجامعة الإسلامية العالمية (اسلامیہ) — پاکستان

پاکستان

پاکستان

پاکستان — ۱۹۹۰

## فلسفہ توحید



توحید، جناب اللہ اکابر سین کپیلوی

نشر جعفریہ دارالتبیین سانے کالا لاہور

## عصری فارسی شاعری

## شہزادہ

ڈاکٹر نیدم ان افسوس

پاکستان — ۱۹۹۰



**13. Saif bin Umar al Tamimi (d. 180 A. H.)**, the writer of **Futuh-ul-Kabira**, **Kitab-ul-Jamal** and **seerat-e-Ayesha wa Ali**.

There had been a number of other too who belong to the categories of the scholars of history, Akhbar, Lineage and narration. Prof. Jawad Ali has made a mention about some of them by instalments under the title of **CASES OF THE TABARIS HISTORY** in the **AL-MAJMA UL ILMI AL IRAQI Magazine**.

(Summary of the article presented in the international seminar on "Tabari" held on 13th to 15th September 1989 at Babulsar (Mazandaran) Iran.)

And after it comes the translation of Tabari which was completed in the year 359 A. H.

(1) **MUJAMUL-U-LAHAWI** (Volume 1) Composed 8  
520 A. H Edited by the late poet Muhibat Bahar  
printed, Isfah, 1318 A. H.

ii. Translation of **Tabari's History** by  
Muhammad al-Balami (Part concerning Iran) along  
with 805 to 806 A. H. and its translation into English  
by Dr. S. M. Rizvi, published by the Institute of  
Advanced Islamic Studies, Isfahan, 1362 A. H.  
**TABARI'S SOURCES**.

i. **Ibn-e-Kalabi**, the author of 147 books and 2500  
are extinct - also writer of **Kiab-e-Muluk-Tawali-wa-**

- Kitab ul Avayil.(d. 204 or 206 A. H).
2. Abdullah Ibn-ul-Muqaffa (d. 140 A. H). out of the books translated by Ibn-ul-Muqaffa from pehalvi into Arabic, only a few have reached us. The important translation was that of Khudainama which is not available now.
- Other of his works are Aeen Namak, Kitab-e-Mazzak wat bns taj-e-Seerat-e-Anushirwan and Kalila Dimna.
3. Ibn-e-Qutayba Abu Abdullah Muhammad bin Muslim Al-IQARI Deenwari (d. 270 or 276 A. H). He wrote the Kitab Uyun-ul-Akhbar and Al-Maarif.
4. Seyar Muluk 1 Ajam.
5. Seyar ul Ajam
6. Qasas ul-Muluk-ul-Mazia Wal-umam 'ul Salefah.
7. Nehayat-ul-Arab fi Akhbar-ul-Faras wal Arab.
8. Sha abi (d. between 103 to 150 A. H).
9. Abul Bukhtari (d. 200 A.H).
10. Kitab-ul-Tareekh by Ibn-e-Kharadbeh.
11. Al. Maisam bin Ady Abu Adbur Rehman (d. 206 or 207 A. H) - author of Kitab-e-Akhbar al Faras and Kitab-e-Tareekh-ul-Ajam and Kitab ul Tareekh ulus sineen, which is considered to be the oldest book relating to events given in a chronological order. This book is no longer available.
12. As Sirri Bin Yahya.

appears that the translation was done after fifty years of the writing of that book. There may be difference in the Year as to when the translation was completed but there can be no doubt that the work of translation was taken in hand during the Year 352 A. H. as described in the book MUJMA-UL-TAWAREEKH WAL QISAS.

## **DOCUMENTAL EVIDENCE IN PERSIAN PROSE.**

After the booklet written by Hakim Abul Qasim bin Muhammad Samargandi (d. 343 A. H) expounding the Hanafi Jurisprudence, and preface of SHAHNAMA-E-MUNSURI (TRANSLATION) the history of Tabari was translated.

INTRODUCTION TO SHAHNAMA-E-ABU MANSURI (compiled 346. A. H) is the oldest existing evidence in Persian prose. And after it comes the translation of Tabari, Which was completed in the Year 335 A. H.

- (1) MUJML-UL-TAWAREEKH WAL QASAS, Compiled 520 A. H Edited by the late poet laureate Bahar, printed, Iran, 1318 A. H. pp. 180.

- ii. Translation of Tabari's History by Abu Ali Muhammad al-Balami (Part concerning Iran), along with introduction and marginal notes, under care of Dr. Muhammad Jawad Mashkoor, print-Tehran 1337 A. H. Introduction page-25.

## **TABARI'S SOURCES.**

1. Ibne-ul-Kalabi, the author of 140 books, most of which are extinct - also writer of Kitab-e-Muluk-Tawaif-wa-

as the 12th volume of Tabari's history. It contained the selection of the appendix of specified appendices written by the comrades and followers of Muhammad Jarir al-Tabari and was published at Egypt in 1236 A. H. A third time it was again published at Cairo with the above mentioned appendices in the year 1358 A. H under the supervision of a group of selected scholars.

Herbel has written in his "NATIONS OF THE EAST" that the credit of initially introducing Tabari goes to Erpinieus who translated the summary of Tabaris History in Latin. Zottenham published the persian translation of this book rendered by Balami in four volumes.

Another German orientalist Lolakay translated a portion of this book relating to the history of the sasanids from Arabic into German Language and published the same from Lydon in 1179 A. D alongwith preface and marginal notes.

## UTILIZATION.

Although Tabaris history has been an indispensable for almost all the historians who followed him, Yet Ibn-e-Miskwayh and Ibn-ul-Athir seem to have greatly benefitted in as much as they laid the foundation of their historical works on the ground prepared by Tabari.

Balami started translating this work during the reign of Sassanid monarch Malik SADID ABU SALEH MANSUR Ibn-e-NOOH (350-356 A. H) when he held the position of a minister. Tabari in his original history has dealt with the events upto 302 A.H and it was due to Balami that further events upto 355 A. H were also added to it. It is also possible that he might have completed the translation the same Year. Thus it

## DANESH

---

the pre-Islamic days of this history in German language along with its valuable appendices and the marginal notes. This book was published in the year 1979 A. D under the title 'HISTORY OF THE IRANIANS AND THE ARABS UNDER THE SASANIDS.' Happily, this most valuable book with its exact translation has been published in the series of INTESHARAT-E-ANJUMAN-E-ATHAR-E-MILLI through the efforts of Doctor Abbas Zaryab Khooyee, professor of Tehran University.

In Iran, the credit goes to the late poet lauraete Bahar who, for the first time, induced the Ministry of Education and Culture to publish the translation of Tabari's History ascribed to Balami, especially its portion dealt with pre-Islamic era which narrates the history of prophets and monarchs. It is a matter of great pity that the book could not come out of the press during the life time of Bahar and thereafter in the Year 1341 A. H it was printed under the able management of prof: Muhammad Parveen Gunabadi with preface and diligent corrections as well.

As to the last translation of Tabari's History attributed to Balami under the title TAREEKH NAME-E-TABARI was published at Tehran in the year 1366 A. H Comprising of three volumes under the supervision of Aqa-e-Muhammad Roshan.

Abu Ali Muhammad al-Balami, the sasanid minister rendered Tabaris history in Persian during the year 352 A. H Later it was translated into Turkish language and was published in 1260 A. H at Astana. This book was first printed by De-Goye, the Hollander orientalist in 13 volumes with the help of some orientalists from 1876 to 1901 A. D to the original text of the book he also added a preface, an index and marginal notes. Then along with the printing of eleven volumes of Waslat-ul-Tareek-e-Tabari, this book was also got printed under the care of Yousuf Bay Mahmood to be termed

al-Katib al Qurtabi which was published at Lydon in 1897 A. D and at Egypt in 1327 A. H. It includes all those events and occurrences which mark the end of Hijra Year 365.

## TRANSLATIONS AND PRINTS.

In addition to the translation ascribed to Balaami, Another translation of Tabaris History, especially the part relating to Iran, was published and circulated in 1337 A. H along with the preface and marginal notes by Dr. Muhammad Jawad Mashkoor under the management of KITABKHANA-E-KHAYYAM. Apart from this, the portion concerning the History of Iran prior to Islam, from the very beginning upto the 31st year of Hijra being the translation of Sadiq Nishat was published by the BUREAU OF TRANSLATION AND BOOK PRINTING in the year 1351 A. H.

Similarly, the entire text of the TAREEKH-E-TABARI was first printed under the care of late Abul Qasim Payanda in 14 volumes during the year 1352-54 A. H through the support of Iranian Cultural foundation and after the Revolution it was again got published by the publication House of Modern Mythology.

Tabaris's History did not, however, escape the perview of the orientalists. De-Goye, the eminent orientalist of Holland has got its Arabic Text printed with the help of some his co-workers.

Even somewhat earlier to him, Erpilineus (d. 1584-1624 A. D) and Herrmann Zottenberg had also managed to get some portions printed of the Tabaris History. The German orientalist, theodore Noldke had also got it printed. Being a close associate of De-Goye, he rendered the part concerning

## DANESH

---

renowned books written from the advent of Islam to his own times, Tabari has offered them in a most systematic and scientific manner and in this presentation, the author has tried his utmost to keep himself impartial. Undoubtedly this is one of Tabari's stupendous and monumental achievement due to which he enjoys a distinguished place among the historiographers. The qualities possessed by him are not found in any other historian of Tabari's time and that is why no historiographer could succeed in his undertaking without benefitting from Tabari since Tabari is found so rich and abundant in the domain of event recordings. Tabari himself reviewing his book says:-

"These are the very informants which were narrated to me and I am to describe the same. Informations regarding the predecessors were conveyed to us by the people who neither saw them nor knew anything about the occurrences of those times. They were either informants or mere narrators. In their informations and narrations, if they had not made use of the philosophical extraction or intellectual deduction and something as a result thereof appears in my book which has been quoted from predecessors and which is not accepted by the reader today, then it should be taken for granted that it was almost not baseless and it was conveyed to us by some of the narrators and we quoted it we got it."

Haji Khalifa, the author of KASHF-UZ-ZUNUN wrote that Abu Muhammad al-Farghani has written an Appendix on TAREEKH-TABARI which gained celebrity under the title of al-Silat. Another Annexion was also compiled by Abdul Hasan Abdul Malik Hamadani (d. 521 A. H.) in which he included the events relating to 487 A. H and it was named TUKMALA-E-TAREEKH-E-TABARI.. A supplement to the history of Tabari, the most important of all the appendices written on Tabari's history is the Kitab us Silat Tareekh Ul Tabari of Ibn-e-Saad

the person who participated in the event (under description) himself or had been a witness to it or possessed its first hand knowledge or the event had itself been confirmed by a group of the people. Besides this, Tabari has also mentioned few ordinary, unimportant and obviously unconcerned events here and there and yet the same are of a considerable importance for the student of history.

TAREEKH-E-TABARI does not stand only excellent in regard to its various capacities, it is also a compendium which contains extracts from some of the rare and valuable works of Islamic era, which are now extinct. Apart from this the best extracts derived from Kaab al-Ahbar, Abdullah bin Salam, Qatada, Mujahid, Abdullah Ibn-e-Abbas, Abu Mikhnaaf, Al-Zahri and Ashja'is sayings have also been preserved in it. No other book can compete with Tabari history as far as the extracts of these golden sayings are concerned.

Annals is another branch of historiography whereby the author is bound to record the events chronologically. This is not a new way rather an old fashion of the yore. Apart from Babylonians and Assyrians even the Egyptians made use of it and the historians of ancient Greece and Rome had also followed this system. In this system the historian has to be particular about the chronological order while writing events. Tabari has also followed this system and kept to it all through. If the event is a bit lengthy, Tabari had given its summary first and thereafter he described the part of that event in the year when it took place and so on and so forth till the year when that event came to its last end.

After all this discussion, we can easily conclude that TAREEKH-E-TABARI is rare collection of the writings and important historical source of the early period of Islam. Making out a great and deep research of the extracts of

him from ancestors or based it one what he got from the writings of predecessors. In the last portion, however, Tabari has refrained to mention the names of narrators notwithstanding the fact that these events are either of his own time or a little earlier and thus they had been more authentic and dependable. It may be the demand of political situation or Tabari himself might have refrained to name the narrators because of their own liking.

### **TABARIS STYLE.**

He adopted the method of having gathered together the principles and all those points on which the scholars differ have been supported by such traditions which happen to be authentic. This was indeed a very delicate situation and Tabari has thus been successful in the upkeep of his non-partiality. He has no responsibility for the tradition beyond reporting it. He recorded the traditions as he got from his Sheikh and in case he got the same traditions from certain other sources he quoted them in Verbatim without adding anything from his own side. This is a good way of dissertation. I could say, as it leaves a vast arena for the reader to adjudge, think and then decide himself. He has carved out a reflective path so that by keeping in view all the traditions relating to a particular event, the differences lying therein should be first clearly understood and then a conclusion is drawn. Quoting a number of traditions regarding a single event is indeed the function of a prolific writer like Tabari. The latter traditionists who followed in his work made him an outstanding personality of the historians world. This is the very fact that makes his book of history higher and superior in the eyes of the experts in historiography. He was himself a traditionist and started his education with learnings of Hadith. As such he is the original source of the traditionists style in writing history. He is very careful in the art of documentation while compiling traditions. The reliable narrator unto him is either

the patronage of the Government all turned against Tabari. There had also been a time that due to some differences arising out from the explanation of certain Quranic verses. A crowd of people had besieged his house and he had to keep himself within it until the Baghdad Police suppressed this tumult. Yet his opponents could not sit still and pronounced him as KAFIR which badly spoiled his name and fame. Yaquat-e-Hamvi has written Tabaris state of affairs in his book IRSHAD quoting from two other books - one written by Abdul Aziz bin Muhammad Tabari in memory of his father and the other one was written by a pupil Abu Bakr bin Kamil in memory of his teacher.

## BOOKS AND COMPILATIONS.

He had such a strong desire for writing that he continuously wrote forty pages daily for forty years. All of his books are not available. What we have got is the Exegesis of the Holy Quran - JAME-UL-BEYAN FI TAFSIR UL QURAN, in which a good store of authentic AHADITH has been collected.

This commentary is a compendium of knowledge and sciences for historians and critics. Apart from this he has to his credit AKHLAQ-UL-FUQAHAA, Tehzeeb-ul-Asar both relating to Hadith and Kitab-ul-Eteqad. Another of his stupendous work is the world's history which is entitled as TARIKH ul UMUM WAL MULUK and had become famous under the name of AKHBAR-UR-RASUL WAL MULUK. Thanks to Almighty Allah that this oldest book of history remained safe from the vicissitude of time. Almost all the matter concerning the subject has been collected in this book. It contains all that happened from the very creation upto 302 A.H i.e 915 A.D. Extracts of such rare books have also been preserved in it which are now extinct. In its compilation, Tabari has either relied upon those traditions which reached

age. Having received his primary education at his town place, his father sent him for further education to the famous educational centers of the Islamic world. He stayed at Ray for some time and then proceeded to Baghdad. He had learnt some Islamic literature from Muhammad bin Hameed Razi from whom Imam Ahmad bin Hambal, Ibn-e-Maja and Tirmizi had been benefitted. Al-Tabari had a likeness to see Imam Ahmad bin Hambal but as ill luck would have it, he could not meet him as he died a few days ago. Then he left for Basra and Koofa. Again he visited Baghdad and having stayed there for a few days returned to Egypt while on his way to Egypt he made a short sojourn at Damascus for learning Hadith. Having equipped himself with the knowledge of Hadith when he reached Egypt, his fame and renown had reached far and wide. From Egypt he came back to Baghdad where he spent his entire life. During this period he visited Tabaristan twice and breathed his last at Baghdad in 923 A.D. i.e. 25th of the month of Shawwal 310 A.H.

## **TABARIS RELIGIOUS INCLINATION.**

On his return from Egypt, Tabari remained a follower of Shafiiite sect for about ten years. Thereafter he established his own religious jurisprudence of which the followers were termed as JARIRIYA after the name of his father. This sect was also known as TABARIYA in relation to TABARI. It is quite evident from his religious jurisprudence that Tabari has differed much in branches than in doctrines from Imam Shafii and the result was that the sect he introduced soon came to an end. It may be said that his differences with Imam Ahmad bin Hambal are more based on principles and that is why he acknowledges Imam Ahmad bin Hambal as MUHADDITH and not MUJTAHID. The result of holding such a strong difference to the way of Imam Ahmad was that the followers of Imam Hambal who were in majority at Baghdad and also enjoyed

## COLLECTION OF TRADITIONS IN AN UNCRITICAL MANNER.

The histories above mentioned mostly contained a collection of traditions and events devoid of any personal opinion of the historians. It was left for the readers to draw out any conclusions no criticism of any kind was made by the writer, since Historiography was initiated by the traditionalists.

So, historical events were also recorded like AHADITH quoting from reliable narrators.

## NOBLES MENTIONED NOT COMMONERS.

Moreover, these histories deal with people of high status as lords, sultans, chieftains and nobles hardly mentioning any thing about the common man. Those in power were dealt in full details and so poorly had been described the weakers as if they had no place in the history. To tell the truth, most of the historians led a life of adversity but the history they wrote was not their own - it was of their kings and Lords.

## BIOGRAPHICAL SKETCH OF AL-TABARI.

Abu Jaffar Muhammad bin Jarir al-Tabari was born at Amul (Mazandran) of Taberistan province in 839 A.D i.e. end of 224 or the beginning of 225 A.H. From his very childhood he devoted himself towards seeking knowledge and committed to memory the entire Quran when he was only seven years of

## DANESH

---

rendered into Arabic. A number of books and magazines written in Hindi, Pehalvi, Latin, Greek and Syric were translated in Arabic which enriched the historical literature. Among these translators Abdullah bin Al-Muqaffa (d.140 A.H) stands the most renowned who rendered the non-Arabic events into Arabic language, (Al-Fehrist, PP. 172). Al-Balazri (d.279 A.H) translated the Ardsher period from Pehalvi language into Arabic verse, (Al-Fehrist, PP. 164). Then a time came when Islam having broken all the geographical and tribal limitations formed a vast brotherhood which brought it in contact with people of different nationalities who spoke different languages. thus the historians got a large quantity of events as historic reserve. The Quranic dictate, 'TRAVEL THROUGH LAND' and the saying of the Holy Prophet, 'SEEK KNOWLEDGE EVEN IF IT IS IN CHINA' and the like AYAT and AHADIDH increased the enthusiasm of travelling and touring among the Islamic world. This also helped the learned men and scholars to travel from one place to another to seek knowledge and preach religion. The scholarly people got themselves engaged with writing of history. Their social status enhanced and now they were no more termed as Akhbarees since this title was now reserved only for the story tellers.

Among the Scholars of third century after Hijra, we come across Ibn-e-Qutaibah (d.276 AH) Al-Balzari (d. 279. A.H), Al-Yaqoobi (d. 284. A.H), Deenawar (d.290 A.H) and Muhammad bin Jarir-al-Tabari, the author of TARIKH-UL-UMUM WAL MULUK (d. 310 A.H). Of all these al-Tabari was the outstanding. Besides being a historian, he was also Exegetist and Jurisconsult. In the world of Historiography, al-Tabari is followed by al-masoodi (d.446. A.H), Ibne-e-Miskwahy (d.421 A.H), Ibn-e-Athir (d.630 A.H), Abdul fida (d.273 A.H) Ibn-e-Khalladun (d.808 A.H) and this stands to the credit of Ibn-e-Khulldun, that first of all he discussed at length the philosophy of history. Similarly the person who recorded the Islamic events in a date-wise order was Haisam bin Ady (d. 207 A.H) and al-Tabari had also followed him in his work.

PP. 84).

Those who used to narrate the events of the pagan period were known as al-Akhbaress because those events were termed as AKHBAR. One who indulged in narrating tradition (hadith) was called MUHADDIS (Traditionalist) and this class was considered more dependable in comparison with Akhbarees. Some traditionalists also used to be Akhbarees and as historians were considered to have specialised themselves in some branch of history. For example, Abu Mikhnaif was taken as an expert and specialist as far as the events and news of Iraq were concerned. Similarly al-Madayani specialised in the affairs of Khurasan, Hind and Persia whereas al-Waqidi exerted himself of the history of Hejaz and the seerat of the Holy Prophet.

## EXPANSION OF THE SUBJECT OF HISTORY IN ISLAM.

History was constituted of the following three parts during the early days of Islam.

1. News relating to predecessors.
2. Conditions of the Arabs before the advent of Islam.
3. Seerat of the Holy Prophet of Islam.

But with establishment of an Islamic Government a fourth part was also included. i.e. Islamic Government

4. The news pertaining to Islamic government was also added and thus the scope had been further widened. Further, which added more strength to Historiography in the beginning of Islam was the translation of books in other languages

## DANESH

---

understanding. Thus the Islamic Revolution had opened new vistas of vision for the development of Historiography.

Among the new learning generated by Islam, one is that of the art of writing a connected historical account, prior to which no such account appears to have existed in any part of the world. In the third century after Hijra when Abu Jaffer Muhammad bin Jarir al-Tabari wrote Tarikh-ul-Umam wa'al-Muluk the compilation of Hadith literature by that time was at its Zenith. The well known traditionists like Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nisaee and Ibn-e-Maja all belong to the third Century A.H. All of them are known as al-Akhbarees and al-Tabari among them was the greatest historian of his time.

It is an established fact that Historiography among Muslims started with copying down of the doings and the sayings of the Holy Prophet. So, the way which was prevalent for describing Hadith, the same continued for a long time to relate the historical events. This means that the recording of an event must be narrated by the evidence of an onlooker or the person who witnessed the evenit.

In Islam, the predecessors in this skill were the Holy Prophet of Islam in his Khutbat Ali Ibn-e-Abi Talib in his Nehj-ul-Balaga, Urva bin Zubair (d.93 A.H.) - (al-Alam - Zarkali, PP. 638), Abu Saeed Aban (d. 86. A.H.) (Fehrist' Ibn-e-Nadeem, PP. 45) and Wahab bin Munnubba (d. 110 A.H) (al-Alam-Zarkali, PP. 1140) behind them came Muhammad bin Ishaq, d. 152 A.H) (Al-Fehrist, PP. 136) who took to seerat writing. He was the very historian whose illustrious work was summarized by Ibn-e-Hisham (d.128 A.H.). He was followed by Omar-al-Waqidi (d. 207 A.H) who wrote something about seerat and from whom Ibn-e-Sa'ad had quoted some traditions. Besides them were the traditionist Abul Hasan al-Madayani (d.225 A.H) (Al-Fehrist, PP. 147) and Abu Mikhnaf (d. 157 A.H), the writer of the MUQTAL-E-HUSSAIN and other books ALKUNI and AL-ALQAB, Sheikh Abbas Qummi, [Vol. 1

Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi



# AL-TABARI

- A HISTORIAN

## HISTORIOGRAPHY IN ISLAM

The art of Historiography had gained the attention of the Muslims during the First Hijra century. The introduction of Islam was, in fact, a great revolution which started from Mecca in Arabian peninsula. The early preachings of the Holy Prophet of Islam in Mecca which later transformed into Defensive Wars, Ghazwat and Saraya at Medina were such revolutionary events of which the news travelled far and wide. The people were eager to hear and know as to how this change was brought about. Moreover, the revelation of the Holy Quran and the occurrences according to its dictates as expressed by Hadith, sayings of the Holy Prophet, were all being committed to writing or memory for knowledge and

# DANESH

QUARTERLY JOURNAL

Chief Editor:

Cultural Counsellor Islamic Republic of Iran

Editor:

Dr. Syed Sibte Hasan Rizvi

Honorary Advisor:

Dr. S. Ali Raza Naqvi

Published by:

Office of The Cultural Counsellor  
EMBASSY OF THE ISLAMIC  
REPUBLIC OF IRAN

House No. 25, Street No. 27, F/6-2  
Islamabad, Pakistan.  
⑦ 818204/818149

# DANESH

Quarterly Journal

of the  
Office of the Cultural Counsellor  
**Islamic Republic of Iran,**  
Islamabad

SUMMER 1990  
(Sl. No. 22)

A collection of research articles  
with background of Persian Language  
and Literature and common cultural heritage  
of Iran, Afghanistan and Indo-Pak Subcontinent.

